

مزید اضافہ، عنوانات و تصحیح، نظر ثانی شدہ جدید ایڈیشن

# الشمس والہدایہ

شرح اردو

## ہدایۃ



اضافہ عنوانات

مولانا محمد عظیم اللہ  
پیشوا دارالافتاء پاکستان

تالیف

مولانا جمیل احمد سکروڈھوی  
مدیر دارالعلوم دیوبند

[besturdubooks.wordpress.com](http://besturdubooks.wordpress.com)

مکتبہ  
دارالاشاعت

لاہور پاکستان 2213768



زیداضافہ عنوانات و تصحیح نظر ثانی شدہ جدید ایڈیشن

وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (القرآن)  
اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں راہِ راست بتلا دیتے ہیں

# اثر و الہدایہ

شرح اردو

## ہدایۃ

جلد ہفتم

کتاب السیر

تا

فصل فی وقف المسجد

تالیف: مولانا سید امیر علی رحمۃ اللہ علیہ

اضافہ عنوانات: مولانا محمد عظیم اللہ  
رفیق دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی

[besturdubooks.wordpress.com](http://besturdubooks.wordpress.com)

اردو بازار ایم ایس جنرل روڈ  
کراچی پاکستان 2213768

دارالاشاعت

مزید اضافہ عنوانات و تصحیح، نظر ثانی شدہ جدید ایڈیشن

اضافہ عنوانات، تسہیل و کمپوزنگ کے جملہ حقوق بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں

باہتمام : خلیل اشرف عثمانی  
طباعت : ۲۰۰۵ء علمی گرافکس کراچی  
ضخامت : 265 صفحات  
کمپوزنگ : منظور احمد

### قارئین سے گزارش

اپنی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ البتہ اللہ اس بات کی نگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ازراہ کرم مطلع فرما کر ممنون فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

### ..... ملنے کے پتے .....

ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی	ادارہ اسلامیات ۱۹۰۔ انارکلی لاہور
بیت القرآن اردو بازار کراچی	بیت العلوم 20 نا بھر روڈ لاہور
ادارۃ اسلامیات موہن چوک اردو بازار کراچی	مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ B-437 ویب روڈ سبیلہ کراچی	مکتبہ امدادیہ فی بی ہسپتال روڈ ملتان
بیت القلم مقابل اشرف المدارس گلشن اقبال بلاک ۲ کراچی	یونیورسٹی بک اینڈ جنسی خیر بازار پشاور
بیت الکتب بالمقابل اشرف المدارس گلشن اقبال کراچی	کتب خانہ رشیدیہ۔ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راولپنڈی
مکتبہ اسلامیہ امین پور بازار۔ فیصل آباد	مکتبہ اسلامیہ گامی اڈا۔ ایبٹ آباد

مکتبۃ المعارف محلہ جنگلی۔ پشاور

### انگلینڈ میں ملنے کے پتے

**Islamic Books Centre**  
119-121, Halli Well Road  
Bolton BL 3NE, U.K.

**Azhar Academy Ltd.**  
At Continenta (London) Ltd.  
Cooks Road, London E15 2PW

## فہرست عنوانات

### کتاب السیر

۱۹	السیر کا لغوی اور شرعی معنی
۱۹	جہاد کا حکم
۲۰	ترک جہاد کا گناہ
۲۲	نفیر عام کے وقت جہاد کا حکم
۲۲	جہاد اقدامی کا حکم
۲۳	بچے، غلام، عورت، نابینا، لنگڑے، پاؤں کٹے ہوئے پر جہاد فرض نہیں
۲۳	جب دشمن اسلامی شہر پر چڑھ دوڑیں تمام پر جہاد فرض ہے
۲۴	بیت المال میں مال ہوتے ہوئے چندہ کا حکم
۲۴	باب کيفية القتال
۲۵	مسلمان دارالحرب کے کسی شہر یا قلعہ کا محاصرہ کر لیں تو دعوت اسلام دیں، محصورین کے قبول کر لینے پر قتال ترک کر دیں
۲۵	دعوت اسلام قبول کرنے پر قتال ترک کر دیں
۲۵	دوسرے مرحلہ پر جزیہ کا مطالبہ کریں
۲۶	جزیہ پر رضا مند ہو جائیں تو کیا لیا جائے
۲۶	جب تک دعوت اسلام نہ پہنچے قتال نہ کریں
۲۷	دوبارہ دعوت اسلام کا حکم
۲۷	کفار اسلام قبول کرنے اور جزیہ دینے سے انکار کر دیں تو استعانت باللہ سے حملہ شروع کر دیں
۲۸	منجیق نصب کرنے کا حکم
۲۸	پانی چھوڑنے، درخت کاٹنے اور کھیتی اجاڑنے کا حکم
۲۹	کفار کے پاس مسلمان قیدی ہوں ان پر تیر اندازی کا حکم
۲۹	کفار مسلمانوں کے بچوں اور مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنائیں تب بھی تیر برسائے جائیں
۳۰	عورتوں اور مصاحف کو لشکر اسلام لے کر نہ نکلیں
۳۱	عورت کیلئے خاوند اور غلام کیلئے آقا کی اجازت کا حکم
۳۲	غدر، غلول اور مشلہ کا حکم
۳۲	



۳۳	عورت، بچے، بوڑھے، مقعد، اعمیٰ کو جہاد میں قتل نہ کیا جائے
۳۴	مذکورہ بالا لوگوں کو کب قتل کرنے کی گنجائش ہے
۳۴	میدان جہاد میں مجنون کو بھی قتل نہ کیا جائے
۳۵	مجاہد اپنے باپ کو پیش قدمی کر کے قتل نہ کرے
۳۵	باپ نے بیٹے کو اور بیٹے نے باپ کو پالیا اور آمنہ سامنا ہوا تو کیا کریں
۳۶	بَابُ الْمُوَادَعَةِ وَمَنْ يَجُوزُ أَمَانُهُ
۳۶	امام کیلئے اہل حرب کیساتھ صلح کا حکم
۳۷	صلح کر کے مدت معینہ کے بعد صلح کو توڑنے کا حکم
۳۸	کفار نقض عہد میں پہل کریں تو امام بھی ان سے مقاتلہ کرے
۳۹	امام کیلئے مال کے عوض کفار سے صلح کا حکم
۴۰	مرتدوں سے صلح کرنے کا حکم
۴۰	قبولیت اسلام کی امید پر قتال میں تاخیر کی بحث
۴۱	مرتدوں سے مال کے عوض صلح کا عدم جواز
۴۲	مرتدوں سے مال لیکر صلح کرنے کا حکم
۴۲	مال غیر معصوم کی حقیقت
۴۳	محاصرے کی حالت میں مرتدوں کا مسلمانوں سے صلح کا عوض طلب کرنا
۴۴	وجوب دیت کی شرائط
۴۴	حربی کافروں کو ہتھیار بیچنے کا حکم
۴۵	فصل
۴۵	مسلمان مرد عورت کے لئے کافریا جماعت کفار یا قلعہ والوں یا شہر والوں کو امان دینے کا حکم
۴۶	امان دینے میں نقصان کا خطہ - ہو تو امان توڑنے کی خبر دیدی جائے
۴۶	ذمی کے امان دینے کا حکم
۴۶	قیدی اور تاجر کے امان دینے کا حکم
۴۹	عبد مجبور امان دے سکتا ہے یا نہیں، اقوال فقہاء
۵۱	صَبِيٌّ لَا يَعْقِلُ کی امان کا حکم
۵۲	باب الغنائم و قسمتها
۵۲	وہ شہر جس کو امام نے عنوةً فتح کیا ہو مال غنیمت کیسے تقسیم کرے

- ۵۵ وہیں کے باشندوں کو جزیہ اور خراج لیکر برقرار رکھنے کا حکم
- ۵۶ مفتوحہ علاقہ کے لوگوں اور اموال کے ساتھ کونسا معاملہ کرنا اولیٰ ہے
- ۵۷ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے
- ۵۷ قیدیوں کو غلام بنانے کا بھی اختیار ہے
- ۵۷ سربراہ مملکت کیلئے جنگی قیدیوں کو از روئے احسان دارالحرب کی طرف رہا کرنا جائز نہیں
- ۵۹ قیدیوں کے بدلے جزیہ لینے کا حکم
- ۶۱ قیدیوں پر احسان کرنے کا حکم
- امام دارالاسلام لوٹنے کا ارادہ کرے اور اس کے ساتھ مولیٰ ہوں اور وہ انکو منتقل نہ کر سکے تو ان کیساتھ کیا سلوک کیا جائے
- ۶۱ مال غنیمت کی تقسیم دارالحرب میں یا دارالاسلام میں؟
- ۶۲ میدان جنگ میں براہ راست قتال کرنے والا اور مدد کرنے والا برابر ہیں
- ۶۲ مال غنیمت دارالاسلام لانے سے پہلے مکہ پہنچ گئی وہ بھی مال غنیمت میں شریک ہوں گے
- ۶۵ لشکر کے بازار والوں کیلئے مال غنیمت میں حصہ نہیں
- ۶۵ مال غنیمت کا استحقاق مجاہد کی پیدل یا سواری کی حالت پر ہے
- ۶۵ مال غنیمت لانے کیلئے امام کے پاس سواریاں نہ ہوں تو مجاہدین کو سارا مال بطور امانت دیدے
- ۶۶ تقسیم سے پہلے مال غنیمت بیچنا جائز نہیں
- ۶۶ دارالحرب سے پائے ہوئے چارہ سے اپنے جانوروں کو کھلائیں اور کھانے پینے کی چیزیں خود بھی کھائیں
- ۶۸ دارالحرب کی لکڑیوں کو استعمال میں لانے کا حکم
- ۶۸ تقسیم سے پہلے جو بھی ہتھیار ملیں ان کو لیکر قتال کریں
- ۶۸ اسلحہ بیچنے اور جمع کرنے کا حکم
- ۶۹ دارالحرب میں کوئی کافر اسلام قبول کر لے اس کا حکم
- ۷۰ مسلمان دارالحرب پر غالب آجائیں تو دارالحرب کی زمین مال فیء ہے
- ۷۰ کافرہ حربیہ بھی مال فیء ہے
- ۷۱ دارالحرب میں جو حربی کے ہاتھ میں ہے وہ بھی مال فیء ہے
- ۷۱ مسلمان یا ذمی کے قبضے میں جو بطور غصب ہے وہ بھی مال فیء ہے
- مسلمان جب دارالحرب سے نکل جائیں تو مال غنیمت سے جانوروں کو چارہ کھلانا اور خود مال غنیمت سے کھانا
- ۷۳ ناجائز ہے



۷۳

جس کے پاس پہلے کا چارہ یا کھانا بچا ہوا ہو وہ مال غنیمت میں جمع کرادے

۷۵

فَصْلٌ فِي كَيْفِيَةِ الْقِسْمَةِ

۷۵

امام کیلئے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ

۷۵

فارس اور راجل کیلئے کتنے حصے ہیں، اقوال فقہاء

۷۸

غازی کیلئے ایک گھوڑے کا حکم

۷۹

عربی اور عجمی گھوڑے حصے میں برابر ہیں

مجاہد سواری پر دارالحرب میں داخل ہوا اس کا گھوڑا مر گیا یا وہ مجاہد جو پیدل دارالحرب میں داخل ہوا اور پھر گھوڑا خریدا

۷۹

ان کو کتنا کتنا حصہ ملے گا

۸۱

ایک مجاہد گھوڑے پر دارالحرب میں داخل ہوا لیکن جگہ کی تنگی کی وجہ سے پیدل قتال کیا اس کو کتنا حصہ ملے گا

۸۱

غلام، عورت، بچے، مجنون، ذمی کیلئے مال غنیمت کا حکم

۸۲

خمس کی تقسیم کا طریقہ

۸۳

خمس کو اللہ کیلئے آیت میں مقدم کرنے کی حکمت اور آپ ﷺ کے حصے کا حکم

۸۳

خمس سے فقیر کو دینے کا حکم

۸۵

ایک دو آدمی دارالحرب میں داخل ہو کر لوٹ مار کر کے آئیں ان سے خمس نہیں لیا جائے گا

اگر ایک جماعت ذی طاقت دارالحرب میں امام کی اجازت کے بغیر داخل ہو کر لوٹ مار کر کے لائی ان سے خمس لیا

۸۵

جائے گا

۸۶

فَصْلٌ فِي التَّنْفِيلِ

۸۶

تنفیل کا حکم

۸۶

مال غنیمت جب جمع ہو کر دارالاسلام آجائے پھر تنفیل درست نہیں

۸۷

خمس سے تنفیل دینے کا حکم

۸۷

خمس سے تنفیل نہ دینے کی دلیل

۸۸

سلب کی تعریف اور اس کا حکم

۸۸

امام نے یہ کہا کہ جس نے باندی پائی اسی کی ہے غازی نے مسلمان باندی پائی اس سے وطی کا حکم

۸۹

بَابُ اسْتِیْلَاءِ الْكُفَّارِ

۸۹

استیلاء الكفار کا حکم

۸۹

کفار مسلمانوں کے جانوروں پر غالب آگئے اور دارالحرب لے کر چلے گئے مال کے مالک بنیں گے یا نہیں

۹۱

مسلمان دوبارہ انہی چھینے ہوئے مال پر غالب آگئے تو تقسیم سے قبل پہلے مالکوں کیلئے بغیر کسی عوض کے لینے کا حق ہے

اگر تاجر دارالحرب میں گیا اور وہی مال خرید کر لے آیا تو پہلے والے مالک نے جتنے میں تاجر سے خریدا ہے اتنے میں خرید لیں

۹۱

کفار کسی مسلمان کے غلام کو گرفتار کر کے لے گئے اور اسے دوسرا مسلمان خرید کر دارالاسلام لے آیا اور کسی نے اس کی آنکھ پھوڑ دی اس کی دیت وصول کر لی گئی پہلے مالک کیلئے خریدنے کا حکم

۹۲

کفار نے کسی مسلمان کے غلام کو قید کیا پھر دوسرے مسلمان نے اسے خرید لیا پھر دوبارہ اسے گرفتار کر لیا گیا اور دوبارہ خرید اگیا مالک اول کیلئے واپس لینے کا حکم

۹۳

۹۴

اہل الحرب ہم پر غالب آجائیں تو ہمارے مدبر امہات الولد، مکاتب اور آزاد کے مالک نہیں بنیں گے کسی مسلمان کا مسلمان غلام دارالحرب میں بھاگ گیا اور انہوں نے پکڑ لیا تو وہ اس کے مالک بنیں گے یا نہیں،

۹۴

اقوال فقہاء

۹۵

مسلمانوں کا کوئی جانور بدک کر چلا جائے اور وہ اسے پکڑ لیں تو جانور کے مالک بن جائیں گے غلام اپنا ساز و سامان لے کر حربیوں کی طرف بھاگ گیا حربیوں نے گرفتار کیا اور ایک مسلمان غلام کو بیع سامان خرید کر لے آیا مولیٰ غلام کو بغیر کسی عوض کے لے لے اور گھوڑے اور سامان کو دشمن کے بدلے خریدنے لے حربی امان لے کر دارالاسلام داخل ہوا اور مسلمان غلام کو خرید کر دارالحرب لے گیا وہ غلام آزاد ہو گا یا نہیں

۹۶

اقوال فقہاء

۹۷

حربی کا غلام مسلمان ہو گیا پھر دارالاسلام آ گیا تو وہ آزاد ہے

۹۷

### بَابُ الْمُسْتَأْمِنِ

۹۷

مسلمان تاجر دارالحرب میں امان لے کر داخل ہو جائے اس کیلئے ان کے اموال کے ساتھ تعرض کا حکم

۹۸

مسلمان تاجر ممانعت کے باوجود غدر کر کے کوئی چیز دارالاسلام لے کر آ جائے تو وہ اس کا مالک ہو گا یا نہیں

مسلمان دارالحرب میں امان لے کر داخل ہوا اور کسی نے اسے مال بطور قرض دیا یا اس نے بطور قرض دیا یا مسلمان

نے یا حربی نے ایک دوسرے کا مال غصب کیا پھر وہ مسلمان دارالاسلام سے نکل آیا اور وہ حربی بھی دارالاسلام امان

۹۸

لے کر آ گیا ایک دوسرے کو مال واپس کریں گے یا نہیں

۹۹

اگر دونوں حربی مسلمان ہو کر دارالاسلام آ گئے قرض ادا کرنے کا حکم دیا جائے گا

مسلمان امان لیکر دارالحرب میں داخل ہوا اور حربی کی کوئی چیز غصب کر لی پھر حربی مسلمان ہو کر اس مسلمان کے

۱۰۰

ساتھ دارالاسلام آیا اسے واپسی کا حکم دیا جائے

دو مسلمانوں نے امان لیکر دارالحرب میں داخل ہو کر ایک دوسرے کو قتل کر دیا خطا ہو یا عمدہ تو قاتل پر مقتول کی دیت لازم

۱۰۰

ہوگی اور یہ دیت عاقلہ پر لازم نہیں ہوگی

۱۰۱

اگر مسلمان قیدی دارالحرب میں ایک دوسرے کو قتل کر دیں تو دیت قاتل پر لازم ہوگی یا نہیں



- ۱۰۲ فصل فی استیمان الکافر
- ۱۰۲ حربی کے لئے دارالاسلام میں امان لیکر کتنی مدت ٹھہرنے کی اجازت ہے
- ۱۰۳ امام کے کہنے کے باوجود وہ ایک سال ٹھہرا رہا تو وہ ذمی ہوگا
- ۱۰۳ حربی دارالاسلام میں امان لیکر داخل ہوا اس نے خراجی زمین خریدی اس پر خراج لگایا گیا تو وہ ذمی ہے
- ۱۰۴ حربیہ امان لیکر داخل ہوا اور ذمی سے نکاح کر لے تو وہ ذمیہ ہوگی یہی حکم مردکا ہے
- ۱۰۴ حربی امان لیکر دارالاسلام میں داخل ہوا پھر دارالحرب لوٹ گیا اور کسی مسلمان یا ذمی کے پاس امانت یا دین چھوڑ کر گیا پھر لوٹ کر دارالاسلام آیا تو وہ مباح الدم ہے
- ۱۰۴ اگر وہ حربی قتل کر دیا گیا اور مسلمان دارالحرب پر غالب نہ آ سکے تو اسکا چھوڑا ہوا قرض اور امانت اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگی
- ۱۰۵ مسلمانوں نے جو اموال دھمکا کر اور بغیر قتال کے پیش قدمی کر کے حاصل کئے وہ مسلمانوں کی مصالحت میں خرچ کئے جائیں گے
- ۱۰۵ جب حربی دارالاسلام میں امان لیکر آیا اور مسلمان ہو گیا تو اسکی دارالحرب میں بیوی بچے اور مال و دولت تھی اور مسلمان دارالحرب پر غالب آ گئے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائیگا
- ۱۰۶ اگر حربی دارالحرب میں مسلمان ہو گیا پھر دارالاسلام آیا اور مسلمان دارالحرب پر غالب آ گئے تو اسکی صغیر اولاد آزاد مسلمان ہوں گے
- ۱۰۷ جب حربی دارالحرب میں مسلمان ہو گیا مسلمان نے اسے عدا یا خطا قتل کر لیا اور مقتول کے ورثاء دارالحرب میں موجود ہیں نہ قصاص لازم ہے نہ دیت
- ۱۰۷ جس نے مسلمان کو خطا قتل کر دیا یا ایسے حربی کو قتل کیا جو دارالاسلام میں مسلمان ہو چکا تھا دیت کس پر لازم ہے
- ۱۰۹ اگر عدا قتل کر دیا امام کو قتل اور دیت کا اختیار ہے
- ۱۰۹ بَابُ الْعُسْرِ وَالْخِرَاجِ
- ۱۱۰ عشری اور خراجی زمین کی تعیین
- ۱۱۰ سواد عراق کی زمینوں کا حکم
- ۱۱۱ عشری زمین کی تعریف
- ۱۱۱ خراجی زمین کی تعریف
- ۱۱۲ وہ زمین جو قہر اور طاقت سے حاصل کی گئی اور نہروں کے پانی سے سیرجی گئی وہ خراجی ہے
- ۱۱۲ ارض موات کب خراجی ہوتی ہے
- ۱۱۳ ارض موات

۱۱۳	دانگی ناقابل کاشت زمین
۱۱۳	افتادہ زمین
۱۱۳	خالصہ زمین
۱۱۴	ارض موات (بجز زمین) کے عشری و خراجی ہونے کا حکم
۱۱۵	ارض موات کب عشری ہوتی ہے
۱۱۵	زمین میں خراج مقرر کرنے کا معیار
۱۱۶	کھیت اور باغ کے خراج مقرر کرنے کا معیار
۱۱۶	محصول کی مقدار پیداوار برداشت نہ کر سکے تو امام محصول میں کمی کر سکتا ہے
۱۱۷	خراجی زمین پر سیلاب آگیا یا قحط سالی ہوگئی یا پانی ختم ہوگیا یا کھیت پر آفت آگئی خراج ساقط ہو جائے گا
۱۱۸	مالک زمین نے اسے بے کار چھوڑ دیا تو خراج ساقط نہ ہوگا
۱۱۸	اہل خراج میں سے جو مسلمان ہو گیا اس سے خراج لیا جائے گا
۱۱۸	مسلمان ذمی سے ارض خراج خرید سکتا ہے یا نہیں
۱۱۸	خراجی زمین کی پیداوار میں عشر نہیں
۱۲۰	پیداوار کے مکرر ہونے سے خراج مکرر نہیں ہوگا
۱۲۱	بَابُ الْجَزِيَّةِ
۱۲۱	جزیہ کی اقسام
۱۲۲	جزیہ کی تعریف
۱۲۲	امام شافعی کا نقطہ نظر
۱۲۳	اہل کتاب اور مجوس پر جزیہ کا حکم
۱۲۳	عجمی بت پرستوں پر جزیہ کا حکم
۱۲۵	جزیہ لینے سے پہلے مسلمان غالب آجائیں حربی اور انکی عورتیں اور بچے مال فنی ہیں
۱۲۵	عربی بت پرستوں اور مردوں پر جزیہ نہیں ہے
۱۲۵	مسلمان مشرکین عرب اور مردوں پر غالب ہو جائیں تو انکی عورتیں اور بچے مال غنیمت ہیں
۱۲۶	مرد مسلمان نہ ہو تو قتل کیا جائے گا انکی عورتوں اور بچوں پر جزیہ نہیں ہے
۱۲۶	لنگڑے، نابینا، مفلوج پر جزیہ نہیں
۱۲۷	غلام، مکاتب، مدبر، ام ولد پر جزیہ کا حکم
۱۲۷	راہب جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتے پر جزیہ کا حکم



جزیہ دینے والا اسلام لے آیا تو جزیہ کا حکم

۱۲۸

دو سالوں کے جزیہ میں تداخل ہے

۱۲۹

سال پورے ہونے پر وہ فوت ہو گیا جزیہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا

۱۲۹

### فصل

۱۳۱

دارالاسلام میں نئے سرے سے بیعہ اور کنفیسہ بنانے کی اجازت نہیں

۱۳۱

بیعہ اور کنفیسہ منہدم ہو جائے اسکا اعادہ کر سکتے ہیں

۱۳۱

ذمیوں کو وضع قطع میں ممتاز رہنے کا حکم کیا جائے گا

۱۳۲

جزیہ سے انکار کرنے، مسلمان کو قتل کرنے، حضور علیہ السلام کو گالی دینے یا مسلمان عورت سے زنا کرنے سے معاہدہ ختم نہ ہوگا

۱۳۳

دارالحرب چلے جانے سے عہد ٹوٹ جائے گا

۱۳۴

وہ ذمی جو نقض عہد کر لے وہ مرتد کی طرح ہے

۱۳۵

### فصل

۱۳۵

نصاری بنو تغلب سے مسلمان کی زکوٰۃ کا دگنا لیا جائے گا

۱۳۵

بنو تغلب کی عورتوں سے وصول کیا جائے گا بچوں سے نہیں

۱۳۵

تغلبی کے مولیٰ پر خراج عائد کیا جائے گا

۱۳۶

خراج، اموال بنی تغلب اور اہل الحرب کے امام کو دیئے ہوئے ہدایہ اور جزیہ کو مصالح المسلمین میں خرچ کیا جائے گا

۱۳۷

جو سال کے درمیان فوت ہو جائے اس پر کچھ لازم نہیں

۱۳۷

### بَابُ أَحْكَامِ الْمُؤْتَدِّينَ

۱۳۸

کوئی شخص مرتد اور بے دین ہو جائے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے

۱۳۸

تین دن تک قید میں ڈالا جائے مسلمان ہو جائے تو فبھا ورنہ قتل کر دیا جائے

۱۳۸

اسلام پیش کرنے سے پہلے قتل مکروہ ہے

۱۳۹

مرتدہ کی کیا سزا ہے

۱۴۰

باندی مرتدہ ہو جائے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے

۱۴۱

مرتدہ کا ملک اپنے اموال سے زائل ہو جاتا ہے

۱۴۱

مرتدہ حالت ارتداد میں مر گیا قتل کر لیا گیا تو حالت اسلام کی کمائی ورثہ کو ملے گی

۱۴۲

حالت ارتداد کے ورثہ وارث رہیں گے

۱۴۳

مرتدہ کی کمائی اس کے ورثہ کو ملے گی

۱۴۴

- ۱۴۴ حالت مرض میں عورت مرتد ہو جائے تو مسلمان خاوند وارث ہوگا
- ۱۴۴ مرتد ہو کر دار الحرب چلا گیا یا قاضی نے لحوق کا فیصلہ کر دیا تو اسکے مدبر امہات الاولاد اور دیون کا حکم
- ۱۴۵ مرتد مقرض کا قرض کس طرح ادا کیا جائے گا
- ۱۴۷ مرتد کی حالت ردت میں خرید و فروخت اور لین دین کا حکم
- ۱۴۹ امام کا مرتد کے دار الحرب کا فیصلہ کر دینے کے بعد وہ مسلمان ہو کر دار الاسلام لوٹ آیا تو جو مال وارثوں کے پاس پائے وارثوں سے واپس لے لے
- ۱۵۰ مرتد نے نصرانیہ باندی سے وطی کی جو حالت اسلام میں اس کے پاس تھی چھ ماہ سے زائد پر بچہ لے آئی تو اسکی ام ولد ہوگی
- ۱۵۰ مرتد اپنا مال لیکر دار الحرب چلا گیا پھر مسلمانوں نے اس پر فتح پا کر مال لے لیا تو وہ مال غنیمت ہے
- ۱۵۰ مرتد دار الحرب چلا گیا اور دار الاسلام میں اسکا غلام ہے جس کے بارے میں قاضی نے اسے مل جانے کا فیصلہ کیا پھر بیٹے نے اس غلام کو مکاتب بنادیا اس کے بعد وہی مرتد مسلمان ہو کر واپس آ گیا غلام کے مکاتب بنانے کا حکم
- ۱۵۱ مرتد نے ایک آدمی کو خطا قتل کر دیا پھر دار الحرب چلا گیا یا اپنی ردت کی بناء پر قتل کیا گیا دیت کیسے ادا کرے گا
- ۱۵۱ کسی مسلمان کا عمدہ ہاتھ کاٹا گیا اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا پھر اپنی حالت ردت میں مر گیا یا دار الحرب سے مل گیا پھر مسلمان ہو کر آیا پھر مر گیا تو قاطع پر کتنی دیت لازم ہے
- ۱۵۲ اگر دار الحرب نہیں گیا پھر مسلمان ہونے کے بعد مر گیا تو قاطع پر پوری دیت واجب ہوگی
- ۱۵۳ مکاتب مرتد ہو کر دار الحرب چلا گیا وہاں مال کمایا پھر اسے مال سمیت گرفتار کیا گیا انکار اسلام پر قتل کر دیا گیا، مال کا حکم
- ۱۵۴ مرد اور عورت دونوں مرتد ہو کر دار الحرب چلے گئے عورت نے حاملہ ہو کر بچہ جنا پھر اس بچہ کا بچہ ہوا پھر مسلمان نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا تو دونوں بچے مال غنیمت ہوں گے
- ۱۵۵ نابالغ سمجھدار بچوں کا اسلام قبول کرنا اور ارتداد قبول کرنا صحیح ہوگا یا نہیں
- ۱۵۸ بَابُ الْبَغَاةِ
- ۱۵۹ مسلمانوں کی ایک جماعت ایک شہر پر غلبہ حاصل کر لے اور امام کے خلاف علم بغاوت بلند کر دے انکو اطاعت امام کی دعوت دی جائے گی اور شبہات کو دفع کیا جائے گا
- ۱۶۱ باغیوں سے ابتداء قتال کی ممانعت
- ۱۶۲ باغیوں کی مددگار جماعت کیساتھ کیا سلوک کیا جائے
- ۱۶۲ باغیوں کے بچوں کو قیدی اور انکے اموال کو تقسیم نہیں کیا جائے گا
- ۱۶۳ باغیوں کے اموال کو روکنے کا حکم



- باغیوں نے مسلمانوں کے علاقے پر غالب پا کر خراج اور عشر وصول کر لیا امام فتح پانے کے بعد دوبارہ عشر و خراج وصول نہیں کرے گا ۱۶۴
- باغیوں کے لشکر میں ایک نے دوسرے کو مار ڈالا پھر امام کسی وقت ان پر غالب آ گیا تو قاتل پر قصاص یا دیت کچھ بھی واجب نہیں ہوگا ۱۶۵
- باغیوں کی جماعت کسی شہر پر غالب آ گئی پھر میں سے ایک نے دوسرے شہری کو قتل کر دیا قاتل سے قصاص لیا جائے گا ۱۶۶
- اہل عدل میں سے کسی نے اپنے مورث باغی کو قتل کر دیا قاتل وارث ہوگا ۱۶۶
- اہل فتنہ کے ہاتھ ہتھیار بیچنا مکروہ ہے ۱۶۸
- کتاب اللقیط ۱۷۱
- لقیط کی وجہ تسمیہ اور لقیط اٹھانے کا حکم ۱۷۱
- لقیط آزاد ہے ۱۷۱
- سب سے پہلے اٹھانے والا زیادہ مستحق ہے ۱۷۲
- کسی نے لقیط کے نسب کا دعویٰ کیا کب معتبر ہوگا؟ ۱۷۲
- دو مدعیوں نے نسب کا دعویٰ کیا اور ایک نے اس کے جسم پر علامت بتائی وہ زیادہ حقدار ہے ۱۷۳
- بچہ مسلمانوں کے شہروں میں کسی شہریا بستوں میں سے کسی بستی میں پایا گیا اور ذمی نے نسب کا دعویٰ کیا نسب ذمی سے ثابت ہوگا اور بچہ مسلمان ہوگا ۱۷۳
- بچہ اہل ذمہ کی بستیوں میں سے کسی بستی میں یا بیعہ یا کنیسہ میں پایا گیا تو ذمی ہو گیا ۱۷۳
- کسی نے لقیط کے بارے میں غلام ہونے کا دعویٰ کیا اس کا قول قبول نہیں ہوگا ۱۷۴
- غلام نے لقیط کے نسب کا دعویٰ کیا تو قبول ہوگا ۱۷۴
- آزاد کے دعویٰ غلام کے مقابلے میں اور مسلمان کے دعویٰ کو ذمی کے مقابلے میں ترجیح ہوگی ۱۷۵
- لقیط کے ساتھ بندھا ہوا مال ہو تو وہ بچہ کا ہوگا ۱۷۵
- لقیط پر مال خرچ کرنے کا اختیار قاضی کو ہے ۱۷۵
- بچہ کا اس مال سے نکاح جائز نہیں ۱۷۵
- ملتقط لقیط کے مال کو کاروبار میں لگا سکتا ہے یا نہیں ۱۷۶
- ملتقط لقیط کیلئے بہنہ پر قبضہ کر سکتا ہے ۱۷۶
- ملتقط کیلئے لقیط کو پیشہ اور ہنر سکھانے کا حکم ۱۷۶
- ملتقط کیلئے لقیط کو کرایہ اور مزدوری پر لگانے کا حکم ۱۷۶

کتاب اللقطة

۱۷۹

لقطہ کی حیثیت

۱۷۹

لقطہ کا اعلان کتنے دن تک کیا جائے گا

۱۸۰

لقطہ ایسی شی ہو جو زیادہ دیر نہ رہ سکتی ہو اس کیلئے کتنی تعریف ضروری ہے

۱۸۱

لقطہ معمولی شی ہو جس کو مالک تلاش نہیں کرے گا، ملتقط بغیر اعلان کے نفع اٹھا سکتا ہے

۱۸۱

اعلان کے بعد مالک لقطہ نہ آئے تو لقطہ کو صدقہ کر دیا جائے

۱۸۱

لقطہ صدقہ کرنے کے بعد مالک آجائے تو کس کو ضامن ٹھہرائے گا

۱۸۲

ملتقط کو ضامن ٹھہرانے کا بھی اختیار ہے

۱۸۲

مسکین کو کسب ضامن ٹھہرا سکتا ہے

۱۸۲

بکری، گائے، اونٹ کے لقطہ کا حکم

۱۸۳

ملتقط نے بغیر اجازت حاکم کے لقطہ پر خرچ کیا متبرع شمار ہوگا

۱۸۳

قاضی کے پاس لقطہ کو لے جایا گیا قاضی کیا فیصلہ کرے گا

۱۸۵

اگر لقطہ ایسی شی ہو کہ جس میں منافع نہ ہوں اور خرچ اس کی قیمت کو ختم کر سکتا ہے، حکم

۱۸۵

اگر لقطہ پر خرچ کرنے میں مصلحت ہو تو خرچ کی اجازت دیدے اور نفقہ کو مالک پر دین کر دے

۱۸۵

مالک حاضر ہو جائے تو ملتقط مالک کے نفقہ حاضر کرنے تک لقطہ کو روک سکتا ہے

۱۸۹

حل اور حرم کے لقطہ کا حکم

۱۸۹

کوئی آدمی لقطہ کا دعویٰ کرے اسے کب لقطہ حوالہ کیا جائے

۱۹۰

ملتقط لقطہ کے مالک کو سپرد کرتے وقت کفیل بنالے

۱۹۲

غنی پر لقطہ کو صدقہ کرنا درست نہیں

۱۹۲

غنی ملتقط لقطہ سے انتفاع نہ کرے

۱۹۳

ملتقط فقیر لقطہ سے انتفاع کر سکتا ہے

۱۹۵

ملتقط کا فقیر باپ، بیٹا، زوجہ انتفاع کر سکتے ہیں

۱۹۵

کتاب الإباق

۱۹۷

بھاگے ہوئے غلام کو پکڑنے کا حکم

۱۹۷

بھاگے ہوئے غلام کو مولیٰ پر واپس کرنے والے کو کچھ ملے گا یا نہیں

۱۹۷

غلام کی قیمت چالیس درہم سے کم ہو تو واپس لانے والے کو کتنے دیئے جائیں گے

۱۹۹

ام ولد و مدبر رقیق کے حکم میں

۱۹۹



- ۲۰۰ غلام کو لوٹانے والا مالک کا بیٹا یا اسکے عیال میں ہو یا زوجین میں ایک دوسرے پر لوٹائے اس کیلئے جعل نہیں
- ۲۰۰ مالک کے پاس لانے والے سے غلام بھاگ جائے تو اس کو کچھ لازم نہیں
- ۲۰۱ مولیٰ نے غلام کو دیکھتے ہی آزاد کر دیا، آزاد کرنے کی وجہ سے حکماً قابض ہوگا لہذا لانے والے کا جعل لازم ہوگا
- ۲۰۱ آبق غلام رہن ہو تو جعل مرتہن پر ہے
- ۲۰۲ غلام ابق مدیون ہو تو قرضہ مولیٰ پر ہے
- ۲۰۲ ابق نے کوئی جنایت کی تو مولیٰ پر جنایت کا تاوان لازم ہوگا یا نہیں
- ۲۰۳ ابق موہوب ہے تو جہل موہوب پر ہے
- ۲۰۳ بچے کے بھاگے ہوئے غلام کو لایا گیا تو جعل بچے کے مال میں ہے
- ۲۰۵ ۱ کتاب المفقود
- ۲۰۵ مفقود کی تعریف
- ۲۰۶ جس مال کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہو اسے بیچا نہ جائے
- ۲۰۶ مفقود کے مال سے بیوی اور اولاد پر خرچ کیا جائے
- ۲۰۷ مال کا مصداق
- ۲۰۷ ودیعت اور دین سے خرچ کیا جائے گا
- مودع اور من علیہ الدین نے قاضی کے فیصلے کے بغیر خرچ کیا تو مودع ضامن ہوگا اور مدیون دین سے بری نہیں ہوگا
- ۲۰۷ مودع اور مدیون منکر ہوں پھر کیا حکم ہے
- ۲۰۸ مفقود اور اس کی بیوی کے درمیان کب تفریق کی جائے گی، اقوال فقہاء
- ۲۰۸ مفقود کی موت کا کب حکم دیا جائے گا
- ۲۱۰ موجودہ ورثا میں مال تقسیم کیا جائے گا
- ۲۱۰ مفقود کی موت کے حکم سے پہلے کوئی فوت ہو گیا وارث نہ ہوگا
- ۲۱۱ مفقود کیلئے کسی نے وصیت کی اور موصی مر گیا وصیت کا حکم
- ۲۱۲ بچی ہوئی میراث اجنبی سے کب لی جائے گی
- ۲۱۳ ۱ کتاب الشَّرْکَة
- ۲۱۳ عقد شرکت کا حکم، شرکت کی اقسام
- ۲۱۳ شرکت عقود کا رکن
- ۲۱۴ شرکت عقود کی اقسام اربعہ

۲۱۵	شرکت مفاوضہ کن کے درمیان درست ہے
۲۱۵	شرکت مفاوضہ کن کے درمیان صحیح نہیں
۲۱۶	کافر اور مسلمان کے درمیان شرکت مفاوضہ درست نہیں
۲۱۶	دو غلاموں، دو بچوں اور دو مکاتبوں کے درمیان شرکت مفاوضہ درست نہیں
۲۱۷	شرکت مفاوضہ وکالت اور کفالت پر منعقد ہوتی ہے
۲۱۷	کون سی چیزیں مفاوضین خریدیں تو شرکت سے مستثنیٰ ہوں گی
۲۱۷	بائع مفاوضین میں سے جس سے چاہے ثمن کا مطالبہ کرے
۲۱۸	مفاوضین کون سے دین میں مشترک ہوں گے
۲۱۸	ایک شریک اجنبی سے مال کا کفیل بن جائے تو دوسرے کو بھی وہ کفالت لازم ہو جائے گی
۲۲۰	ایک شریک ایسے مال کا وارث ہوا جس میں شرکت ہو سکتی ہے تو شرکت مفاوضہ باطل ہے
۲۲۰	ایک شریک سامان کا وارث ہوا وہ اسی کا ہے اور مفاوضہ فاسد نہیں ہوگی
۲۲۱	شرکت مفاوضہ دراہم، دنانیر، فلوس، نافقہ کے ساتھ درست ہوتی ہے
۲۲۲	جن چیزوں کا لوگوں میں تعامل ہے جیسے تیر اور نقرہ ان میں شرکت درست ہے
۲۲۲	سونے چاندی کے مثقالوں سے شرکت مفاوضہ درست نہیں ہوتی
۲۲۳	ملکی، موزونی اور عددی چیزوں میں شرکت مفاوضہ درست نہیں
۲۲۴	اسباب میں شرکت مفاوضہ کے جواز کا حیلہ
۲۲۵	شرکت عنان کی تعریف
۲۲۵	شرکت عنان میں مال اور منافع میں تساوی ضروری ہے
۲۲۷	شرکت عنان میں ہر دو شریک اپنے کچھ مال کو شرکت میں ملائیں اور بقیہ کو نہ ملائیں جائز ہے
۲۲۷	شرکت عنان میں ایک کی طرف سے دراہم اور دوسرے شریک کی طرف سے دنانیر ہوں جائز ہے
۲۲۷	شرکت عنان میں جس سے ایک نے کوئی چیز خریدی اسی سے ثمن کا مطالبہ ہو سکتا ہے
۲۲۸	ہر شریک دوسرے شریک سے اپنے حصہ کی بقدر رجوع کرے گا
۲۲۸	مال شرکت یا ایک کا مال کوئی چیز خریدنے سے پہلے ہلاک ہو گیا شرکت باطل ہوگی
۲۲۹	ایک کے مال سے کچھ خریدا گیا دوسرے کا مال خریدنے سے پہلے ہلاک ہو گیا مشتری مشترک ہوگی
۲۲۹	ایک شریک دوسرے شریک پر اپنے حصہ ثمن سے رجوع کرے گا
۲۳۰	مالوں کو علیحدہ علیحدہ رکھنے کے باوجود شرکت درست ہے
۲۳۱	نفع میں ایک کیلئے دراہم مسامت کی قید لگانے سے شرکت درست نہیں



- ۲۳۲ شرکت مفاوضہ مکفوضین اور شرکت عنان کے دونوں شریک مال کو بضاعت پر دے سکتے ہیں
- ۲۳۲ ہر شریک مضاربت پر بھی دے سکتا ہے
- ۲۳۳ ہر شریک دوسرے شخص کے تصرفات کا وکیل بن سکتا ہے
- ۲۳۳ شریک کا قبضہ امانت کا قبضہ ہے
- ۲۳۳ شرکت صنائع کی تعریف
- ۲۳۴ کام نصف نصف اور مال اثلاثاً تقسیم کی شرط سے بھی جائز ہے
- ۲۳۵ ہر شریک کا قبول کیا ہوا کام دوسرے کو بھی لازم ہے
- ۲۳۵ شرکت وجوہ کی تعریف
- ۲۳۶ شرکت مفاوضہ کے صحیح ہونے کی وجہ
- ۲۳۶ شرکت وجوہ کے شرکاء خریدے ہوئے مال میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں
- ۲۳۶ مشتری میں جس قدر ٹھکانائی ہے منافع بھی اسی قدر تقسیم ہوں گے
- ۲۳۷ فَصْلُ فِي الشَّرَكَةِ الْفَاسِدَةِ
- ۲۳۷ اختطاب اور اصطیاد میں شرکت درست نہیں
- دو آدمیوں نے اس طرح شرکت کی ایک کا خیر اور دوسرے کا مشکیزہ جس سے پانی پلانے میں شرکت کی کمائی کام کرنے والے کی ہوگی اور دوسرے کی چیز کی اجرت لازم ہوگی
- ۲۳۸ شرکت فاسدہ میں منافع مال کی مقدار پر تقسیم ہوں گے
- ۲۳۹ شریکین میں سے کوئی فوت ہو گیا یا مرتد ہو گیا اور دارالحرب چلا گیا شرکت باطل ہے
- ۲۳۹ ہر شریک دوسرے شریک کی اجازت کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا
- متفوضین میں سے ایک نے دوسرے کو باندی خرید کر اس سے وطی کی اجازت دی دوسرے نے ایسا ہی کیا باندی بغیر کسی عوض کے ماذون کی ہوگی
- ۲۴۱ مالک باندی دونوں میں سے جس سے چاہے ثمن وصول کرے
- ۲۴۲ كِتَابُ الْوَقْفِ
- ۲۴۳ اصطلاحی الفاظ
- ۲۴۳ واقف کی وقف سے ملک کب زائل ہو قلم ہے
- ۲۴۶ وقف کے صحیح ہونے کی صورت میں شیء موقوفہ کس کی ملک میں چلی جاتی ہے
- ۲۴۷ مشاع کے وقف کا حکم
- ۲۴۹ وقف تام کب ہوتا ہے

- ۲۵۰ زمین کے وقف کا حکم
- ۲۵۱ منقولی اور محولی چیزوں کا وقف درست نہیں
- ۲۵۱ گھوڑے اور ہتھیاروں کے وقف کا حکم
- ۲۵۳ وقف صحیح ہونے کے بعد اس کی بیع اور تملیک جائز نہیں
- ۲۵۴ وقف کی تعمیر کس آمدنی سے کی جائے
- ۲۵۵ گھر کی رہائش جس کیلئے وقف کی ہے عمارت بھی اسی کیلئے ہوگی
- من له السكنی تعمیر وقف سے رک جائے یا فقیر ہو حاکم وقف کو کرائے پردے اور کرایہ سے اس کی تعمیر مکمل کرائے
- ۲۵۵ وقف کی عمارت منہدم ہو جائے اور آلات ناقص ہو جائیں اس کا مصرف کیا ہے
- ۲۵۵ واقف وقف کی آمدنی یا تولیت اپنے لئے کر سکتا ہے
- ۲۵۶ مسجد بنانے والے کی ملک مسجد سے کب زائل ہوگی
- ۲۶۰ مسجد کے نیچے تہہ خانہ اوپر بالا خانہ، مسجد کا دروازہ بڑے راستہ پر نکالنے کا حکم
- ۲۶۱ گھر کے بیچ میں مسجد بنانے کا حکم
- ۲۶۱ جس نے اپنی زمین کو مسجد بنا دیا اس کیلئے رجوع کا حق نہیں، نہ بیچ سکتا ہے اور نہ وراثت جاری ہوگی
- ۲۶۲ سمیل، سرائے، چھاؤنی، مقبرہ بنانے کا حکم
- ۲۶۳ امام ابو یوسف کا نقطہ نظر
- ۲۶۴ مکہ مکرمہ میں گھر کو حجاج اور معتمرین کی رہائش کیلئے وقف کرنے کا حکم، غیر مکہ کے گھر کی رہائش مساکین، مجاہدین کیلئے وقف کرنے کا حکم اور اپنی زمین کے غلہ کو مجاہدین کیلئے وقف کرنے کا حکم
- ۲۶۵ چند مفید مسائل



besturdubooks.wordpress.com

بسم الله الرحمن الرحيم

## کِتَابُ السَّيْرِ

ترجمہ..... یہ کتاب سیر کے بیان میں ہے

السیر کا لغوی اور شرعی معنی

السَّيْرُ جَمْعُ سَيْرَةٍ وَهِيَ الطَّرِيقَةُ فِي الْأُمُورِ وَفِي الشَّرْعِ تَخْتَصُّ بِسَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَغَازِيهِ

ترجمہ..... سیر سیرۃ کی جمع ہے اور وہ کاموں میں ایک طریقہ کو کہتے ہیں اور شریعت میں اس مخصوص طریقہ کو کہتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے اپنے جہاد میں برتا ہو۔

تشریح..... شریعت میں جہاد دین حق کی طرف بلانے اور جو اسے قبول نہ کرے اس سے قتال کرنے کو کہتے ہیں۔ اور ظاہر یہ ہے کہ عرب کے سوا جو شخص مطیع ہونے اور جزیہ دینے پر بھی راضی نہ ہو اس سے بھی قتال کرنا۔ اس جہاد کی تعریف یہ ہے یعنی پوری صلاحیت کو اللہ کے راستہ میں قتال کرنے میں صرف کر دینا۔ خواہ اس طرح کہ خود اپنی ذات سے قتال کرنا یا قتال کرنے والے غازیوں کی مدد کرنا خواہ مال سے ہو یا رائے اور مشورے دے کر ہو۔ یا ان کی جمعیت اور بھیڑ بڑھا کر ہو یا کسی بھی دوسری صورت سے ہو۔ (ابن الکمال)

جہاد کے تابع رباط ہے۔ رباط کے معنی ہیں اسلام کے اس سرحد پر جس کے بعد دار الکفر ہو وہاں پر قیام کرنا۔ یہی قول مختار ہے۔ جہاد کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ کیوں نہ ہو کہ آدمی اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے بہت سی مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنی جان اور مال سب کچھ فدا کر دیتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ ظاہر اور باطن خوشی اور غمی ہر حالت میں اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رکھے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ ایک جہاد سے لوٹتے وقت فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے۔ اسی لئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ اعمال میں کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ میں نے عرض کیا پھر؟ آپ نے فرمایا والدین کی فرمان برداری کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور اگر میں آپ سے اور زیادہ پوچھتا تو زیادہ ہی فرماتے۔ (رواہ البخاری)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ کونسا کام افضل ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر دل سے سچا یقین رکھنا۔ عرض کیا گیا کہ پھر کونسا عمل افضل ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا عرض کیا گیا کہ پھر کونسا عمل ہے فرمایا کہ حج مبرور۔ (رواہ البخاری و مسلم)

اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کو شامل تھا۔ یعنی جب سچا یقین کر لیا تو اس کے بعد نماز ترک کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اسی لئے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ نے قسم کے ساتھ نماز فریضہ کے بعد



جہاد فی سبیل اللہ کو قرار دیا۔ (رواہ الترمذی)

معلوم ہونا چاہئے کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جتنے صحابہ کرامؓ جہاد کرتے تھے وہ بخوبی نماز اور دوسرے تمام فرائض کے پابند تھے۔ اسی لئے حضرت عمران بن حصین کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جہاد کی صف میں آدمی کا کھڑا ہونا۔ اس کے ساتھ برس کی عبادت سے افضل ہے۔ (رواہ الحاکم)

رسول اللہ ﷺ کے وقت میں جہاد ایک اہم امر اور فرض عین تھا۔ یہاں تک کہ فتح مکہ ہو گیا۔ اسی لئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ (کون سا عمل ایسا ہے جو جہاد کی برابری کرے؟) فرمایا کہ تم اس کو نہیں کر سکو گے۔ یہ بات کئی بار عرض کی گئی اور آپ ہر بار یہی ارشاد فرماتے رہے۔ پھر فرمایا کہ مجاہد فی سبیل اللہ کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو برابر روزے رکھے اور رات بھر نمازیں پڑھتا رہے۔ کسی وقت بھی نماز اور روزہ میں سستی نہ کرے یہاں تک کہ مجاہد واپس آ جائے۔

(رواہ البخاری و مسلم)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اس کے وعدوں کو سچا مان کر اپنا گھوڑا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں وقف کر دیا تو اس کا دانہ اور پانی سے سیراب ہونا اور اس کی لید اور پیشاب کرنا قیامت کے دن اس کے اعمال خیر کی میزان ہوگا۔ (رواہ البخاری)

اور جہاد کے تابع رباط بھی ہے۔ اس رباط کی فضیلت کے بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے کہ اللہ کی راہ میں ایک دن کا رباط کرنا ایک مہینہ کے روزے اور شب بیداری سے بہتر ہے۔ اور اگر اس حالت میں مر گیا تو جتنے بھی نیکی کے کام کرتا تھا وہ سب برابر جاری رہیں گے۔ اور اس پر اس کا رزق بھی جاری رہے گا۔ اور وہ فتنوں سے محفوظ ہو گیا۔ (رواہ مسلم)

اور وہ قیامت کے دن شہید کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ (الطبرانی)

اور قیامت کے فزع اکبر (سب سے زیادہ گھبرانے والی چیز) سے محفوظ ہو گیا۔ (رواہ ابن ماجہ و الطبرانی)

اور ابو امامہ کی حدیث میں ہے کہ مرابط کی ایک نماز پانچ سو نمازوں کے برابر ہے اور ایک دینار یا درہم کا خرچ کرنا سات سو اشرفیوں کے صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔

### جہاد کا حکم

قَالَ الْجِهَادُ فَرَضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ إِذَا قَامَ بِهِ فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ أَمَّا الْفَرَضِيَّةُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يَقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْجِهَادُ مَا ضَإِلِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَأَرَادِيهِ فَرَضًا بَاقِيًا وَهُوَ فَرَضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ لِأَنَّهُ مَا فَرَضَ لِعَيْنِهِ إِذْ هُوَ أَفْسَادُ فِئْتِ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا فَرَضَ لِأَعْزَازِ دِينِ اللَّهِ وَدَفْعِ الشَّرِّ عَنِ الْعِبَادِ فَإِذَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِالْبَعْضِ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ كَصَلْوَةِ الْجَنَازَةِ وَرَدِّ السَّلَامِ

ترجمہ..... قدوری نے کہا ہے کہ۔ جہاد فرض کفایہ ہے یعنی اگر کچھ لوگ بھی جہاد کرتے رہیں تو باقی لوگوں سے فرضیت ختم ہو جاتی ہے اس کے فرض ہونے کی دلیل یہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً..... الا یہ تم سب کے سب مل کر مشرکوں سے قتال کرو۔ جیسے کہ مشرکین سب کے سب مل کر تم سے قتال کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث سے بھی کہ اَلْجِهَادُ مَاضٍ..... الخ یعنی جہاد قیامت تک کے لئے جاری ہے۔ اس سے رسول اللہ ﷺ کی مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ جہاد کرتے رہیں گے۔ بلکہ یہ مراد ہے کہ جہاد قیامت تک کے لئے ایک باقی رہنے والا فرض ہے۔ یعنی یہ حکم کبھی منسوخ نہیں ہوگا۔ یہ فرض اس لئے کفایہ ہے کہ جہاد بالذات فرض نہیں ہوا اس لئے وہ خود اپنے طور پر پسندیدہ فعل اس لئے نہیں ہے کہ اس سے فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ اور جہاد فرض اس لئے ہوا کہ اس کے ذریعے اللہ عزوجل کے دین کو عزت حاصل ہو۔ اور بندوں سے شرک و فساد کا فتنہ دور ہو۔ پس اگر یہ مقصود کچھ لوگوں سے ہی حاصل ہو جائے تو باقی لوگوں کے ذمہ فرض باقی رکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یعنی ان سے فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ جیسے کہ جنازہ کی نماز اور سلام کے جواب میں ہے۔ اب اگر ایک جماعت نے بھی جہاد نہیں کیا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ کیونکہ اس کا وجوب اور فرضیت تو سب پر ہے (یعنی فرض کفایہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ تو سب پر فرض ہے البتہ اتنی بات ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے ادا کر لیا تو باقی لوگوں سے اس کے نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے کرنے کا ثواب صرف ان ہی لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے ادا کیا ہے۔

تشریح..... قَالَ الْجِهَادُ فَرَضٌ..... الخ۔ یعنی جہاد کا حکم بھی اسی طرح فرض کفایہ ہے جیسے جنازہ کی نماز یا سلام کا جواب لازم ہے۔ کہ اگر کچھ لوگوں نے بھی جنازہ کی نماز پڑھ لی تو باقی تمام لوگوں سے بھی وہ ادا ہو گئی اور اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اسی طرح اگر مجلس میں سے کسی نے بھی کسی آنے والے کے سلام کا جواب دے دیا تو مجلس کے باقی تمام لوگوں سے بھی سلام کا جواب دینا جو کہ واجب ہوتا ہے ختم ہو گیا اور اگر کسی نے بھی جنازہ کی نماز نہیں پڑھی اور یوں ہی اسے دفن کر دیا گیا یا سلام کرنے والے کو جواب نہیں دیا تو واجب اور فرض کے چھوڑنے کی وجہ سے سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح جہاد کا جو مقصد ہے یعنی ملک سے فساد۔ برائیاں شرک اور کفر کے فتنہ کو دور کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید اور عدل کو قائم کرنا۔ اسی لئے اگر یہ مقصد چند لوگوں کی ہمت کرنے سے ادا ہو جائے تو باقی لوگوں سے بھی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی جماعت بھی جہاد نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے بلکہ اظہر یہ ہے کہ اس ملک والے سب کے سب (جو خبر پا کر بلا عذر جہاد میں شریک نہ ہوئے) گنہگار ہوں گے۔ درمختار میں نقل کیا ہے کہ تم کو اس کا وہم نہ ہو کہ اگر شام والوں نے جہاد شروع کیا تو ہندوستان والوں سے اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ بلکہ اہل کفر سے جو لوگ بہت قریب رہتے ہوں ان پر فرض ہوگا۔ پھر ان کے مقابلہ میں جو کچھ دور ہیں پھر ان سے جو دور ہیں۔ یہاں تک کہ اگر قریب میں رہنے والوں سے جہاد کا کام کافی اور پورا نہ ہو سکے تو ان کے بعد والوں پر جہاد کرنا اور اس میں شرکت کرنا فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر تمام مکلف مسلمانوں کی بھی ضرورت پڑ جائے تو نماز روزہ کی طرح سب کی ذات پر جہاد فرض ہو جائے گا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر غلام اور عورتیں بھی جہاد کے لئے سامنے آجائیں اور وہ کافی ہو جائیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائیں گی۔ الحاصل فرض کفایہ کے معنی یہی ہیں کہ اگر کچھ لوگ بھی حق ادا کر دیں اور شرکت کر لیں تو شرکت نہ کرنے والے باقی لوگوں کی طرف سے بھی اس کی فرضیت ختم ہو جائے۔

### ترک جہاد کا گناہ

فَإِنْ لَّمْ يَقُمْ بِهِ أَحَدًا ثَمَّ جَمِيعُ النَّاسِ بِتَرْكِهِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَى الْكُلِّ وَلَئِنْ فِي اشْتِغَالِ الْكُلِّ بِهِ قَطَعَ مَادَّةَ الْجِهَادِ



## مِنْ الْكِرَاعِ وَالسَّلَاحِ فَيَجِبُ عَلَى الْكِفَايَةِ

ترجمہ..... اس لئے اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو فرض چھوڑنے کے جرم میں سب کے سب گنہگار ہوں گے اور فرض کفایہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر سارے مسلمان ہی جہاد میں مشغول ہو جائیں تو جہاد کا سامان یعنی گھوڑے اور ہتھیار مجاہدین کو کہاں سے ملیں گے۔ وہ سب ناپید ہو جائیں گے۔ اس لئے یہ جہاد فرض کفایہ کے طور پر لازم ہوا۔

تشریح..... وَلَآنَ فِي اشْتِغَالِ الْكُلِّ..... الخ اور جہاد کے فرض کفایہ ہونے کی ایک عقلی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر سارے مسلمان ہی عملی طور سے جہاد میں مشغول ہو جائیں تو کوئی بھی ہتھیار بنانے والا نہ ملے گا اور گھوڑوں اور سواری کے لئے ان کی نسل یا دوسرے اسباب نہیں پائے جائیں گے۔ اسی لئے فرض کفایہ ہوا۔ لیکن یہ بات مخفی نہ رہے کہ جو لوگ جہاد کے واسطے ہتھیار بنائیں یا گھوڑوں کی نسل بڑھائیں یا زراعت کر کے جہاد کرنے والوں اور ان کے مددگاروں کی غذا اور اس کا انتظام کریں گے وہ سب اس جہاد میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہر ایک پر فرض عین ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ شہروں سے سارے شہری ایک ساتھ ہی شرکت کے لئے نکل جائیں۔ بلکہ انتظام کے ساتھ کبھی ایک جماعت جائے اور کبھی دوسری جماعت نکلے۔ اس طرح معاشی حالت بھی متاثر نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر یہ پوری تفصیل اس صورت میں ہوگی جب کہ عام طور پر سب کی شرکت کے لئے نہ بلایا گیا ہو۔ مثلاً دشمنوں نے مسلمانوں کے کسی ملک پر چانک حملہ کر دیا تو وہاں کے ہر شخص پر جہاد فرض عین ہے۔ خواہ پکارنے والا عادل ہو یا فاسق ہو۔ اسی صورت میں اس شہر کے سب لوگوں پر فرض ہوگا کہ وہاں جا کر جہاد میں شریک ہوں۔ اور اگر یہ لوگ دشمن کے مقابلہ کے لئے کافی نہ ہوں تو ان کے قریب کے لوگوں پر بھی فرض ہو جائے گا۔ اور اگر وہ بھی کافی نہ ہوں تو ان کے قریب والوں پر فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ حکم پھیلتا اور بڑھتا جائے گا۔ یہاں تک کہ مشرق و مغرب کے تمام مسلمانوں پر فرض ہو جائے گا۔ پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ اگر کسی شخص نے جہاد میں جانے کا ارادہ کیا مگر اس لئے بیٹھ گیا کہ دوسرے لوگ نہیں جا رہے ہیں یا خود سلطان نہیں جا رہا ہے یا اس نے منع کر دیا ہے تو وہ شخص گنہگار نہ ہوگا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جہاد فرض کفایہ ہے۔

## نفیر عام کے وقت جہاد کا حکم

إِلَّا أَنْ يَكُونَ النَّفِيرُ عَامًا فَحِ يَصِيرُ مِنْ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا الْآيَةَ وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ الْجِهَادُ وَاجِبٌ إِلَّا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يُحْتَاجَ إِلَيْهِمْ فَأَوَّلُ هَذَا الْكَلَامِ إِشَارَةٌ إِلَى الْوُجُوبِ عَلَى الْكِفَايَةِ وَآخِرُهُ إِلَى النَّفِيرِ الْعَامِ وَهَذَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ عِنْدَ ذَلِكَ لَا يَتَحَصَّلُ إِلَّا بِإِقَامَةِ الْكُلِّ فَيَفْتَرِضُ عَلَى الْكُلِّ

ترجمہ..... البتہ اگر عام طور پر لوگوں کو امیر کی طرف سے بلایا جائے تو اس وقت جہاد فرض عین ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا یعنی تم لوگ خواہ ہلکے ہو یا بھاری نکل جاؤ اور روانہ ہو جاؤ۔ (یعنی سوار ہو یا پیدل ہو۔ خواہ فقیر ہو یا دولت مند ہو) الحاصل جب عام طور پر سب کی پکار ہو تو بالا جماع فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور اس میں بیمار و بوڑھے بھی جائیں۔ تاکہ تعداد کی زیادتی سے دشمن پر خوف طاری ہو جائے اور امام محمدؑ نے کہا ہے جامع صغیر میں کہ جہاد واجب (لازم) ہے۔ البتہ مسلمانوں کو گنجائش ہے یہاں تک کہ ان کی ضرورت پیش آئے۔ اس کلام کے پہلے حصے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ اور آخری جملہ (حَتَّى



يَسْتَحَاجُّ..... الخ) سے نفیر عام (جہاد میں شرکت کے لئے اعلان) ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اسی وقت مقصود حاصل ہوگا جب کہ سب لوگ جہاد کے لئے نکلیں تو پھر یہ فرض عین ہو جائے گا (پھر ان پر یہ فرض عین ہوتا جائے گا۔ اب اگر وہی اس مقابلہ کے لئے کافی ہو جائیں تو باقی لوگوں پر صرف فرض کفایہ رہ جائے گا۔ اور اگر ان لوگوں کو آس پاس کے ملکوں کے مسلمانوں کی ضرورت باقی رہ جائے اور ان کو اس مقابلہ کی خبر بھی ہو جائے تو ان پر بھی فرض عین ہو جائے گا۔ اور اس طرح حکم عام ہوتا جائے گا یہاں تک کہ تمام مشرق و مغرب کے سارے مسلمانوں پر فرض ہو جائے گا۔ (الذخیرہ)

### جہاد اقدامی کا حکم

وَقَالَ الْكُفَّارِ وَاجِبٌ وَإِنْ لَمْ يَيْدُوا لِلْعُمُومَاتِ

ترجمہ..... اور کافروں سے قتال کرنا واجب ہے اگرچہ وہ پیش قدمی نہ کریں کیونکہ اس بارے میں آیات و احادیث عام ہیں۔ یعنی احادیث و آیات سے یہ حکم نکلتا ہے کہ کافروں سے جہاد کرو تا کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو۔ اور عدل قائم ہو اور فساد و کفر و ظلم دور ہو۔ خواہ یہ کفار پیش قدمی کریں یا نہ کریں۔

بچے، غلام، عورت، نابینا، لنگڑے، پاؤں کٹے ہوئے پر جہاد فرض نہیں

وَلَا يَجِبُ الْجِهَادُ عَلَى الصَّبِيِّ لِأَنَّ الصَّبِيَّ مَظْنَّةُ الْمَرْحَمَةِ وَلَا عَبْدٌ وَلَا امْرَأَةٌ لِتَقْدِيمِ حَقِّ الْمَوْلَى وَالزَّوْجِ وَلَا أَعْمَى وَلَا مُقْعَدٌ وَلَا أَقْطَعُ لِعِجْزِهِمْ

ترجمہ..... اور بچہ پر جہاد کرنا واجب نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ محل رحمت ہوتے ہیں۔ اسی طرح غلام اور عورت پر بھی واجب نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ غلام پر اس کے مولیٰ کا حق اور عورت (بیوی) پر اس کے شوہر کا حق مقدم ہوتا ہے۔ اور اندھے و لنگڑے اور پاؤں کٹے ہوئے پر بھی واجب نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ عاجز اور مجبور ہوتے ہیں۔

تشریح..... وَلَا عَبْدٌ وَلَا امْرَأَةٌ..... الخ۔ مجبور لوگوں پر اولاً جہاد فرض نہیں ہوتا ہے۔ اسی لئے غلام پر اس بناء پر فرض نہیں ہوتا ہے کہ اس کے مولیٰ کا حق اس پر مقدم ہوتا ہے۔ اس سے اسے فرصت نہیں مل سکتی ہے۔ اسی طرح بیوی پر اس کے شوہر کی خدمت کا حق مقدم ہوتا ہے اس لئے یہ بھی معذور سمجھی جاتی ہے۔ البتہ اگر مولیٰ نے اپنے غلام کو یا شوہر نے اپنی بیوی کو جہاد میں جانے کی اجازت دیدی ہو تو ان پر بھی فرض کفایہ ہونا چاہئے۔ اسی طرح قرض خواہ کی اجازت کے بغیر قرض دار پر واجب نہیں ہے۔ اور اگر قرض دار کی اجازت سے کوئی قرض کا کفیل ہو جائے خواہ وہ مال کا کفیل ہو یا جان کا کفیل ہو تو اس سے بھی اجازت لینا شرط ہے۔ یہ حکم اس صورت میں ہے جب کہ قرض فی الحال ادا کرنے کی بات ہوئی ہو۔ اور اگر میعاد ہو تو اس کی اجازت کے بغیر بھی جانا صحیح ہے بشرطیکہ اس بات کا یقین ہو کہ اس وقت کے آنے سے پہلے اس کی واپسی ہو جائے گی۔ (الذخیرہ)

اور ایسے عالم پر بھی جہاد میں جانا فرض نہیں ہے جس سے کوئی بڑا عالم اس علاقہ میں نہ ہو (کہ مسائل اور فتاویٰ شرعیہ کا صحیح جواب دے سکے)۔ (السراجیہ)

اور جس شخص کے والدین یا ان میں سے ایک زندہ ہو تو اس پر بھی ان کی اجازت کے بغیر جانا فرض نہیں ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے جو کہ عبداللہ بن عمر اور ابو داؤد میں صراحت کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور والدین کی اجازت کے بغیر ایسے سفر میں جانا حلال نہیں ہے جس میں کوئی خطرہ ہو۔ اور اگر ایسا سفر ہو جس میں کوئی خطرہ نہ ہو تو جانا جائز ہے پیسے طلب علم کے لئے جانا حلال ہے۔

### جب دشمن اسلامی شہر پر چڑھ دوڑیں تمام پر جہاد فرض ہے

فَإِنْ هَاجَمَ الْعَدُوُّ عَلَى بَلَدٍ وَجَبَ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ الدَّفْعُ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَالْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوْلَى لِأَنَّهُ صَارَ فَرْضَ عَيْنٍ وَمِلْكُ الْيَمِينِ وَرَقُّ النِّكَاحِ لَا يَطْهَرُ فِي حَقِّ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ النَّفِيرِ لِأَنَّ بَغْيَهُمَا مَقْنَعًا فَلَا ضَرُورَةَ إِلَى إِبْطَالِ حَقِّ الْمَوْلَى وَالزَّوْجِ

ترجمہ..... پھر اگر دشمنوں نے کسی اسلامی ملک پر زوردار حملہ کیا تو تمام لوگوں پر اس کا مقابلہ کرنا واجب ہوگا۔ یہاں تک کہ بیوی بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اور غلام بھی اپنے آقا کے بغیر نکلیں گے۔ (اس صورت میں شوہر اور آقا اگر منع کریں گے تو وہ گنہگار ہوں گے۔ (الذخیرہ)

کیونکہ اب جہاد فرض عین ہو گیا اور ملک رقبہ اور ملک نکاح کا اثر فرض عین پر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے فرض نماز اور روزہ رمضان میں کسی کو منع کرنے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے جب تک بالکل عام اعلان نہ ہوا ہو۔ اس وقت تک مولیٰ اور شوہر کا حق مقدم ہوتا ہے۔ کیونکہ عام اعلان نہ ہونے کی صورت میں غلام اور عورت کے بغیر بھی مقابلہ کافی سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے مولیٰ اور شوہر کے حق کو باطل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (جہاد فرض ہونے کے لئے ایک قید اور بھی ضروری ہے یعنی آدمی کو مقابلہ کے لئے جانے کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لئے بیمار پر نکلنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ہتھیار اور ضروری سامان کا مہیا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لئے اگر کسی کو اس بات کا یقین ہو کہ موجودہ حالت میں مقابلہ کرنے سے میں مارا جاؤں گا اور مقابلہ نہ کرنے سے گرفتار کر لیا جاؤں گا تو اس پر قتال کرنا واجب نہیں ہے۔)

### بیت المال میں مال ہوتے ہوئے چندہ کا حکم

وَيُكْرَهُ الْجُعْلُ مَا دَامَ لِلْمُسْلِمِينَ فَتًى لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْأَجْرَ وَلَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ لِأَنَّ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ مُعَدُّ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُقَوَّى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَأَنَّ فِيهِ دَفْعَ الضَّرَرِ الْأَعْلَى بِالْحَاقِ الْأَدْنَى يُؤَيِّدُهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخَذَ دُرُوعًا مِنْ صَفْوَانَ وَعُمَرُو كَانَ يُغْزَى الْأَعَزَبَ عَنْ ذِي الْحَلِيلَةِ وَيُعْطَى السَّاحِصَ فَرَسَ الْقَائِمِ

ترجمہ..... اور جب تک کہ امام کے پاس (بیت المال میں) رقم موجود ہو اس وقت تک خاص جہاد کی غرض سے لوگوں سے کچھ وصول کرنا مکروہ ہے کیونکہ جہاد میں شرکت بھی مزدوری کے مشابہہ ہے اور فی الحال کوئی خاص ضرورت بھی پیش نہیں آئی ہے۔ اور بیت المال تو اسی



لئے ہے کہ مسلمانوں کے حوادث میں کام آئے۔ البتہ اگر بیت المال میں جمع کچھ نہ ہو تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تاکہ ایک دوسرے کی مدد کر کے دین کو مضبوط کریں۔ کیونکہ ایسا کرنے میں تھوڑا سا نقصان برداشت کر کے بڑے نقصان یعنی کافروں کے نقصان کو دور کرنا ہوتا ہے۔ جس کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جنگ حنین میں صفوان سے چند زرہیں لی تھیں۔ اس کی روایت ابو داؤد، النسائی اور احمد نے کی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیوی والے مردوں کی طرف سے ان مردوں کو بھیج دیتے جن کی بیویاں نہ ہوتیں۔ اور جو شخص جہاد میں جانے کے قابل نہ ہوتا اس کا گھوڑا جہاد میں جانے والے کو دے دیتے۔

تشریح..... جہاد کے لئے اس صورت میں جب کہ بیت المال میں مال موجود ہو دوسروں سے مال نہیں لینا چاہئے۔ البتہ اگر ضرورت پیش آجائے تو ایک کو دوسرے کی مدد کرنی چاہئے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جہاد کرنے والے کے لئے اپنا ثواب ہے۔ اور مال سے اس کی مدد کرنے والوں کو اپنے مال اور اس مجاہد دونوں کا ثواب ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ یہاں جعل سے مراد یہ ہے کہ غازیوں کے لئے لوگوں سے مال لینا۔ تاکہ ان کو قدرت حاصل ہو۔ اور شیخ ابن الہمام نے کہا ہے کہ امام المسلمین لوگوں کو حکم کرے کہ وہ ایک دوسرے کی سامان سفر گھوڑے اور ہتھیار سے مدد کریں۔

تحقیق یغزی..... اغزاء سے کہا جاتا ہے اُغْزَى الْأُمَيْرُ الْجَيْشَ۔ امیر نے لشکر کو مقابلہ کے لئے بھیجا۔ اعزب وہ شخص جس کی بیوی نہ ہو۔ حلیہ: مرد کی بیوی الشاخص اسم فاعل ایک جگہ سے دوسری جگہ بلندی میں جانا یہاں دشمن کی طرف جانے والا مراد ہے۔ انوار الحق قاسمی

## بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقِتَالِ

ترجمہ..... قتال کی کیفیت کے بیان میں

مسلمان دارالحرب کے کسی شہر یا قلعہ کا محاصرہ کر لیں تو دعوت اسلام دیں، محصورین کے قبول کر لینے پر قتال ترک کر دیں

وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُونَ دَارَ الْحَرْبِ فَحَاصِرُوا أَوْ حِصْنًا دَعَوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ لِمَارَوْتِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا قَاتَلَ قَوْمًا حَتَّى دَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ

ترجمہ..... جب مسلمان دارالحرب میں جا کر کسی شہر یا کسی قلعہ کا محاصرہ (گھراؤ) کر لیں تو سب سے پہلے ان کافروں کو اسلام کی طرف بلائیں اور دعوت دیں۔ کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی قوم کو بھی جب تک کہ اسلام کی طرف دعوت نہیں دی اس وقت تک ان سے جہاد اور قتال نہیں کیا۔ اس کی روایت عبدالرزاق اور حاکم نے سند صحیح سے کی ہے۔

دعوت اسلام قبول کرنے پر قتال ترک کر دیں

فَإِنْ أَجَابُوا كَفُّوا عَنْ قِتَالِهِمْ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ



ترجمہ..... اس کے بعد اگر ان کافروں نے اسلام کی دعوت قبول کر لی تو وہ لوگ ان کافروں کے ساتھ قتال کرنے سے باز رہیں۔ کیونکہ مقصود حاصل ہو گیا ہے۔ اور اس لئے بھی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ لیں۔ (اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ میرے رسول ہونے کا وہ اقرار کریں۔ اور جو کچھ میں لایا ہوں اس کو مانیں پس جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس نے اپنے مال اور جان کو محفوظ کر لیا۔ مگر حق اسلام کی وجہ سے اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ (ابن خاری و مسلم)

### دوسرے مرحلہ پر جزیہ کا مطالبہ کریں

وَإِنْ امْتَنَعُوا دَعْوَهُمْ إِلَى أَذَاءِ الْجِزْيَةِ بِهِ أَمْرٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمْرَاءَ الْجِيُوشِ وَلَئِنَّهُ أَحَدُ مَا يَنْتَهِي بِهِ الْقِتَالُ عَلَى مَانِطِقٍ بِهِ النَّصُّ وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ يَقْبَلُ مِنْهُ الْجِزْيَةَ وَمَنْ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ كَالْمُرْتَدِّينَ وَعَبْدَةِ الْأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ لَا فَايْدَةَ فِي دُعَائِهِمْ إِلَى قَبُولِ الْجِزْيَةِ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْإِسْلَامُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تَقَاتِلُوا لَهُمْ أَوْ يُسْلِمُوا

ترجمہ..... اور اگر کافروں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا تو ان کو جزیہ دینے کے لئے کہا جائے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے لشکروں کے سرداروں کو یہی حکم فرمایا۔ اور نص کے مطابق جن چیزوں سے قتال ختم ہوتا ہے ان میں یہ بھی ایک چیز ہے اور یہ حکم ایسے کافروں کے بارے میں ہے جن سے جزیہ قبول کیا جاسکتا ہو۔ کیونکہ جن لوگوں سے جزیہ قبول نہیں کیا جاسکتا ہو جیسے مرتد ہو جانے والے۔ اور عرب کے بت پرست لوگ تو ان کو جزیہ قبول کرنے کی دعوت دینا ہی بے فائدہ ہے۔ کیونکہ ان سے اسلام قبول کرنے کے سوا دوسری کوئی چیز مقبول نہیں ہوگی۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے تَقَاتِلُوا لَهُمْ أَوْ يُسْلِمُوا۔ (کہ تم ان سے اتنا قتال کرو کہ وہ اسلام قبول کر لیں)

تشریح..... قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تَقَاتِلُوا لَهُمْ أَوْ يُسْلِمُوا۔ (الفتح: ۱۶) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اور حضرت بریدہؓ کی حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کسی لشکر یا نمازیوں کی جماعت پر کسی کو سردار بناتے تو اس کو اپنے ذاتی معاملات میں اللہ تعالیٰ سے تقویٰ رکھنے کی اور اپنے ساتھی مسلمانوں سے بھلائی کرنے کی وصیت فرماتے۔ پھر کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جہاد کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرو۔ جس نے اللہ تعالیٰ سے کفر کیا تم اس سے جہاد کرو۔ اور خیانت یا غدر مت کرو اور مقتول کفار کا مثل نہ کرو یعنی اس کے ہاتھ پاؤں ناک کان وغیرہ نہ کاٹو اور کسی بچہ کو قتل نہ کرو اور جب تمہارا مشرک دشمنوں سے مقابلہ ہونے لگے تو تم ان کو پہلے تین باتوں میں سے ایک بات کی طرف دعوت دو..... الخ۔ یہ حدیث صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ میں جزیرہ عرب سے یہود و نصاریٰ کو نکال دوں گا۔ یہاں تک کہ اس میں مسلمانوں کے سوا کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی روایت مسلم، احمد اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہم نے کی ہے۔

### جزیہ پر رضا مند ہو جائیں تو کیا کیا جائے

فَإِنْ بَذَلُوا فَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِ عَلِيٍّ إِنَّمَا بَذَلُوا الْجِزْيَةَ لِيَكُونَ دِمَاؤُهُمْ كَدِمَانِنَا



وَأَمْوَالُهُمْ كَأَمْوَالِنَا وَالْمَرَادُ بِالْبَذْلِ الْقَبُولُ وَكَذَا الْمَرَادُ بِالْإِعْطَاءِ الْمَذْكُورِ فِيهِ فِي الْقُرْآنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ترجمہ..... اب اگر ان کافروں نے مسلمانوں کی دعوت قبول کر لی یعنی انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا تو ان کے لئے انصاف سے وہی کچھ ہوگا جو مسلمانوں کے لئے ہوگا۔ اور انصاف سے ان پر بھی وہی بار ہوگا جو مسلمانوں پر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ کافروں نے اسی لئے جزیہ دینا قبول کیا ہے کہ ان کا خون بھی ہمارے خون کی طرح اور ان کے مال بھی ہمارے مالوں کی طرح محفوظ رہیں (اس کی روایت امام شافعیؒ اور دارقطنیؒ نے کی ہے۔ اگرچہ اس کی اسناد ضعیف ہے۔ پھر بھی صحیحین کی حدیث سے بھی جوابو ہریرہ وغیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہی معنی ثابت ہوتے ہیں) اور قدوریؒ کے قول میں لفظ بذلوا سے مراد قبول کرنا ہے۔ اور فرمان خداوندی حتی یعطوا الجزیہ میں اعطاء سے بھی یہی مراد ہے۔ واللہ اعلم

### جب تک دعوت اسلام نہ پہنچے قتال نہ کریں

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَاتَلَ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ إِلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ يَدْعُوَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي وَصِيَّةِ أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فَأَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَهْمُ بِالْدَّعْوَةِ يَعْلَمُونَ أَنَّا نُقَاتِلُهُمْ عَلَى الدِّينِ لَا بَعْلَى سَلْبِ الْأَمْوَالِ وَتَسْبِي الدَّرَارِيِّ فَلَعَلَّهُمْ يُجِيبُونَ فَتَكْفَى مُؤَنَةُ الْقِتَالِ وَلَوْ قَاتَلَهُمْ قَبْلَ الدَّعْوَةِ أَثِمَ لِلنَّهْيِ وَلَا غَرَامَةَ لِعَدَمِ الْعَاصِمِ وَهُوَ الدِّينُ أَوْ إِلَّا حَرَّازُ ابْنِ الدَّرَفَصَارِ كَقَتْلِ النِّسْوَانِ وَالصَّبِيَّانِ -

ترجمہ..... اور یہ بات جائز نہیں ہے کہ ایسے لوگوں سے قتال کیا جائے جن کو اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ مگر یہ کہ ان کافروں کو پہلے وہ لوگ دعوت دیدیں۔ رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کی وجہ سے جو امراء کے لشکر کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اپنی جگہ پر پہنچ کر پہلے ان لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف بلاؤ۔ اور اس وجہ سے کہ اسی دعوت دینے سے وہ یقین کر لینگے کہ دوسری صورت میں ہم ان سے دین کے لئے قتال کریں گے۔ اور ان کے مال چھین لینے اور ان کے اہل و عیال کو قید کرنے کے لئے ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ اس طرح اس بات کی امید ہوتی ہے کہ شاید وہ اس دعوت کو آسانی سے قبول کر لیں۔ پھر ہم بھی ان سے لڑائی کی پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ (اور وہ بھی بچ جائیں گے) اور اگر مسلمانوں نے ان کو دعوت دینے سے پہلے ہی ان سے قتال کر لیا تو یہ مسلمان ممانعت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے۔ لیکن ان کے خونوں کے ضامن بھی نہ ہوں گے کیونکہ کوئی چیز موجب عصمت بھی نہیں ہے۔ یعنی دین اسلام یا دارالاسلام کی حفاظت نہیں ہے تو ایسا ہو گیا جیسے حملہ کرنے میں کافروں کی عورتیں یا بچے قتل ہو جائیں۔

### دوبارہ دعوت اسلام کا حکم

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوا مَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ مُبَالَغَةً فِي الْإِنذَارِ وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَعَهْدَ إِلَى أَسَامَةَ أَنْ يُغَيِّرَ عَلَى ابْنِ صَبَاحًا ثُمَّ يُحْرِقُ وَالْغَارَةُ لَا يَكُونُ بِدَعْوَةٍ

ترجمہ..... اور جن کفار کو اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے ان کو بھی قتال کرنے سے پہلے دوبارہ دعوت دینا مستحب ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ انذار کا کام ہو جائے۔ مگر ایسا کرنا ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے بنو مصطلق (قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ) پر اس طرح چھاپ مارا



کہ وہ غافل تھے۔ (رواہ البخاری و مسلم)

اسی طرح حضرت اسامہ بن زید پر لازم کر دیا تھا کہ فلسطین میں ایک جگہ اپنی میں صبح کے وقت چھاپا ماریں پھر اس جگہ کو جلا دیں۔ رواہ ابوداؤد و ابن ماجہ۔ اور چھاپا مارنے سے پہلے دعوت نہیں دی جاتی ہے۔

تشریح..... وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعو..... الخ ایک بار دشمنوں کو دعوت دے کر ان پر حملہ کرنے سے پہلے بھی دوبارہ دعوت دینی مستحب ہے۔ اس زمانہ میں اگرچہ اسلام مشرق و مغرب میں خوب پھیل چکا ہے۔ پھر بھی بعض علاقے ایسے ہیں جن کو اسلام کا کچھ بھی شعور نہیں ہے۔ پھر اگرچہ ان کو نفس اسلام کی خبر مل چکی ہے مگر ان کو جزیہ دینے سے متعلق کوئی علم نہیں ہے۔ اس لئے اب بھی جزیہ کی دعوت دیئے بغیر ان سے قتال نہیں کرنا چاہئے۔ البتہ اگر غالب گمان یہ ہو کہ اگر ان کو بطور استحباب دعوت اسلام دی جائے گی تو اس سے مسلمانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ وہ فوز اپنا سامان مہیا کر لیں گے۔ یا اپنے قلعہ کو درست کر لیں گے۔ تو دوبارہ دعوت کو ترک کر دینا چاہئے۔

کفار اسلام قبول کرنے اور جزیہ دینے سے انکار کر دیں تو استعانت باللہ سے حملہ شروع کر دیں

قَالَ فَإِنْ أَبَوْا ذَاكَ اسْتَعَانُوا بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَحَارَبُوهُمْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ سَلِيمَانَ بْنِ بَرِيْدَةَ فَإِنْ أَبَوْا ذَاكَ فَادْعُهُمْ إِلَى إعْطَاءِ الْجِزْيَةِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ أَبَوْهَا فَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ وَلِأَنَّهُ تَعَالَى هُوَ النَّاصِرُ لِأَوْلِيَائِهِ وَالْمُدْمِرُ عَلَى أَعْدَائِهِ فَيُسْتَعَانُ بِهِ فِي كُلِّ الْأُمُورِ

ترجمہ..... کہا دعوت اسلام کے بعد بھی اگر کفار جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں تو اہل اسلام اللہ عزوجل سے ان کے خلاف مدد کی درخواست کر کے ان سے مقاتلہ کریں۔ رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کی وجہ سے جو کہ حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اگر دشمن کلمہ شہادت کہنے کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیں تو ان کو جزیہ دینے کی دعوت دو۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں تو ان کے خلاف اللہ سے مدد چاہو پھر ان سے قتال شروع کر دو۔ (رواہ مسلم و سنن اربعہ)

اور اس دلیل سے بھی مدد چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے خاص بندوں کو فتح دینے والا اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اس لئے تمام معاملات میں اسی سے مدد طلب کرنا چاہئے۔

منجنيق نصب کرنے کا حکم

وَنَصَبُوا عَلَيْهِمُ الْمَجَانِيْقَ كَمَا نَصَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الطَّائِفِ وَحَرَقُوهُمْ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحْرَقَ الْبُؤَيْرَةَ

ترجمہ..... اور ان کفار پر مقاتلہ کی غرض سے وہ منجنيق قائم کر دیں۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے طائف پر منجنيق قائم کر دی تھی۔ اور ان دشمنوں کے علاقوں کو جلا دیں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے موضع بؤیرہ کو جلا دیا تھا۔

تشریح..... وَنَصَبُوا عَلَيْهِمُ الْمَجَانِيْقَ..... الخ کفار سے مقاتلہ جاری رہنے کی صورت میں ان پر منجنيق کے ذریعہ پتھر سے حملہ کیا جا سکتا ہے اور ان کو آگ سے جلایا بھی جاسکتا ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ سے بھی بؤیرہ (باء کو ضمہ اور واو کو فتح کے ساتھ ایک مقام کا نام) کو جلا



دیا تھا۔

منجیق..... میم کو کسرہ کے ساتھ واحد ہے جمع مجانیق۔ مجانیق منجیقات۔

فلاخن..... ایک بڑا گوبھیا جس سے قلعوں پر پتھر مار کر اسے توڑنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اور وہی کام اب توپوں سے لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ تقریباً متروک ہو گیا ہے۔ لیکن حدیث سے اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ توپوں سے حملہ کرنا بھی جائز ہے۔ اور بوریہ کے جلانے کی حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہود اور نبی نصیر کے کھجوروں کے درخت جلوادیئے اور کٹوا ڈالے تھے۔ رواہ البخاری و مسلم اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ خود کفار کو بھی جلانا جائز ہے لیکن ان کے فساد دور کرنے کے لئے قتل کرنے کی طرح ان کا جلانا بھی جائز ہے۔

پانی چھوڑنے، درخت کاٹنے اور کھیتی اجاڑنے کا حکم

قَالَ وَارْسَلُوا عَلَيْهِمُ الْمَاءَ وَقَطَعُوا اشْجَارَهُمْ وَافْسَدُوا زُرُوعَهُمْ لِأَنَّ فِيَّ جَمِيعِ ذَلِكَ الْحَاقَّ الْكَبْتَ وَالْغَيْظَ بِهِمْ وَكَسَرَ شَوْكَتِهِمْ وَتَفَرَّقَ جَمْعُهُمْ فَيَكُونُ مَشْرُوعًا

ترجمہ..... اور قدوریٰ نے کہا ہے کہ اور کافروں اور دشمنوں پر پانی کا سیلاب رواں کر دیں یعنی اگر موقع ملے تو ان کو پانی میں ڈبو دیں۔ اور ان کے درخت کاٹ دیں۔ اور ان کی کھیتیاں خراب کر دیں کیونکہ ان تمام کاموں سے کافروں کی ذلت اور ان کی بربادی اور ان کو غم میں ڈالنا اور ان کی طاقت کو کچلنا اور ان کی جماعت کو متفرق اور تتر بتر اور منتشر کرنا ہوتا ہے۔ اس لئے ان میں کا ہر فعل جائز ہوگا۔ (اور اگر غالب گمان ہو کہ اب اسلام کی فتح ہوگی تو ایسی صورت میں پھل دار درختوں کا کاٹنا اور کھیتی کو نقصان پہنچانا مکروہ ہوگا)۔

کفار کے پاس مسلمان قیدی ہوں ان پر تیر اندازی کا حکم

وَلَا بَأْسَ بِرَمِيهِمْ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسْلِمٌ أَسِيرٌ أَوْ تَاجِرٌ لَّا فِي الرَّمْيِ دَفْعُ الضَّرَرِ الْعَامِّ بِالذَّبِّ عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ وَقَتْلُ الْأَسِيرِ وَالتَّاجِرِ ضَرَرٌ خَاصٌّ وَلِأَنَّهُ قَلَّمَا يَخْلُو حِصْنٌ عَنْ مُسْلِمٍ فَلَوْ امْتَنَعَ بِاعْتِبَارِهِ لَأَنَسَدْنَا بَابَهُ

ترجمہ..... اور کافر دشمنوں پر پتھر برسانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ ان میں مسلمان قیدی یا تاجر بھی موجود ہوں۔ کیونکہ ان پر پتھر برسانے میں مسلمانوں کی بڑی جماعت سے عمومی طریقہ سے نقصان دہ چیزوں سے بچانا مقصود ہوتا ہے اور چند یا ایک دو مسلمان یا تاجر کا مرجانا صرف اسی ایک دو فرد کا قتل ہو جانا یہ شخصی نقصان ہوتا ہے۔ اور اس دلیل سے بھی کہ ایسی صورت کم ہی ہوتی ہے کہ کوئی قلعہ مسلمان سے بالکل خالی ہوتا ہو۔ اس لئے اگر مسلمان کا خیال کر کے ایسا کرنا منع کر دیا جائے تو جہاد کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ (اسی طرح اگر کافروں کے قلعہ میں چند مسلمان خواہ قیدی یا تاجر کسی طرح کے ہوں تو قلعہ کے اندر توپوں کے گولے گرانا بھی جائز ہوگا۔ البتہ اس صورت میں صرف کافروں کے قتل کی نیت ہونی چاہئے۔ اگرچہ ضمناً مسلمان بھی مارے جائیں۔



کفار مسلمانوں کے بچوں اور مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنائیں تب بھی تیر برسائے جائیں

وَإِنْ تَتَرَسَّوْا بِصِبْيَانِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ بِالْأُسَارَى لَمْ يَكُفُّوا عَنْ رَمِيهِمْ إِمَّا بَيْنًا وَيَقْصُدُونَ بِالرَّمْيِ الْكُفَّارَ لِأَنَّهُ إِنْ تَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ فِعْمَلًا فَلَقَدْ أَمَكَّنَ قَصْدًا وَالطَّاعَةَ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ وَمَا أَصَابُوا مِنْهُمْ لَا دِيَّةَ عَلَيْهِمْ وَلَا كَفَّارَةَ لِأَنَّ الْجِهَادَ فَرَضُ وَالْغَرَامَاتُ لَا تَقْرَنُ بِالْفُرُوضِ بِخِلَافِ حَالَةِ الْمُخَمَّصَةِ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ مَخَافَةُ الضَّمَانِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِخْيَاءِ نَفْسِهِ أَمَّا الْجِهَادُ فَمَبْنِيٌّ عَلَى اتِّلَافِ النَّفْسِ فَيَمْتَنِعُ مَحْذَرُ الضَّمَانِ

ترجمہ..... اگر مسلمانوں کے حملہ کے وقت دشمنوں نے مسلمانوں کے بچوں یا مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنا کر اپنے آگے کر لیا تب بھی مجاہدین ان دشمنوں کو تیر یا پتھر مارنے سے نہ رکھیں۔ کیونکہ عام مسلمانوں کے نقصان کو دور کرنے کے لئے ان قیدیوں یا بچوں کے نقصان کو برداشت کرنا ہوگا۔ البتہ تیر یا پتھر مارتے وقت صرف دشمنوں کی ہلاکت کی نیت کریں اور اپنے مسلمان قیدیوں یا بچوں کو مارنے کی نیت نہ کریں کیونکہ اگر تیر مارتے وقت مقابل کے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان تمیز کرنا ممکن نہ ہو تو کم از کم نیت میں یہ امتیاز کرنا ممکن ہے اور فرمانبرداری اسی حد تک واجب ہوتی ہے جہاں تک بندہ کی وسعت میں ہو۔ پھر اس تیر یا پتھر مارنے سے مسلمانوں کے بچوں یا قیدیوں کو جس قسم کی بھی چوٹ لگے گی اس کی وجہ سے ان مسلمانوں پر نہ دیت لازم آئے گی اور نہ ان کے قتل سے کفارہ قتل ہوگا۔ کیونکہ جہاد فرض ہے اور فرائض ادا کرنے کا تعلق تاوان سے نہیں ہوتا ہے۔ بخلاف مخصہ (جن کنی) کی حالت کے کیونکہ اس حالت میں تاوان کے خوف سے باز نہ رہے گا کیونکہ اس حالت میں غیر کے مال سے اپنی جان کو زندہ رکھنا ہوتا ہے۔ مگر جہاد میں تو کافروں کو ہلاک کرنا ہوتا ہے۔ اسلئے اس جہاد میں تاوان لازم کرنے سے کوئی بھی ان پر حملہ نہیں کرے گا۔

تشریح..... بِخِلَافِ حَالَةِ الْمُخَمَّصَةِ..... الخ مقاتلہ کے وقت اگر مسلمانوں سے مسلمان قیدی مارے بھی جائیں جب بھی ان پر ضمان لازم نہیں آتا ہے بخلاف اس صورت کے جب کہ اپنی جان جانے کے خطرہ کی صورت میں غیر کا مال کھالینے سے اس مال کا ضمان دینا پڑتا ہے۔ اس مسئلہ کی توضیح یہ ہے کہ اگر بھوک کی زیادتی سے آدمی کی حالت مرنے کی جیسی ہو جائے یعنی اگر غیر کا مال اس وقت نہ کھائے تو مرجانے کا خوف ہو اور غیر کے اس مال کے سوا اپنا کوئی مال جان بچانے کے لائق نہ ہو تو اس پر واجب ہے کہ ضرورت کے مطابق غیر کا مال کھا کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرے۔ مگر جو کچھ کھائے گا اس کا ضمان بھی دینا واجب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرض کی ادائیگی کی صورت میں بھی تاوان واجب ہوتا ہے اس لئے جہاد کی صورت میں مسلمان کے قتل پر اس کی جان کا ضمان لازم ہونا چاہئے۔ اسی طرح اس جگہ بھی باوجودیکہ جہاد فرض ہے اگر مجاہدین کے تیر یا پتھر یا بندوق یا تلوار سے کوئی مسلمان قیدی یا مسلمان کا بچہ جس کو کافروں نے اپنے آگے رکھ کر ڈھال کا کام لیا تھا وہ مارا گیا تو چاہئے کہ کافروں کو مغلوب کرنے کے لئے اسے مارنا جائز ہو۔ لیکن مسلمان مقتول کے بدلہ دیت یا کفارہ قتل بھی لازم ہو۔ مگر مصنف نے دونوں صورتوں میں فرق بیان کیا کہ مخصہ کی صورت میں اس وجہ سے تاوان برداشت کرنا ہوگا کہ خود اس کی اپنی جان بچتی ہے اور جہاد کی صورت میں تاوان برداشت نہیں کرے گا۔ کیونکہ یہاں تو کافروں کو ہلاک کرنا ہے پس اگر کافروں کے ہلاک کرنے میں اس پر دیت یا کفارہ قتل لازم آئے تو وہ جہاد سے پرہیز کرے گا۔ حالانکہ دارالکفر میں ہر قلعہ کے اندر کوئی نہ کوئی مسلمان موجود ہوتا ہے۔ اس لئے ہمیشہ اپنی جان بچانے کے لئے اسے آگے بڑھا دیں گے تاکہ مجاہدین اپنے جہاد اور حملہ سے باز



رہیں۔ حالانکہ ایسا کرنے میں اسلام اور مسلمانوں کا عام نقصان ہے۔ اور شریعت نے کبھی عام لوگوں کے نقصان کو جائز نہیں کہا ہے۔ یہ بات اسی بناء پر لازم آئی تھی کہ مجاہدین پر دیت لازم ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ دیت لازم نہیں ہوتی ہے۔ م۔ اور معلوم ہونا چاہئے کہ دارالکفر میں قرآن مجید یا عورتوں کو لیجانا اس خوف سے منع ہے کہ وہ کافروں کے قبضہ میں آجائیں اور انتہائی بے عزتی اور توہین ہو۔

### عورتوں اور مصاحف کو لشکر اسلام لے کر نہ نکلیں

قَالَ وَلَا بَأْسَ بِاخْرَاجِ النِّسَاءِ وَالْمَصَاحِفِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانَ عَسْكَرًا عَظِيمًا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْغَالِبَ هُوَ السَّلَامَةُ وَالْغَالِبُ كَالْمُتَحَقِّقِ وَيُكْرَهُ اخْرَاجُ ذَلِكَ فِي سَرِيَّةٍ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا لِأَنَّ فِيهِ تَعْرِضُهُنَّ عَلَى الصِّيَاعِ وَالْقَضِيحَةِ وَتَعْرِضُ الْمَصَاحِفِ عَلَى الْإِسْتِخْفَافِ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِفُّونَ بِهَا مَغَايِظَ لِلْمُسْلِمِينَ وَهُوَ التَّأْوِيلُ الصَّحِيحُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَلَوْ دَخَلَ مُسْلِمٌ إِلَيْهِمْ بِأَمَانٍ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ الْمُصْحَفَ إِذَا كَانُوا قَوْمًا يُؤْفُونَ بِالْعَهْدِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ التَّعَرُّضِ وَالْعَجَازُ يُخْرَجْنَ فِي الْعَسْكَرِ الْعَظِيمِ لِاقَامَةِ عَمَلٍ يَلِيقُ بِهِنَّ كَالطَّبْخِ وَالتَّقْيِ وَالْمَدَاوَاةِ فَأَمَّا الثَّوَابُ فَقَرَارُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ أَدْفَعُ لِلْفِتْنَةِ وَلَا يُبَاشِرْنَ الْقِتَالَ لِأَنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى ضَعْفِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَلَا يُسْتَحَبُّ اخْرَاجُهُنَّ لِلْمُبَاضَعَةِ وَالْخِدْمَةِ فَإِنْ كَانُوا لَا يَبْدُو مُخْرَجِينَ فَيَا لِمَاءِ دُونَ الْحَرَائِرِ

ترجمہ..... کہا اگر مجاہدین کا لشکر اتنا بڑا ہو جس کے شکست کا خطرہ نہ ہو تو مجاہدین اپنے ساتھ اپنی عورتوں اور قرآن پاک کو لے جاسکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لئے ایسے لشکر پر سلامتی کے ساتھ واپس آنے کا غالب گمان ہوتا ہے۔ اور ایسا غالب گمان مثل محقق اور یقین کے ہوتا ہے۔ اور اگر چھوٹا لشکر ہو جسے سریہ بھی کہا جاتا ہے وہاں عموماً اپنی کامیابی کا یقین نہیں ہوتا۔ بلکہ خوف ہی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ان کا عورتوں اور قرآن پاک کو اپنے ساتھ لے جانا مکروہ ہوگا۔ کیونکہ ساتھ لیجانے میں ان کے ضائع کرنے اور رسوائی پانے کا خوف رہتا ہے۔ اس لئے کہ اگر خدا نخواستہ کفار ان پر قابو پا لینگے تو مسلمان کو بھڑکانے اور چلانے کے لئے ان کے ساتھ برے طریقہ سے پیش آئیں گے اسی بناء پر بعض احادیث میں مروی ہے کہ دشمنوں کے ملک میں قرآن کے ساتھ سفر نہ کرو۔ جب کہ بخاری اور مسلم نے اس کی روایت کی ہے ایسی روایتوں کی صحیح تاویل یہی ہے کہ ساتھ لیجانے میں حقارت کا خوف ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان امان لے کر کافروں کے یہاں جائے تو اسے اپنے ساتھ کلام مجید کو لیجانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بشرطیکہ وہ کفار ایسی قوم کے ہوں جو اپنے عہد اور قول و قرار کا پاس رکھتے ہوں۔ بدعہدی نہ کرتے ہوں۔ کیونکہ بظاہر وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ بوڑھی عورتیں بڑے لشکر کے ساتھ جاسکتی ہیں اور جانا چاہئے۔ تاکہ وہاں کھانے پکانے کھلانے اور پانی پلانے، مریضوں اور زخمیوں کے علاج اور دیکھ بھال اور دوسرے ضروری کام کر سکیں۔ (جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے جسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے) لیکن جوان عورتوں کو اپنے گھروں ہی میں رہنا چاہئے۔ تاکہ ان کی وجہ سے مسلمان مردوں کو میدان جنگ میں تشویش نہ رہے۔ اور عورتوں کو میدان جنگ میں قتال بھی نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اس طرح مسلمانوں کی کمزوری ظاہر ہوگی کہ ان کے مرد کمزور ہو گئے ہیں البتہ اگر واقعی ضرورت ہو جائے تو جانے میں بھی حرج نہیں ہے اور اگر مجاہدین جماع اور اپنی خدمت کے لئے اپنی بیویوں کو ساتھ لیجانا چاہیں بھی تو نہ لے جائیں کہ لے جانا بہتر نہ ہوگا اور لے جانے کی انتہائی ضرورت سمجھیں تو باندیوں کو لے جانا چاہئے۔ آزاد عورتوں کو بالکل نہ لے جائیں۔ (قول



اصح یہ ہے کہ بوڑھی عورتوں کو بھی لے جانا جائز نہیں ہے۔ (الذخیرہ)

قرآن مجید کی طرح دوسری ایسی کتابوں کو بھی ساتھ لیجنا ممنوع ہے۔ جس کی تعظیم واجب ہو جیسے حدیث و تفسیر اور فقہ کی کتابیں۔ اگر امام نے کسی شہر کو فتح کیا اور اس میں کوئی مسلمان یا ذمی ہو جو خاص طریقہ سے پہچانا نہیں گیا ہے تو ان میں سے کسی کا بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے اور اگر ان لوگوں میں سے کوئی شخص باہر نکل گیا تو باقی لوگوں کو قتل کرنا جائز ہوگا)

### عورت کیلئے خاوند اور غلام کیلئے آقا کی اجازت کا حکم

وَلَا تُقَاتِلُ الْمَرْأَةَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلَا الْعَبْدَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِمَا بَيَّنَّاهُ إِلَّا أَنْ يَهْجُمَ الْعَدُوُّ عَلَى بَلَدٍ لِلضَّرُورَةِ

ترجمہ..... اور کوئی عورت اپنے شوہر کی اور غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر جہاد میں شرکت نہ کرے۔ کیونکہ شوہر اور آقا کا حق معدوم ہوتا ہے۔ البتہ اس صورت میں ان کی اجازت کے بغیر ضرورت خاص کی بنا پر شرکت جائز ہے جبکہ شہر پر کفار اور دشمنوں نے زبردست حملہ کر دیا ہو۔ (حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ سفر میں بہتر ساتھی چار عدد ہیں اور چھوٹے لشکروں میں بہتر لشکر چار سو ہیں بڑا لشکر چار ہزار بہتر ہے۔ اور جب بارہ ہزار ہوں تو تعداد کی کمی کی وجہ سے وہ مغلوب نہ ہوں گے۔ (رواہ ابوداؤد) اور سریہ میں کم سے کم تین عدد ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ سے روایت ہے کہ ایک سو ہیں۔

### غدر، غلول اور مثلہ کا حکم

وَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يَغْدِرُوا وَلَا يَغْلُوا وَلَا يُمَثِّلُوا الْقَوْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَغْدِرُوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَالْغُلُولُ السَّرِقَةُ مِنَ الْمَغْنَمِ وَالْغَدْرُ الْخِيَانَةُ وَنَقْضُ الْعَهْدِ وَالْمُثَلَّةُ الْمَرْوِيَّةُ فِي قِصَّةِ الْعَرَنِيِّينَ مَنْسُوحَةٌ بِاللَّهِ الْمُنَاقِرَةُ الْمُنْقُولُ

ترجمہ..... اور مسلمانوں کو چاہئے کہ غدر، غلول اور مثلہ نہ کریں۔ رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ غلول نہ کرو۔ غدر نہ کرو اور مثلہ نہ کرو۔ جیسا کہ مسلم وغیرہ کی حدیث میں ہے۔ غلول، مال غنیمت سے چوری کرنا، غدر، عہد توڑنا اور خیانت کرنا اور مثلہ مقتول کی ناک، کان وغیرہ کو کاٹ کر اس کی اصلی شکل بگاڑنا۔ اور عربہ والوں کے متعلق جو یہ بات مروی ہے کہ انہیں مثلہ بھی کیا گیا تھا۔ حالانکہ ممنوع کام ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کی ممانعت کا حکم اس واقعہ سے پہلے نہیں ہوا تھا بلکہ بعد میں ہوا تھا۔ اس لئے اب یہ ممنوع ہی ہوا۔ یہی قول منقول ہے۔

تشریح..... ولا یمثلوا الخ اگر دشمن قابو میں آجائے تو اسے مثلہ نہیں کرنا چاہئے۔ اگرچہ ایک بار رسول اللہ ﷺ کے حکم سے مثلہ کا ثبوت ہے مگر اس کے بعد ہی آپ نے اس کی ممانعت فرمادی تھی لہذا مثلہ کا حکم منسوخ ہے۔ مثلہ کا واقعہ قبیلہ عربہ کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اگرچہ یہ واقعہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ پھر بھی یہاں اس کا مختصر بیان یہ ہے کہ قبیلہ عربہ کے کچھ لوگ مدینہ آ کر مسلمان ہوئے مگر بیمار پڑ گئے تب رسول اللہ ﷺ نے ان کو حکم فرمایا کہ جس جگہ پر زکوٰۃ کے اونٹ رہتے اور چرتے ہیں وہاں جا کر رہو اور ان اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیو۔ انہوں نے اس پر عمل کیا اور اسی سے وہ تندرست ہو گئے تب چرواہوں کو قتل کر کے ان کے سارے جانور بھگا کر لے گئے۔



مگر وہ گرفتار کر کے لائے گئے تب آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیرنے کا حکم دیا۔ الخ۔ بخاری اور مسلم وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ اس واقعہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے جب کبھی کوئی خطبہ دیا ہر ایک میں مثلہ سے منع فرمایا۔ رواہ البیہقی۔ اور صحیح کی بعض روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ عرینہ والوں نے چرواہوں کی آنکھیں بول کے کانٹوں سے پھوڑ دی تھیں اس لئے اس کے قصاص میں رسول اللہ ﷺ نے پورا پورا بدلہ لینے کی غرض سے عرینہ والوں کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ ابن سعد نے بھی یہی روایت کی ہے اور ابن ابی شیبہ نے عمران بن حصین سے روایت کی ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ ہر ایک خطبہ میں ہمیں صدقہ دینے پر آمادہ کراتے اور مثلہ سے منع فرماتے تھے۔ اور بیہقی نے معرفت میں کہا ہے کہ عرینہ والوں کا واقعہ یا تو منسوخ ہے جیسا کہ قتادہ اور ابن سیرین سے مروی ہے اور امام شافعی کا قول بھی یہی ہے۔ یا عرینہ والوں کو مثلہ کرنا چرواہوں کے بدلہ میں تھا۔ میں مترجم کہتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ مثلہ ہمیشہ سے ممنوع ہے۔ اور عرینہ والوں سے قصاص لیا گیا تھا۔

### عورت، بچے، بوڑھے، مقعد، اعمیٰ کو جہاد میں قتل نہ کیا جائے

وَلَا يَقْتُلُوا امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا وَلَا شَيْخًا فَانِيًّا وَلَا مُقْعَدًا وَلَا أَعْمَى لِأَنَّ الْمُبِيعَ لِلْقَتْلِ عِنْدَنَا هُوَ الْحِرَابُ وَلَا يَتَحَقَّقُ مِنْهُمْ وَلِهَذَا لَا يَقْتُلُ يَابِسُ الشَّقِّ وَالْمَقْطُوعُ الْهَمْنُ وَالْمَقْطُوعُ يَدُهُ وَرَجُلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَالشَّافِعِيُّ يُخَالِفُنَا فِي الشَّيْخِ وَالْمُقْعَدِ وَالْأَعْمَى لِأَنَّ الْمُبِيعَ عِنْدَهُ الْكُفْرُ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيَّنَّا وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبِيَّانِ وَالذَّرَائِي وَحِينَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مَقْتُولَةً قَالَ هَاهُ مَآكَانَتُ هَذِهِ تُقَاتِلُ فَلِمَ قُتِلَتْ

ترجمہ..... اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ میدان جہاد میں کسی عورت یا بچہ یا شیخ فانی یا لنگڑے یا اندھے کو قتل نہ کریں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک لڑائی دشمن کے قتل کو اگرچہ جائز کرنے والی ہوتی ہے۔ مگر چونکہ ایسے لوگوں سے لڑائی نہیں ہو سکتی ہے اس لئے اسے اور ایسے شخص کو بھی جس کے بدن کا ایک پہلو خشک ہو چکا ہو یا دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہو یا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کٹا ہوا ہو اسے بھی قتل نہ کریں۔ اور امام شافعیؒ شیخ فانی و لنگڑے و اندھے کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے نزدیک قتل کو مباح کرنے والی چیز کفر کا ہونا ہے جو ان سب میں موجود ہے۔ ان کے خلاف ہماری دلیل وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کر دی ہے۔ (کہ لڑائی کا ہونا ہی قتل کے لئے میسج ہے) اور اس طرح سے بھی ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے کسی عورت کو مقتول پایا تو فرمایا یہ عورت تو نہیں لڑ سکتی تھی پھر یہ کیوں قتل کی گئی۔

تشریح..... وَلَا يَقْتُلُوا امْرَأَةً..... الخ بہت بوڑھے اندھے، لنگڑے اور ہاتھ پاؤں کٹے لوگوں کے قتل میں دو اقوال ہیں یعنی قول اول میں سب قتل کئے جائیں گے اور دوسرے قول میں قتل نہیں کئے جائیں گے۔ امام مالک اور احمد رحمۃ اللہ علیہما کا یہی قول ہے۔ جیسا کہ الوجیز میں ہے۔ اور عورتوں اور بچوں کے قتل سے ممانعت کی حدیث صحیح بخاری و مسلم میں ہے۔ اور مقتولہ عورت کی حدیث عبد الرزاق و ابوداؤد اور نسائی نے روایت کی ہے۔ اور صحیحین میں ہے کہ آپ نے کسی جہاد میں ایک عورت کو مقتول دیکھ کر عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہی مفہوم طبرانی و ابن حبان و احمد اور ابن ماجہ میں مذکور ہے۔ الحاصل عورتوں اور بچوں کے قتل کے ممنوع ہونے پر اجماع ہے۔ واضح ہو کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خاص ارادہ اور نشانہ کر کے عورت اور بچہ کو قتل نہیں کرنا چاہئے۔ اور اگر ان کو علیحدہ کرنا اور ممتاز کرنا ممکن نہ



ہو جیسے قلعہ پر حملہ کرنے میں یا مشرکوں پر عام چھاپہ مارنے میں بچے یا عورتیں نشانہ بن جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مواخذہ نہیں ہے۔ چنانچہ ابو داؤد و ترمذی کی حدیث میں مذکور ہے۔ اور شیخ فانی سے مراد وہ بوڑھا مرد ہے جو قتال نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب مقابلہ میں صفیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں اس وقت وہ چلا کر لوگوں کو مقابلہ پر آمادہ نہ کرتا ہو۔ اور نہ وہ حیلہ و تدبیر کر سکتا ہو۔ اور نہ وہ جنگ کی کاروائی میں صاحب رائے ہو۔ اگر ایسا ہو تو اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ورید ابن صممہ کو جو کہ ایک سو بیس برس کا تھا قتل کر دیا۔ کیونکہ وہ جنگی معاملات میں بہت ہوشیار اور صاحب رائے تھا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کا قتل اسی صورت میں جائز ہوگا جب کہ ان سے مسلمانوں کو نقصان ہو ورنہ جائز نہ ہوگا۔

### مذکورہ بالا لوگوں کو کب قتل کرنے کی گنجائش ہے

قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ لَا يَمْنَنُ لَهُ رَأْيٌ فِي الْحِرَابِ أَوْ تَكُونُ الْمَرْأَةُ مُلَكَةً لَتَعْدِي ضَرَرَهَا إِلَى الْعِبَادِ وَ كَذَا يُقْتَلُ مَنْ قَاتَلَ مِنْ هَؤُلَاءِ دَفْعًا لَشَرِّهِ وَلِأَنَّ الْقِتَالَ مُبِیْحٌ حَقِيقَةً

ترجمہ..... قدوری نے کہا ہے کہ البتہ اگر ان مجبور لوگوں میں سے کوئی شخص لڑائی کے سلسلہ میں رائے اور تدبیر رکھتا ہو یا عورت اپنے علاقہ کی ملکہ (یا سردار) ہو تو اسے قتل کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اس کا اثر اور ضرر بندوں اور عوام تک پہنچتا ہے

اسی طرح مذکورہ لوگوں میں سے جو کوئی قتال کرتا ہو تو اس کے شر سے بچنے کے لئے بھی اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس لئے بھی کہ قتال کا جاری رہنا ہی اس کے قتل کو مباح کرتا ہے۔ (اسی طرح جو راہب اپنی صومعہ (عبادت گاہ) یا گرجا گھر میں ہوا عوام اور لوگوں سے میل جول نہ رکھتا ہو تو اس کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے)۔

### میدان جہاد میں مجنون کو بھی قتل نہ کیا جائے

وَلَا يَقْتُلُوا مَجْنُونًا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ إِلَّا أَنْ يُقَاتَلَ فَيُقْتَلَ دَفْعًا لَشَرِّهِ غَيْرَ أَنَّ الصَّبِيَّ وَ الْمَجْنُونِ يُقْتَلَانِ مَا دَامَا يُقَاتِلَانِ وَ غَيْرُهُمَا لَا بَأْسَ بِقَتْلِهِ بَعْدَ الْأَسْرِ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعِقَابِ لِتَوَجُّهِ الْخَطَابِ نَحْوَهُ وَإِنْ كَانَ يَجُنُّ وَيُفِيقُ فَهُوَ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ كَالصَّحِيحِ

ترجمہ..... اسی طرح مسلمانوں کو چاہئے کہ کسی دیوانہ کو بھی قتل نہ کریں کیونکہ اسے شریعت کی طرف سے کوئی خطاب نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ لڑائی میں عملی حصہ دار ہو تو اسے بھی قتل کر دیا جائے گا تا کہ لوگ اس کے نقصان سے محفوظ رہیں۔ لیکن آئمہ اربعہ کے نزدیک بچہ اور دیوانہ کو قتل کرنا اسی وقت تک جائز ہے جب تک وہ قتال میں شریک ہوں یعنی اگر وہ گرفتار کر لئے جائیں تو انہیں قتل نہیں کیا جائے اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو قید کے بعد بھی قتل کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ بھی عذاب دیئے جانے کے مستحق ہو چکے ہیں اس لئے کہ ان کے عاقل اور بالغ ہو جانے کے بعد سے حکم الہی کے وہ بھی مخاطب بن چکے ہیں اور اگر کوئی مجنون ایسا ہو کہ کسی وقت اسے جنون رہتا ہو اور کسی وقت وہ اچھا ہو جاتا ہو تو اس کی تندرستی کی حالت میں اس پر تندرستی کا حکم نافذ ہوگا اور وہ بھی تندرست کے مثل ہوگا۔



## مجاہد اپنے باپ کو پیش قدمی کر کے قتل نہ کرے

وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَسَدَّى الرَّجُلُ أَبَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيَقْتُلَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَلَا يَكُنْ عَلَيْهِ إِحْيَاؤُهُ بِالْإِنْفَاقِ فِينَا قِصَّةُ الْإِطْلَاقِ فَرَّغْنَا

ترجمہ..... اور یہ بات مکروہ ہے کہ مجاہد پہل اور پیش قدمی کر کے اپنے باپ کو خود قتل کرے۔ اس فرمان باری تعالیٰ کی وجہ سے کہ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا یعنی دنیا میں اپنے والدین کے ساتھ اچھی طرح پر زندگی بسر کرو۔ اس لئے اگر باپ مشرکوں کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے قتال کرنے کو آئے اور مجاہدین کی صف میں اس باپ کا بیٹا بھی موجود ہو تو اسی بات میں بھلائی ہے کہ اپنی طرف سے پیش قدمی کر کے اسے قتل نہ کرے اور اس دلیل سے بھی کہ بیٹے پر یہ واجب ہے کہ نفقہ دے کر اپنے باپ کو زندہ رکھے (اور بھوکا رکھ کر اسے نہ مرنے دے) ایسی صورت میں قصد اور پیش قدمی کر کے اسے مار ڈالنے کی مطلق اجازت ہونا اس تقاضا کے خلاف ہوگا۔

## باپ نے بیٹے کو اور بیٹے نے باپ کو پالیا اور آئنا سا منا ہو تو کیا کریں

فَإِنْ أَدْرَكَهُ لَمْ يَتَنَعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْتُلَهُ غَيْرُهُ لَأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بغيرِهِ مِنْ غَيْرِ اقْتِحَامِهِ الْمَأْتَمَ وَإِنْ قَصَدَ الْأَبُ قَتْلَهُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ إِلَّا بِقَتْلِهِ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ الدَّفْعُ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ شَهِرَ الْأَبُ الْمُسْلِمُ سَيْفَهُ عَلَى ابْنِهِ وَلَا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ إِلَّا بِقَتْلِهِ يَقْتُلُهُ لِمَابَيْنَا فَهَذَا أَوَّلِي

ترجمہ..... پھر اگر باپ نے بیٹے کو یا بیٹے نے اپنے باپ کو میدان جہاد میں پایا اور دونوں کا آئنا سا منا ہو گیا۔ تو باپ کو وہیں پر روک رکھے خود اس پر حملہ نہ کرے یہاں تک کہ کوئی دوسرا شخص اسے قتل کر دے۔ (یعنی باپ یہ چاہتا ہو کہ اسے قتل کر دے لیکن بیٹے کے لئے اگر یہ ممکن ہو کہ خود کو اس سے بچا کر اسے قتل کر دے تو بیٹے کو چاہئے کہ کسی بھی طرح سے اسے لڑائی میں مشغول رکھے مثلاً اس کے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دے یا اسے گھوڑے پر سے گرا دے۔ یا کسی جگہ اسے مجبور کر کے روک کر رکھے یہاں تک کہ کوئی دوسرا مسلمان وہاں پر آ کر اسے قتل کر دے یہی حکم دوسرے محارم ماں، دادا، دادی وغیرہ کا ہے۔) کیونکہ جو مقصود ہے اسے وہ خود نہ کر کے دوسرے کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے اور اگر کافر باپ نے اسے قتل کرنا چاہا اور اس کو قتل کرنے کے سوا خود کو بچانے کی کوئی صورت اس بیٹے کے پاس نہ ہو تو ایسی صورت میں باپ کو قتل کر دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں اس مسلمان بیٹے کو اپنی ذات سے اس مصیبت کو دور کرنے اور خود کو بچانے کے سوا دوسری کوئی نیت نہیں ہے۔ کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے (بلکہ ضرور آتی ہے) کہ اگر کسی موقع میں مسلمان باپ بھی اپنے بیٹے پر اس کے قتل کرنے کی نیت سے تلوار کھینچ لے۔ اور بیٹا کسی صورت سے بھی خود کو اس سے نہیں بچا سکتا ہو سوائے اس کے خود سبقت کر کے باپ کو قتل کر دے تو اسے قتل کرنا جائز ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہ اس لا چاری میں وہ خود کو اس خطرناک نقصان سے بچالے۔ پس یہاں کافر باپ سے مقابلہ ہونے کی صورت میں تو بدرجہ اولیٰ جائز ہوگا۔

تشریح..... فَإِنْ أَدْرَكَهُ..... الخ اگر میدان میں بیٹے کے لئے یہ ممکن نہ ہو کہ باپ کے حملہ میں خود کو اس سے بچا سکے۔ تو از خود اس پر حملہ نہ کرے بلکہ اسے کسی طرح اتنی دیر تک روک رکھے کہ کوئی دوسرا آ کر اسے قتل کر دے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو اور اس کے حملہ سے بچنے کے لئے



خود ہی اس پر پہل کر کے قتل کی مجبوری ہو جائے تو یہ بھی کر سکتا ہے اور بیٹے کو جائز نہ ہوگا کہ باپ کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے دوسرے مجاہدین اس بیٹے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کافر باپ کو بھاگ جانے دے بلکہ اسے مجبور کر کے روکے یہاں تک کہ کوئی دوسرا شخص اسے قتل کر دے اور اگر اس طرح روکنے میں خود قتل ہوتا ہو تو باپ کو بھی قتل کر دے کیونکہ اس پر اپنی جان کی حفاظت فرض ہے اس مسئلہ کی نظیر یہ ہے کہ اگر باپ اور بیٹا دونوں سفر میں ہوں اور دونوں ہی پیاس کی زیادتی سے مرنے لگیں اور بیٹے کے پاس صرف اتنا ہی پانی موجود ہو جس سے ان میں سے کسی ایک کی جان بچ سکتی ہے تو بیٹے پر فرض ہوگا کہ اپنی جان بچائے ورنہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہوگا۔ اور اگر کسی نے اپنے باپ کے متعلق یہ سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ (ﷺ) کو برائی کے ساتھ یاد کرتا ہے تو بیٹے کے لئے یہ جائز ہوگا کہ اپنے اس باپ کو قتل کر دے کیونکہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کی زبان سے سنا کہ وہ رسول اللہ (ﷺ) کو گالی دیتا ہے اس لئے ان سے ضبط نہ ہو سکا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر ایسا کرنے پر رسول اللہ (ﷺ) نے بھی ان کے خلاف کچھ نہیں فرمایا اگر باپ مسلمان ہو اور بیٹا مشرکوں کی طرف ہو تو باپ کے لئے یہ بات مکروہ بھی نہیں ہے کہ اپنے کافر بیٹے کو قتل کر دے۔ اسی طرح اگر چچا و ماموں اور دوسرے ذوی الارحام کافر ہوں اور کافروں کی طرف سے لڑنے آئیں تو ان کا قتل کرنا مکروہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ لوگ مسلمان ہوں مگر خلیفہ اسلام سے باغی ہوں تو مکروہ ہے کہ باپ کی طرف پیش قدمی کر کے ان کو قتل کر دے۔ اگر محسن باپ نے زنا کیا اور اس کے گواہوں میں ایک اپنا بیٹا بھی ہو۔ یہاں تک کہ اس کے رجم کرنے کا حکم بھی ہو گیا تو ایسی صورت میں اگرچہ گواہ ہی کو حکم ہوتا ہے کہ پہلے وہ کنکریاں مارے۔ مگر موجودہ صورت میں بیٹے کو چاہئے کہ اسے کنکری مارتے وقت اس کے قتل کرنے کی نیت نہ کرے بلکہ اس کی طرف کنکری پھینک دے۔

## بَابُ الْمُوَادَعَةِ وَمَنْ يَجُوزُ أَمَانُهُ

ترجمہ..... باب مصالحت کرنے اور جس کی امان جائز ہے اس کے بیان میں

امام کیلئے اہل حرب کیساتھ صلح کا حکم

وَ إِذَا رَأَى الْإِمَامُ أَنَّ يُصَالِحَ أَهْلَ الْحَرْبِ أَوْ فَرِيقًا مِنْهُمْ وَ كَانَ فِي ذَٰلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا بُاسَ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ وَاذَعْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَهْلَ مَكَّةَ عَامَ الْحُدُوبِ عَلَى أَنْ يَضَعَ الْحَرْبَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ عَشْرَ سِنِينَ وَلِأَنَّ الْمُوَادَعَةَ جِهَادٌ مَعْنَى إِذَا كَانَ خَيْرًا لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وَهُوَ دَفْعُ الشَّرِّ حَاصِلٌ بِهِ وَلَا يَقْتَصِرُ الْحُكْمُ عَلَى الْمُدَّةِ الْمُرَوِّيةِ لِتَعَدِّي الْمَعْنَى إِلَى مَا زَادَ عَلَيْهَا بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ تَكُنْ خَيْرًا لِأَنَّهُ تَرَكَّ الْجِهَادَ صُورَةً وَمَعْنَى

ترجمہ..... اگر امام نے مسلمانوں کے حق میں دشمنوں سے یا ان کے کسی فریق سے صلح کر لینے ہی میں مصلحت سمجھی اور واقعاً ایسا کرنے میں مسلمانوں کے حق میں بہتری ہو تو ایسا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ یعنی اگر کافروں کی جماعت مسلمانوں سے صلح کر لینے کے لئے جھک جائے تو اے نبی آپ ان سے مصالحت کے لئے



جھک جائیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیں اور رسول اللہ ﷺ نے حدیبیہ کے سال میں مکہ والوں کے ساتھ دس برس تک کے لئے اس شرط پر مصالحت کی تھی کہ آپ کے اور کافروں کے درمیان لڑائی بند رہے گی۔ رواہ ابو داؤد و احمد وغیرہ۔ اور اس دلیل سے بھی جائز ہے کہ مصالحت کرنی بھی جہاد ہی کے حکم میں ہے مگر باطنی طور پر بشرطیکہ وہ مسلمانوں کے واسطے بہتر ہو۔ کیونکہ جہاد کا مقصد شر کو دور کرنا ہوتا ہے اور وہ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ ایک روایت میں مصالحت کی مدت جو دس برس لکھی گئی ہے وہ صلح کے جائز ہونے کی ہے لیکن اتنی ہی کا ہونا ضروری بھی نہیں ہے جس معنی کی بناء پر جائز کہا گیا ہے وہ معنی اس سے زیادہ مدت میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یعنی اگر دس برس سے زیادہ مصالحت کرنے میں بھی مسلمانوں کا فائدہ ہو تو وہ بھی جائز ہوگی لیکن اگر مسلمانوں کے حق میں مصالحت میں فائدہ اور مصلحت نہ ہو تو وہ جائز نہ ہوگی۔ کیونکہ اس دوسری صورت میں جبکہ وہ مسلمانوں کے لئے مفید نہ ہو جہاد کا ظاہری اور باطنی دونوں طور پر چھوڑنا لازم آتا ہے۔

تشریح..... دشمنوں سے مصالحت کرنے میں اگر مسلمانوں کے لئے فائدہ ہو تو بالاتفاق تمام فقہاء کے نزدیک جائز ہے اسی طرح اگر مصلحت نہ ہو تو بالاتفاق جائز نہیں ہے۔ بیہقی نے کہا ہے کہ صلح حدیبیہ میں کفار قریش سے جو مصالحت ہوئی تھی اس سلسلہ میں کئی اور روایتوں میں دو برس کی مدت بیان کی گئی ہے۔ اس سے مراد یہی مدت ہے جس میں وہ مصالحت باقی رہی اور اس پر عمل ہو اور نہ اصل میں مصالحت تو دس برسوں کے لئے ہوئی تھی۔ اور بیہقی کا یہ کلام بہت بہتر ہے۔ جس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ ﷺ کے حمایت میں بنو خزاعہ تھے۔ اس لئے قریش نے اپنے حلیف بنو بکر کی مدد کر کے خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اس طرح جب قریش نے اس عہد کو توڑ دیا تو رسول اللہ ﷺ نے چڑھائی کر کے مکہ فتح کر لیا۔ اور یہ واقعہ دو برس کے بعد ہوا۔

### صلح کر کے مدت معینہ کے بعد صلح کو توڑنے کا حکم

وَ اِنْ صَالَحَهُمْ مُدَّةٌ ثُمَّ رَأَى نَقْضَ الصُّلْحِ اَنْفَعَ لِنَبْلِ اِيَّاهُمْ الْاِمَامُ وَقَاتِلَهُمْ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبْدَ الْمُوَادَعَةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَهْلِ مَكَّةَ وَلَآ اَنَّ الْمَصْلَحَةَ لَمَّا تَبَدَّلَتْ كَانَ النَّبْدُ جِهَادًا وَ اِيْفَاءُ الْعَهْدِ تَرْكُ الْجِهَادِ صُورَةٌ وَ مَعْنَى فَلَا بُدَّ مِنَ النَّبْدِ تَحْرُزًا عَنِ الْغَدْرِ وَ قَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْعُهُودِ وَ فَاءٌ لَا غَدْرَ وَ لَا بُدَّ مِنْ اِغْتِبَارِ مُدَّةٍ يَبْلُغُ فِيهَا خَبَرُ النَّبْدِ اِلَى جَمْعِهِمْ وَ يُكْتَفَى فِي ذَالِكَ بِمُضِيِّ مُدَّةٍ يَتِمَّ كُنْ مَلِكُهُمْ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالنَّبْدِ مِنْ اِنْفَادِ الْخَبَرِ اِلَى اطْرَافِ مَمْلَكَتِهِ لِأَنَّ بِذَالِكَ يَنْتَفَى الْغَدْرُ

ترجمہ..... اور اگر امام المسلمین نے کافروں سے کسی خاص معین مدت کے لئے صلح کی مگر بعد میں اس نے اس معاہدہ کے توڑ ڈالنے میں مصلحت سمجھی تو امام کو چاہئے کہ عہد توڑ ڈالنے کی خبر کافروں کو پہلے کر دے پھر ان سے قتال کرے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس عہد کو جو آپ کے اور کفار قریش کے درمیان ہوا تھا ان کفار پر پھینک دیا (توڑ دیا) اور قریش کو اس سے مطلع کر دیا (یعنی معاہدہ کے ڈیڑھ برس کے بعد قریش مکہ نے بنو بکر کے ساتھ ہو کر بد عہدی کرتے ہوئے اس قبیلہ خزاعہ پر حملہ کر دیا تھا جو رسول اللہ ﷺ کے جانبدار اور حلیف تھے تب آپ نے بھی ان کا عہد ان پر پھینک مارا۔ اور لڑائی کا سامان کر کے مکہ پر چڑھائی کر دی۔ جیسا کہ بیہقی وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے) اور اس دلیل سے کہ جب مسلمانوں کی مصلحت بدل گئی تو عہد کو پھینک دینا جہاد ہے۔ اور عہد کو پورا کرنا ظاہر و باطن ترک جہاد ہے۔



(حالانکہ ظاہر و باطن دونوں طرح ترک جہاد جائز نہیں ہے۔) اس لئے عہد کو ختم کر دینا ہی ضروری ہوا۔ ختم کر دینے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کافروں کو پہلے سے مطلع کر دیا جائے ہم نے تم سے کئے ہوئے عہد کو اب ختم کر دیا ہے تاکہ غداری اور بدعہدی نہ ہو۔ حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے عہد کے بارے میں فرمایا ہے کہ عہد وفا ہے اور غد نہیں ہے۔ جیسا کہ ابن ماجہ نے اس کی روایت کی ہے اور عہد ختم کرنے کے موقع پر اتنی مدت درمیان میں ہونی ضروری ہے جس میں تمام کافروں کو معاہدہ کے ختم ہونے کی خبر پہنچ سکے اور وہ دھوکہ میں یا بے خبر نہ رہیں۔ مگر اس کے لئے حقیقتاً سب کو مطلع ہو جانا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ صرف اتنی مدت کا گزر جانا کافی ہے کہ کافروں کا بادشاہ یا راجہ اس معاہدہ کے ختم ہو جانے سے خود واقف ہو کر اپنے تمام علاقوں میں خبر پہنچا سکے ایسا کر دینے سے بدعہدی کا الزام نہ ہوگا۔

تشریح..... وَلَا بُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِ مُدَّةٍ..... الخ اگر امام المسلمین مسلمانوں کے فائدہ کے پیش نظر کافروں سے مصالحت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس طرح اگر مصالحت کے بعد کسی وجہ سے اس معاہدہ کو ختم کر دینا چاہے تو اس کی بھی اسے اجازت ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ کافروں کے سرداروں کو اس کی اطلاع بھی کر دے تاکہ بدعہدی اور غداری کا ہم پر الزام نہ ہو اور وہ غفلت میں پڑے نہ رہیں۔ ساتھ ہی اتنا وقت بھی ان کو دیا جائے جس میں خبر ان کے ہاں پھیل سکے پھر خبر خواہ پھیلے یا نہ پھیلے اس کی ذمہ داری نہ ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب کافروں کے بادشاہ کو یہ خبر دیدی گئی کہ ہم نے عہد توڑ دیا ہے تو اس کے بعد فوراً ہی حملہ نہ کر دے کیونکہ وہ لوگ اس معاہدہ کی بنا پر دھوکہ میں لڑائی سے غافل رہیں گے ایسی صورت میں حملہ کرنا بدعہدی ہوگی بلکہ اتنی مدت بھی متعین کر دی جائے کہ وہ کفار اس سے باخبر ہو سکیں۔ لیکن ان سب کو خبر ہوئی یا نہیں اس کی خبر نہیں ہو سکتی ہے اس لئے اتنی مدت کا گزر جانا ہی کافی ہوگا۔ کہ جس میں کافروں کا بادشاہ اپنے ملک کے تمام علاقوں میں اس خبر سے سب کو مطلع کر سکتا ہو۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار روم کے ساتھ معاہدہ کیا پھر لشکر کو لے کر ان کافروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر عہد کے توڑنے کی خبر دینے کے ساتھ ہی ان پر حملہ بھی کر دینا چاہا۔ اتنے میں ایک شخص جس سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے یہ کہتا ہوا آیا کہ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَفَاءٌ لَا غَدْرَ۔ اس پر مڑ کر ان کو دیکھا تو وہ عمرو ابن عبسہ تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جس شخص سے کسی قوم کے درمیان معاہدہ ہو تو وہ اس مدت کے اندر کوئی گرہ مضبوط نہ کرے اور نہ کھولے (معاہدہ میں ذرہ برابر کمی و بیشی نہ کرے) یہاں تک کہ وہ مدت گزر جائے۔ یا عہد توڑنے کی اطلاع برابری کے ساتھ ان کو بھی دے۔ پس یہ سن کر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنا لشکر لے کر لوٹ آئے۔

(رواہ احمد، ابوداؤد و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ و ابن حبان)

اس کے معنی یہ ہیں کہ مدت کے درمیان حملہ کا سامان نہ کرے مگر اس طرح سے کہ ان کو بھی اطلاع دیدے تاکہ وہ لوگ بھی سامان کر سکیں۔

### کفار نقض عہد میں پہل کریں تو امام بھی ان سے مقاتلہ کرے

قَالَ وَ إِنْ بَدَّوْا بِيْحَانَةٍ قَاتِلْهُمْ وَلَمْ يَنْبُذْ إِلَيْهِمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِهِمْ لِأَنَّهُمْ صَارُوا نَاقِضِينَ لِلْعَهْدِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى نَقْضِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا دَخَلَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ فَقَطَّعُوا الطَّرِيقَ وَلَا مَنَعَةَ لَهُمْ حَيْثُ لَا يَكُونُ هَذَا نَقْضًا لِلْعَهْدِ وَلَوْ كَانَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَقَاتَلُوا الْمُسْلِمِينَ عَلَانِيَةً يَكُونُ نَقْضًا لِلْعَهْدِ فِي حَقِّهِمْ ذُوْنَ غَيْرِهِمْ لِأَنَّهُ بَغْيٌ إِذْ مَلَكَهُمْ فَفَعَلَهُمْ لَا يَلْزَمُ غَيْرَهُمْ حَتَّى لَوْ كَانَ بِإِذْنِ مَلِكِهِمْ صَارُوا نَاقِضِينَ لِلْعَهْدِ لِأَنَّهُ بِاتِّفَاقِهِمْ مَعْنَى



ترجمہ..... قدوریؒ نے کہا کہ اگر کافروں نے بد عہدی کرنے میں خود ہی ابتداء کی تو امام بھی ان سے مقاتلہ کرے۔ اور معاہدہ کو ختم کرنے کی ان کو اطلاع نہ دے اور ان کے پاس اس کی خبر نہ بھیجے بشرطیکہ ان کافروں نے متفق ہو کر ویسا کیا ہو۔ (یا کافروں کی کسی بڑی جماعت نے اپنے بادشاہ کی اجازت سے خیانت کی ہو)۔ کیونکہ جب ان لوگوں نے خود ہی عہد توڑ دیا تو اب اس کے توڑنے کی ضرورت نہیں رہی بخلاف اس کے اگر کافروں کی ایک جماعت یا چھوٹی جماعت نے جن کو پوری قوت اور شوکت حاصل نہ ہو دارالاسلام میں گھس کر دیکیتی کی تو اسے پوری قوم کا عہد توڑنا نہیں کہا جاسکتا ہے اور اگر ان لوگوں کو قوت حاصل ہو اور انہوں نے کھلم کھلا اعلان یہ مسلمانوں سے قتال کیا ہو تو یہ ان دیکیتوں کے حق میں عہد شکنی شمار کی جائے گی لیکن پوری قوم کی طرف سے نہ ہوگی۔ کیونکہ اس کا یہ عمل اپنے بادشاہ کے مشورے اور اجازت کے بغیر ہوا ہے۔ اس لئے ان کا عمل دوسرے پر لازم نہ ہوگا ہاں اگر بادشاہ کی اجازت یا اس کے اشارہ سے کیا ہو تو یہ عہد شکنی سب کی طرف سے ہوگی اور سب غدار کہلائیں گے کیونکہ وہ سب چھپ کر اس پر متفق پائے گئے۔

تشریح..... قَالَ وَإِنْ بَدَوْا بِخِيَانَةٍ قَاتِلْهُمْ وَلَمْ يَنْبَدْ إِلَيْهِمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِهِمْ لِأَنَّهُمْ صَارُوا قِصِينَ لِلْعَهْدِ..... الخ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر تھوڑے سے کافروں نے عہد کے خلاف مسلمانوں سے قتال کیا اگر واقعہ اتنے تھوڑے آدمی ہوں جن کو مقابلہ کی طاقت نہیں تھی پھر بھی مقابلہ میں آئے تو انہیں چور سمجھا جائے گا اور معاہدہ پر اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ اور اگر ان کو مقابلہ کی طاقت ہو اور گمان غالب یہ ہو کہ انہوں نے اپنی حکومت کے اشارہ اور اجازت کے بغیر ایسا کیا ہے تو امام المسلمین کو یہ اختیار ہوگا کہ ان کو گرفتار کر کے چاہے قتل کر دے یا چاہے تو غلام بنا کر رکھ لے۔ لیکن باقی لوگوں سے معاہدہ حسب دستور باقی رہے گا اور اگر گمان غالب یہ ہو کہ اپنی حکومت کے مشورے سے ایسا کیا ہے تو یہ غداری سب کی طرف سے سمجھی جائے گی۔

### امام کیلئے مال کے عوض کفار سے صلح کا حکم

وَإِذَا رَأَى الْإِمَامُ مُوَادَعَةَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَأَنْ يَأْخُذَ عَلَى ذَلِكَ مَا لَا فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَتْ الْمُوَادَعَةُ بَغْيِ الْمَالِ فَكَذَلِكَ بِالْمَالِ لَكِنْ هَذَا إِذَا كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةً أَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ لَا يَجُوزُ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ وَالْمَاخُذُ مِنَ الْمَالِ يُصْرَفُ مَصَارِفَ الْجَزْيَةِ هَذَا إِذَا لَمْ يَنْزِلُوا بِسَاحَتِهِمْ بَلْ أُرْسِلُوا رَسُولًا لِأَنَّهُ فُتِيَ مَعْنَى الْجَزْيَةِ أَمَّا إِذَا أَحَاطَ الْجَيْشُ بِهِمْ ثُمَّ أَخَذُوا الْمَالَ فَهُوَ غَنِيمَةٌ بِخُمُسِهَا وَتُقَسَّمُ الْبَاقَى بَيْنَهُمْ لِأَنَّهُ مَا خُذُ بِالْقَهْرِ مَعْنَى

ترجمہ..... اور اگر امام المسلمین نے کافروں سے مصالحت کرنے میں مصالحت سمجھی ساتھ ہی مال کے عوض صلح کرنے کو مناسب سمجھا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس لئے صلح کے بدلہ مال لے سکتا ہے۔ بشرطیکہ واقعتاً اس وقت مسلمانوں کو مال کی ضرورت اور مجبوری ہو۔ اور اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ اس جہاد سے مقصود تو اللہ کا نام بلند کرنا ہوتا ہے۔ اور بغیر ضرورت مال لے کر جہاد کو ختم کر دینا جائز نہیں ہے البتہ ضرورت ہونے میں جائز ہے کیونکہ یہ صورت بھی معنی جہاد ہے۔ اس طرح جو کچھ مال ان سے لیا جائے گا اسے اسی طرح اور اسی موقع میں خرچ کیا جائے گا۔ جو جزیہ کے مال کے خرچ کی جگہ ہے۔ اس مال میں جزیہ کا حکم اسی صورت میں ہوگا جبکہ مسلمانوں کے لشکر کا ان لوگوں سے آنا سامنا نہ ہوا ہو۔ بلکہ صرف پیغام کے ذریعہ بات طے ہوگئی ہو۔ کیونکہ اس طرح حاصل کیا ہوا مال



جزیہ کے معنی میں ہوگا۔ اور اگر مسلمانوں نے ان لوگوں کو گھیر لیا اس کے بعد انہوں نے لاچاری پر صلح کی تو یہ مال غنیمت کا سمجھا جائے گا یعنی اس مال کے پانچ حصے کر کے ایک حصہ رکھ کر باقی چار حصے ان مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیئے جائیں گے۔ کیونکہ اس طرح ان سے مال لے کر ان کو مغلوب کیا گیا ہے۔ (کیونکہ کافروں نے مجبور اور مغلوب ہو کر مال دے کر صلح کی ہے۔ اور چونکہ مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے اس لئے امام نے یہ صلح منظور بھی کی ہے اس لئے یہ مال بھی غنیمت کا مال سمجھا جائے گا جیسے ظاہری اور حقیقی قتال کے بعد ان کو مغلوب کر کے ان سے مال غنیمت ہاتھ آتا ہے۔

تشریح..... وَإِذَا رَأَى الْإِمَامُ..... الخ ترجمہ سے مطلب واضح ہے۔

### مرتدوں سے صلح کرنے کا حکم

وَأَمَّا الْمُرْتَدُونَ فَيُؤَادُّهُمْ الْإِمَامُ حَتَّى يَنْظُرُوا فِي أَمْرِهِمْ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ مَرْجُوٌّ مِنْهُمْ فَجَازَ تَأْخِيرُ قِتَالِهِمْ طَمَعًا فِي إِسْلَامِهِمْ وَلَا يَأْخُذُ عَلَيْهِمْ مَالًا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ اخْذُ الْجَزْيَةِ مِنْهُمْ لِمَا نُبَيِّنُ

ترجمہ..... اور جو لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے (پھر کسی علاقہ پر غالب ہو کر خود مختار ہو گئے یہاں تک کہ وہ علاقہ دار الحرب کی شکل اختیار کر گیا۔ مگر بعد میں انہوں نے امام المسلمین سے صلح کر لینے کی درخواست کر دی اور امام نے بھی اس وقت صلح کر لینے ہی میں مصلحت سمجھی) تو امام ان سے صلح کر سکتا ہے۔ تاکہ ان کے بارے میں غور کر لے۔ کیونکہ ایک امید یہ بھی باقی رہ جاتی ہے کہ شاید یہ مرتدین دوبارہ مسلمان ہو جائیں۔ پس اسی امید پر ان سے لڑائی میں تاخیر کرنا جائز ہے۔ اور ان سے صلح کرنے پر مال نہیں لیا جاسکتا ہے (اگرچہ کافروں سے صلح پر مال لیا جاسکتا ہے) کیونکہ مرتدوں سے جزیہ لینا جائز نہیں ہے۔ اس کی تفصیل انشاء اللہ باب الجزیہ میں بیان کریں گے۔

تشریح.....

### قبولیت اسلام کی امید پر قتال میں تاخیر کی بحث

دریں صورت قبولیت اسلام کی امید سے مراد مرتدوں سے توبہ کا مطالبہ ہے۔ امام ابو حنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ (ایک روایت کے مطابق) اور امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ لشکر اسلام کا سربراہ مرتد سے توبہ کا مطالبہ کر لے تو بہتر ہے۔ توبہ سے انکار کی صورت میں مرتد کو قتل کر دیا جائے۔

۱..... حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے منقول ہے کہ کوفہ میں کچھ لوگ مسلمانہ کذاب کی جھوٹی باتوں کی تبلیغ کرتے ہوئے گرفتار ہوئے، انہوں (حضرت عبد اللہ) نے حضرت عثمانؓ کو ان (مسلمانہ کذاب کے چیلوں) کے بارے میں لکھا۔ اس پر حضرت عثمانؓ نے جواباً لکھا کہ ان پر دین حق اور کلمہ شہادت پیش کرو، جو قبول کرے اور مسلمانہ کذاب سے دست بردار ہو جائے تو اسے قتل نہ کرو اور جو مسلمانہ کذاب کے جھوٹے دین کو اپنائے رکھے تو اسے قتل کر دو۔

واضح رہے کہ دورِ حاضر میں فتنہ قادیانیت، آغا خانیت، رافضیت، بہائیت کا یہی حکم ہے۔ کیونکہ یہ لوگ بھی غلام احمد قادیانی، آغا خان، آئمہ اثنا عشرہ اور محمد انکی بہائی وغیرہ کی لفظاً یا معنی نبوت کے نہ صرف قائل ہیں بلکہ ان کی اشاعت پر بھی مصروف و مصروف ہیں۔

۲..... حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے مسلمانہ کذاب کی نبوت کے قائلین کو گرفتار کرایا ان میں سے کچھ افراد نے توبہ کرتے ہوئے مسلمانہ

کذاب کی نبوت سے رجوع کیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے انہیں چھوڑ دیا۔ بعد ازاں ان لوگوں (مسلمہ کذاب کے چیلوں) میں سے ایک شخص کو پیش کیا گیا جس کا نام عبداللہ بن نواحہ تھا، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اسے قتل کر دیا۔ اس عمل پر لوگوں نے دریافت کیا کہ ایک ہی معاملہ میں دو مختلف عمل کیوں سرزد ہوئے؟ آپؐ نے فرمایا کہ میں (عبداللہ بن مسعود) رسولؐ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ یہ شخص (عبداللہ بن نواحہ) اور حجر بن وthal رسولؐ کے طرف بطور وفد آئے۔ رسولؐ نے فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ انہوں (عبداللہ بن نواحہ، حجر بن وthal) نے کہا کہ کیا آپ ﷺ گواہی دیتے ہیں کہ (عیاذ باللہ) مسلمہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ رسولؐ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ اگر میں کسی وفد کو قتل کرتا تو تم دونوں (عبداللہ بن نواحہ، حجر بن وthal) کو قتل کر دیتا۔ اسی لئے میں (عبداللہ بن مسعود) نے اسے (عبداللہ بن نواحہ کو) قتل کر دیا۔

۳..... حضرت براء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو اہل نہروان کی طرف بھیجا تو انہوں (حضرت براء) نے اہل نہروان کو تین بار اسلام کی دعوت دی۔

۴..... حضرت ابو موسیٰ اشعرئیؓ نے مقام تضرع فتح کر کے حبیہ کے ان مرتدوں کو قتل کر دیا جو مشرکین سے مل گئے تھے۔ ان کے بارے میں حضرت عمرؓ نے حضرت انسؓ بن مالک سے گفتگو کرتے وقت فرمایا کہ اگر میں (عمر بن خطاب) انہیں زندہ گرفتار کر لیتا تو ان پر وہ دروازہ (اسلام) پیش کرتا جس سے وہ نکلے تھے۔ اگر وہ (حبیہ کے مرتد) لوٹ آتے تو ٹھیک ورنہ میں انہیں قید کر دیتا۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حبیہ کے مرتدوں کو قتل کرنے کی پاداش میں قاتلوں سے کوئی مواخذہ نہیں کیا۔

۵..... جو لوگ بار بار مرتد ہو جائیں اور پھر کفر میں بڑھ جائیں تو ایسے مرتدوں کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ کیونکہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ الْآيَةَ (النساء: ۱۳۷)

بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر کفر میں بڑھ گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ (کما جاء فی الطحاوی)

متذکرہ دلائل معروضیہ سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے والے افراد سے پہلے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ چنانچہ قبولیت کی صورت ان (مرتدوں) سے قتل و قتال ممنوع ہوگا۔ پس ثابت ہوا کہ مرتدوں سے قبولیت اسلام کی امید پر قتل و قتال میں تاخیر ہوگی مبادا کہ وہ لوگ (مرتد) اسلام قبول کر لیں۔

مرتدوں سے مال کے عوض صلح کا عدم جواز

اگر دوران قتال (لڑائی) لشکر اسلام پر مرتدین کا غلبہ ہو جائے اور مجاہدین اسلام سمیت عام مسلمانوں کی قتل و غارت کا واضح حال سامنے آجائے تو اس صورت میں از روئے مصلحت مرتدوں سے صلح کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن ان (مرتدوں) سے مال کو بطور معاوضہ حاصل نہیں کیا جائے گا کیونکہ

(۱) ان (مرتدوں) کا مال متقوم (قیمتی) نہیں جو کہ اسلام کے شایان شان نہیں۔

(۲) صلح بعوض مال معنوی طور پر جزیہ ہے اور مرتدوں سے جزیہ اخذ کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ کفار سے جزیہ وصول کرنے کا مقصد انہیں



(کفار کو) اسلام کے قریب لانا اور عملی طور پر قبولیت اسلام کی راہ ہموار کرنا ہے۔ جب کہ مرتد اسلام میں داخل ہو کر اس (اسلام) کی صداقت و سچائی کو عملاً و قولاً دیکھ چکا ہوتا ہے۔ لہذا سبب کے مفقود ہونے سے نفس جزئیہ کا فقدان لازم آئے گا۔

### مرتدوں سے مال لے کر صلح کرنے کا حکم

وَلَوْ أَخَذَهُ لَمْ يَرُدَّهُ لِأَنَّهُ مَالٌ غَيْرُ مَعْصُومٍ وَلَوْ حَاصَرَ الْعَدُوُّ الْمُسْلِمِينَ وَطَلَبُوا الْمَوَادَّ عَلَى مَالٍ يَدْفَعُهُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِمْ لَا يَفْعَلُ إِلَّا مَا مِمَّا لِمَا فِيهِ مِنْ إِعْطَاءِ الدِّيَّةِ وَالْحَقِّ الْمَذْلَّةِ بِأَهْلِ الْإِسْلَامِ إِلَّا إِذَا خَافَ الْهَلَكَ لِأَنَّ دَفْعَ الْهَلَكَ وَاجِبٌ بِأَيِّ طَرِيقٍ يُمْكِنُ

ترجمہ..... اور بالفرض اگر مرتدوں سے مال کے عوض صلح کی گئی اور مال لے لیا گیا تو ان کو واپس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مرتد کا مال محترم مال نہیں ہوتا ہے اور اگر کافروں نے مسلمانوں کو اپنے محاصرہ میں لے لیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ مسلمان ان سے مال کے بدلہ صلح کر لیں تو امام کو چاہئے کہ وہ اس صلح کو منظور نہ کرے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے دیت دینا اور مسلمانوں پر ذلت مسلط ہونے کو تسلیم کر لینا ہوگا۔ البتہ اگر صورت حال ایسی ہو گئی ہو کہ اس کے بغیر سب کی ہلاکت کا خوف ہو تو (وقتی طور سے) جائز ہوگی کیونکہ جس طرح ممکن ہو مسلمانوں کو ہلاکت سے بچانا واجب ہے۔ (یعنی خواہ قتال کر کے ہو یا مال دے کر ہو جس طرح بھی ممکن ہو ہلاکت ہونے سے بچانا واجب ہے)۔

تشریح..... صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرتدوں سے صلح کے بدلے میں مال اخذ کر لیا تو وہ مال ناقابل واپسی ہوگا۔ کیونکہ ترک المال کی وجہ سے مرتدوں کا مال باعتبار قیمت کا عدم متصور ہوگا کیونکہ اس سے مال پر مرتد کی ملکیت باقی نہیں رہتی۔

### مال غیر معصوم کی حقیقت

جب لفظ ”معصوم“ کی اضافت ”مال“ کی طرف ہو تو اس سے مراد ”مال کا قیمتی ہونا“ ہے۔ اور ”مال“ اس وقت قیمتی ہوتا ہے جب وہ (مال) کسی کی ملکیت ہو۔ اور جو مال کسی کی ملکیت نہ ہو یا کسی وجہ سے اس کی ملکیت زائل ہو چکی ہو تو اسے مال غیر معصوم کہتے ہیں۔ چونکہ مرتد نے ترک اسلام کا ارتکاب کیا ہے اس لئے ترک اسلام کے باعث مرتد کے مال سے اس کی ملکیت زائل ہو جاتی ہے اس لئے مرتد کا مال غیر معصوم متصور ہوتا ہے۔

- ۱۔ البتہ مرتد کا مال ملکیت کے حوالے سے اس وقت تک زوال پذیر رہے گا جب تک کہ وہ (مرتد) دوبارہ اسلام قبول نہ کر لے۔
- ۲۔ مرتد کی موت یا قتل یا دار الحرب میں کفار سے ملنے کی صورت میں اس (مرتد) کے مال کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ متذکرہ ہر دو صورتوں میں ائمہ فقہاء کے مابین کوئی اختلاف موجود نہیں۔

- ۳۔ زوال ملکیت کے اسباب دو ہیں، (۱)..... موت، قتل، دار الحرب سے ملنا۔ (۲)..... ترک اسلام یعنی ارتداد۔ چنانچہ زوال ملکیت کے اسباب کے حوالے سے امام ابو حنیفہؒ اور صاحبین (امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ) کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ صاحبینؒ فرماتے ہیں کہ مرتد کا زوال ملکیت ارتداد کی بناء پر متحقق نہیں ہوتا بلکہ مرتد کا مال پر سے ملکیت کا خاتمہ موت یا قتل یا دار الحرب میں مل جانے

کے باعث ہے۔ جبکہ امام ابوحنیفہؒ کا موقف یہ ہے کہ مال پر سے زوال ملکیت ”ارتداد“ ہے۔ لہذا مرتد کی ملکیت اپنے مال پر ظاہری حالت کے پیش نظر موقوف رہے گی۔ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کا مال معصوم ہوگا۔ اگر وہ قبولیت اسلام سے قبل فوت ہو گیا یا قتل ہو گیا یا دارالحرب سے جا ملا تو اس کا مال غیر معصوم متصور ہوگا اگر حالت ارتداد میں مرتدوں سے صلح کے معاوضہ میں مال اخذ کر لیا تو مال کے غیر معصوم ہونے کی وجہ سے انہیں واپس نہیں کیا جائے گا۔ صاحب ہدایہ فقہن میں امام ابوحنیفہؒ کے موقف کو پیش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کا قول ہی قابل ترجیح ہے۔ بایں وجہ کہ صاحب ہدایہ بذات خود اصحاب ترجیح میں شمار ہوتے ہیں۔ لہذا ان کی رائے امام ابوحنیفہؒ کے موقف کے حوالے سے رائج متصور ہوگی۔

محاصرے کی حالت میں مرتدوں کا مسلمانوں سے صلح کا عوض طلب کرنا

اگر اہل اسلام پر ایسی حالت کا سامنا ہو جائے کہ وہ مرتدوں کے نرغے میں (بحالت محاصرہ) پھنس گئے ہیں اور اسی حالت سے فائدہ اٹھانے کیلئے مسلمانوں سے بعوض صلح مال طلب کریں تو مسلم حکمران کو چاہئے کہ وہ ان (مرتدوں) کو صلح پر مبنی مطالبہ (عوض مال) تسلیم نہ کرے۔ کیونکہ دریں صورت

(۱) صلح کے بدلے میں دیئے گئے مال کی حیثیت ”خون بہا“ ادا کرنے کے مترادف ہے۔

(۲) بعوض مال صلح کرنا اسلام اور نفس اسلام کی تذلیل ہے۔

اسلام کے حق میں یہ دونوں صورتیں صحیح نہیں ہیں۔ بایں وجہ کہ ترک اسلام کی صورت میں مرتدوں نے عملاً اسلام کی حقانیت و سچائی کا انکار کر کے ”ذلت“ بہم پہنچائی۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جو جزیہ اخذ کرنے سے ممانعت کرتا ہے۔ بوقت قتال مرتدوں سے دو مطالبے

(۱) اسلام قبول کرو یا (۲) قتال کیلئے تیار ہو جاؤ

جزیہ کا مطالبہ نہ کرنا ارتداد کفر کو شدید کرتا ہے۔ کیونکہ جزیہ کی صورت میں کفار کی نہ صرف جان بخشی ہو جاتی ہے بلکہ ان کی فلاح و بہبود اور قربت اسلام کی برکات سے مستفید ہونے کے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ لیکن مرتدوں کو ان مواقع سے محروم کیا گیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ارتداد کفر سے بدتر شئی ہے۔ اس لئے اگر مسلمان مرتدوں کے محاصرے میں گھر جائیں تو جام شہادت نوش کرنے یا محاصرہ توڑنے کو ترجیح دیں۔ جیسا کہ اُحد و حنین اور خندق و تبوک کے غزوات میں کفار کے گھیراؤ میں آنے کی صورت میں اہل اسلام نے قوت ایمانی کے انوارات بکھیرتے ہوئے یا تو انہوں نے اہل کفر کے محاصروں کو توڑا یا پھر جام شہادت نوش کیا۔ بعد ازاں بلادِ شام بلادِ روم وغیرہ کے معرکوں میں اہل اسلام نے دین حق کی سربلندی کو بحال رکھتے ہوئے اہل کفر کے محاصروں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔

الغرض..... کہ محاصرہ اہل کفر کا ہو یا مرتدوں کا انہیں توڑنے کی تدبیر اختیار کی جائیں یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان عزیز کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ ان (کفار، مرتدین) کے مطالبہ (بعوض مال صلح) کو تسلیم نہ کیا جائے تاکہ اسلام اور اہل اسلام کی عظمت و سربلندی برقرار رہے۔ اگر صلح کے بدلے میں ان (مرتدوں) کو مال دے دیا یہ ”دیت“ متصور ہوگی۔



## وجوب دیت کی شرائط

پہلی شرط..... مقتول معصوم الدم ہو۔ یعنی ایسا شخص جس کا خون بہانا اسلام میں حرام ہو۔ چنانچہ حربی (جنگ کرنے والا کافر)، باغی، مرتد، محسن زانی، مستوجب قصاص پر مشتمل افراد کے خون بہانے سے دیت واجب نہیں ہوتی۔

دوسری شرط..... مقتول متقوم (قدر و قیمت کا حامل) ہو۔ جبکہ مرتد ترک اسلام کے ارتکاب کی پاداش میں مال و جان سمیت قدر و قیمت کا حامل (متقوم) نہیں۔ اگر محاصرے کے وقت مرتدوں نے مال کے بدلے میں صلح کا مطالبہ کیا اور اہل اسلام کے سربراہ نے اسے تسلیم کر لیا تو اس صورت اہل اسلام کا صلح کے بدلے میں مال دینا دیت (خون بہا) متصور ہوگا۔ جبکہ مرتد کے خون پر دیت واجب نہیں۔ لہذا مرتدوں کے محاصرے کی صورت میں بعوض مال صلح کا مطالبہ تسلیم کرنا صحیح اقدام نہ ہوگا۔ کیونکہ قتال کے وقت مرتدوں کو قتل کرنا "اسلام" کی عظمت و غلبہ دوبالا کرتا ہے اگر مرتدوں کے ہاتھوں محاصرے میں گھرے ہوئے مسلمانوں اور دیگر اہل اسلام کی قتل و غارت کا خوف ہو تو اس صورت میں ان (مرتدوں) سے مال کے بدلے میں صلح کا مطالبہ تسلیم کرنا جائز ہے۔ حتی الامکان کوشش یہ ہو کہ اہل اسلام کو ہلاکت سے بچایا جائے۔ دریں صورت صلح کے بدلے میں مال دینا مسلمانوں کو قتل و غارت سے بچانے کی غرض سے ہوگا۔ اس لئے کہ انہیں (مسلمانوں کو) ہلاکت سے بچانا واجب ہے۔ اور مذکورہ وجوبی امر (مسلمانوں کو ہلاکت سے بچانا) کسی بھی تدبیر سے ممکن ہو اسے سرانجام دیا جائے گا۔ بایں وجہ کہ مرتدوں کے مد مقابل اہل اسلام کا خون معصوم و متقوم (قدر و قیمت کا حامل) ہے۔

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (البقرة: ۱۷۳)

## حربی کافروں کو ہتھیار بیچنے کا حکم

وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَبَاعَ السِّلَاحُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَلَا يُجَهَّزَ إِلَيْهِمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَحَمَلِهِ إِلَيْهِمْ وَلِأَنَّ فِيهِ تَقْوِيَتَهُمْ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَا الْكُرَاعُ لِمَا بَيَّنَّا وَكَذَا الْحَدِيدُ لِأَنَّهُ أَصْلُ السِّلَاحِ وَكَذَا بَعْدَ الْمَوَادِّعِ لِأَنَّهَا عَلَى شَرَفِ النِّقْصِ أَوْ الْإِنْقِصَاءِ فَكَانُوا عَلَيْنَا وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ فِي الطَّعَامِ وَالثَّوْبِ إِلَّا أَنَّا عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِّ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ ثَمَامَةَ أَنْ يَمِيرَ أَهْلَ مَكَّةَ وَهُمْ حَرْبٌ عَلَيْهِ

ترجمہ..... اور حربی کافروں کے ہاتھ ہتھیار نہیں بیچنا چاہئے اور تاجر حضرات بھی اپنا دفاعی سامان تجارت ان کے علاقوں میں نہ لے جائیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے حربی کافروں کے ہاتھ ہتھیار بیچنے اور ان کی طرف لے جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ بزار نے اس کی روایت کی ہے اور بخاری نے اسے تعلیقاً بیان کیا ہے اور اس دلیل سے بھی منع ہے کہ ایسا کرنے سے حربیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لئے طاقت اور تقویت پہنچانی ہوتی ہے اور اسی دلیل سے ان کے ہاتھ گھوڑے (اور سواری کے دوسرے سامان) بیچنے کی ممانعت کا حکم ثابت ہوتا ہے اور یہی حکم لوہا بیچنے کا بھی ہوگا۔ کیونکہ تمام ہتھیاروں کا مادہ یہی ہے۔ یہی طرح یہی حکم صلح کے بعد بھی ان چیزوں کو حربیوں کے ہاتھ بیچنا وہاں صرف لے جانے کا بھی ہوگا کیونکہ مصالحت کا معاملہ تو بے اعتبار اور غیر یقینی ہوتا ہے یعنی کسی بھی وقت یہ مصالحت ٹوٹ سکتی ہے یا اپنی مدت پر جا کر ختم ہو سکتی ہے۔ اس طرح بالا آخر ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ اور ہتھیاروں پر غلوں اور کپڑوں کا قیاس بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن نص سے ہمیں اس کا حکم واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ان سے غلے اور کپڑے کا معاملہ کرنا صحیح ہوتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے



حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ کو اس بات کی اجازت دیدی تھی کہ اہل مکہ کو کھانے کے لئے غلہ بھیج دیں۔ اور نہ روکیں حالانکہ اس وقت تک اہل مکہ رسول اللہ ﷺ اور تمام مسلمانوں کے کھلے دشمن تھے (اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک موقع پر جب کہ ثمامہ کافر تھے کسی طرح گرفتار کر لئے گئے تو رسول اللہ ﷺ کے حکم سے مسجد کے ستون سے باندھ دیئے گئے۔ اور تین دنوں کے بعد انہیں کھول دیا گیا۔ تو یہ ثمامہ رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل گئے تھوڑی دیر بعد اس کے کہ انہوں نے اپنے قوم کے پاس چلے گئے تو قریش نے ان پر طعن کرنا شروع کیا کہ تم ڈر کر بے دین ہو گئے۔ انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں بے دین نہیں ہوا بلکہ ایک غلط دین سے صحیح دین میں داخل ہو گیا ہوں جو کہ رسول اللہ ﷺ کا دین ہے۔ ساتھ ہی یہ قسم کھائی کہ واللہ اب تم کو ہمارے علاقہ سے ایک دانہ غلہ بھی نہیں ملے گا حالانکہ اسی علاقہ سے مکہ کے لئے غلہ جایا کرتا تھا۔ جب تک کہ رسول اللہ ﷺ اس کی اجازت نہ دیں گے اس پر قریش نے سخت پریشان اور نادام ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا اور نیکی اور بھلائی کرنے پر قسم دلائی تب رسول اللہ ﷺ نے حضرت ثمامہ کو غلہ بھیجنے کی اجازت دیدی۔ جیسا کہ ابن اسحاق اور ابن ہشام اور واقدی نے اس کی روایت کی ہے۔

## فصل

مسلمان مرد و عورت کے لئے کافریا جماعت کفار یا قلعہ والوں یا شہر والوں کو امان دینے کا حکم

اِذَا اَمَّنَ رَجُلٌ حُرًّا اَوْ امْرَاةً حُرَّةً كَافِرًا اَوْ جَمَاعَةً اَوْ اَهْلَ حِصْنٍ اَوْ مَدِيْنَةٍ صَحَّ اَمَانُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لِاَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ قِتَالُهُمْ وَالْاَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِدِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ اَيَّ اَقْلَهُمْ وَهُوَ الْوَاحِدُ وَلِاَنَّهُ مِّنْ اَهْلِ الْقِتَالِ فَيَخَافُوْنَهُ اِذْ هُوَ مِنْ اَهْلِ الْمُنْعَةِ فَيَتَحَقَّقُ الْاَمَانُ مِنْهُ لِمُلَاقَاتِهِ مَحَلَّهُ ثُمَّ يَتَعَدَّى اِلَى غَيْرِهِ وَلِاَنَّ سَبَبَهُ لَا يَتَجَزَّى وَهُوَ الْاِيْمَانُ وَكَذَا الْاَمَانُ لَا يَتَجَزَّى فَيَتَكَامَلُ كَوَلَايَةِ الْاِنْكَاجِ

ترجمہ..... جب کہ کسی مسلمان آزاد مرد یا عورت نے کسی ایک کافریا ایک جماعت کو یا کسی قلعہ والوں کو یا کسی شہر والوں کو امان دیدی تو یہ امان صحیح ہوگا اور مسلمانوں میں سے کسی کے لئے بھی ان کافروں سے قتال کرنا جائز نہ ہوگا۔ اس مسئلہ میں اصل یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے خون باہم برابر ہیں (خون کی قیمت کے اعتبار سے سارے مسلمانوں کا ایک حکم ہے) ان کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے ان کا ادنیٰ بھی کوشش کرے گا یعنی مسلمانوں میں ادنیٰ و اعلیٰ کا قصاص و دیت برابر ہے اس لئے اگر ادنیٰ یعنی ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے تو وہ ذمہ داری سارے مسلمانوں کی ذمہ لازم ہوگی۔ ابن ماجہ اور دارقطنی نے اس کی روایت کی ہے۔ اور اس قیاسی دلیل سے بھی (ایک کی ذمہ داری سے بھی سب کی ذمہ داری ہو جاتی ہے) کہ ہر ایک آزاد مرد، مجاہدین اور مقتاتلین میں کا ایک فرد ہے۔ اس لئے سارے کفار اس سے خائف رہیں گے۔ کیونکہ وہ اہل صفت مجاہدین اور طاقت والوں میں سے ہے اس لئے اس کی جانب سے لی ہوئی امان صحیح ہو جائے گی۔ کیونکہ امان اپنے محل پر واقع ہوئی ہے۔ اس طرح کہ جس سے خوف تھا اسی نے امان دی ہے۔ پھر یہ امان دوسرے مسلمانوں کی طرف متعدی ہوگی کیونکہ اس کا جو سبب ہے یعنی ایمان دو ٹکڑے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس امان کے بھی ٹکڑے نہیں ہو سکتے ہیں چنانچہ ایک دن کی امان کل اہل ایمان کی طرف سے امان ہو جائے گی۔



امان دینے میں نقصان کا خطرہ ہو تو امان توڑنے کی خبر دیدی جائے

قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ فَيَنْبُذُ إِلَيْهِمْ كَمَا إِذَا آمَنَ الْإِمَامُ بِنَفْسِهِ ثُمَّ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي النَّبَذِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ  
وَلَوْ حَاصَرَ الْإِمَامُ حِصْنًا وَآمَنَ وَاحِدٌ مِنَ الْجَيْشِ وَفِيهِ مَفْسَدَةٌ يَنْبُذُ الْإِمَامُ الْأَمَانَ لِمَا بَيَّنَّا وَيُؤَدِّبُهُ الْإِمَامُ لِإِفْتِيَاتِهِ  
عَلَى رَأْيِهِ بِخِلَافٍ مَا إِذَا كَانَ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ رُبَّمَا تَفَوَّتِ الْمَصْلَحَةُ بِالتَّأَخِيرِ فَكَانَ مَعْدُورًا

ترجمہ..... البتہ اگر آزاد مرد یا آزاد عورت کے اس طرح پناہ دینے میں اسلام کے حق میں کوئی خرابی ہو تو امام فی الفور کافروں کو اس عہد کے توڑنے کی خبر دیدے۔ جیسے کہ امام نے بذات خود کسی کو پناہ دی اور بعد میں اسے احساس ہوا کہ اس امان سے مسلمانوں کا نقصان ہے اس لئے اس عہد کو توڑ ڈالنے کے لئے کافروں کو اطلاع دیتا ہے اور اگر امام نے دشمن کے کسی قلعہ کا محاصرہ کیا اسی وقت لشکر میں سے کسی نے ان لوگوں کو امان دے دی حالانکہ امان دینے سے مسلمانوں کا نقصان ہو تو امام اس امان کو توڑ کر کفار کو اس سے مطلع کر دے۔ ساتھ ہی اس لشکری کو ایسا کرنے پر کچھ سزا بھی دے۔ کیونکہ اس نے امام کی رائے کے خلاف اپنی رائے کو ترجیح دی۔ ہاں اگر اس کے امان دینے میں عام مصلحت بھی نظر آ جائے تو اسے سزا دی جائے۔ کیونکہ کسی کی تاخیر میں بعض موقع میں اصل مصلحت ختم ہو جاتی ہے اس لئے اس کو جلد بازی کرنے پر معذور سمجھا جائے گا۔

تشریح..... اگر امام کے علاوہ دوسرا کوئی لشکری امام سے مشورہ کئے بغیر از خود کسی کو پناہ دے اور اس میں عام مسلمانوں کا نقصان ہو تو امام اسے رد کر سکتا ہے اور اس شخص کو کچھ سزا بھی دے سکتا ہے لیکن اگر نقصان نہ ہو تو اس امان کو بحال رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے اپنے کسی دیور (شوہر کے بھائی) کو پناہ دے دی تھی۔ مگر ان کے اپنے بھائی نے اس کے خلاف اپنی بہن سے کہا کہ میں تو اس شخص کو قتل کر کے رہوں گا۔ اس لئے انہوں نے آنحضرت ﷺ سے اپنے بھائی کے خلاف شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جسے پناہ دی ہے میں نے اسے بحال رکھ کر خود بھی اسے پناہ دیدی ہے۔ رواہ البخاری و مسلم اور حضرت ام ہانی نے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور حارث بن ہشام دو دیوروں (پہلے شوہر کے دو بھائیوں) کو پناہ دی تھی۔ یہ واقعہ فتح مکہ کا ہے۔ معلوم ہونا چاہئے کہ بچہ اور دیوانہ کی پناہ بالا جماع صحیح نہیں ہے لیکن غلام کا پناہ دینا جمہور کے نزدیک جائز ہے۔

ذمی کو امان دینے کا حکم

وَلَا يَجُوزُ أَمَانُ ذِمِّيٍّ لِأَنَّهُ مُتَّهِمٌ بِهِمْ وَكَذَالَا وَلَا يَهِ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِينَ

ترجمہ..... اور کسی ذمی کا کسی کافر کو امان دینا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس معاملہ میں یہ ذمی قابل تہمت ہے۔ اور اس لئے بھی کہ اس کو مسلمانوں پر کسی قسم کی ولایت حاصل نہیں ہے۔

قیدی اور تاجر کو امان دینے کا حکم

قَالَ وَلَا أُسِيرُ وَلَا تَاجِرٌ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمَا مَقْهُوَرَانِ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ فَلَا يَخَا فَوْنَهُمَا وَالْأَمَانُ يَخْتَصُّ بِمَحَلِّ  
الْخَوْفِ وَلِأَنَّهُمَا يُجْبَرَانِ عَلَيْهِ فَيَعْرِى الْأَمَانُ عَنِ الْمَصْلَحَةِ وَلِأَنَّهُمْ كَلَّمَا اشْتَدَّ الْأَمْرُ عَلَيْهِمْ يَجِدُونَ أُسِيرًا أَوْ

تَاجِرًا فَيَتَخَلَّصُونَ بِأَمَانِهِ فَلَا يَنْفَتِحُ لَنَا بَابُ الْفَتْحِ وَمَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُهَاجِرْ إِلَيْنَا لَا يَصِحُّ أَمَانُهُ لِمَا بَيْنَنَا

ترجمہ..... اور یہ بھی کہا ہے کہ جو مسلمان ان کافروں کے قبضہ میں اور ان کے قیدی ہیں یا امان لے کر ان کافروں کے پاس تجارت کی غرض سے موجود ہوں اس قیدی یا تاجر کا بھی امان دینا ان حربیوں اور کافروں کے حق میں قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں ان کافروں کے اختیار اور قبضہ میں ہیں اس لئے کفار کو ان سے کوئی خطرہ اور خوف نہیں ہے۔ جبکہ امان اسی شخص کی قابل قبول ہوتی ہے۔ جس سے کسی کو خطرہ اور خوف ہو۔ یعنی کفار کو جس سے خوف ہوگا اسی کی امان صحیح ہوگی۔ اور اس دلیل سے بھی کہ کفار تو ان دونوں پر امان دینے اور امان لکھنے پر جبر بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا ایسی امان مسلمانوں کی مصلحت سے خارج ہوگی۔ اور اس دلیل سے بھی کہ اگر قیدی یا تاجر کی دی ہوئی امان کو قبول کر لینا صحیح ہو جائے تو جب کبھی بھی حربیوں پر مسلمانوں کی طرف سے سختی ہوگی وہ کسی مسلمان قیدی یا تاجر کو پکڑ کر بلکہ یہ تو اکثر ان کے پاس رہ بھی سکتے ہیں۔ ان سے امان لے کر چھوٹ جائیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ مجاہدین پر ان کفار کو فتح کر لینے کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گا۔ اور جو شخص دارالحرب میں مسلمان ہو گیا مگر وہاں سے ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہیں آیا تو اس کا امان دینا بھی صحیح نہ ہوگا (کیونکہ ان کفار کو اس شخص سے کچھ بھی خوف و خطرہ نہیں ہوگا حالانکہ امان کا صحیح ہونا اسی شخص کے لئے مخصوص ہے۔ جس سے امان چاہنے والے کو خطرہ بھی ہو۔ واضح ہو کہ اجازت دینے والے غلام کی یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ۱۔ یا تو وہ مجبور ہوگا یعنی اس کے مالک کی طرف سے اسے کسی قسم کا معاملہ اور کاروبار کرنے کی اجازت نہ ہو نمبر ۲۔ اور یا وہ ماذون ہوگا یعنی اس کے مولیٰ نے اسے کاروبار اور قتال کرنے کی اجازت دے دی ہو۔ ان دونوں کے درمیان حکم کے اعتبار سے کچھ فرق ہے جسے مصنف نے عبارت سے بیان کیا ہے۔

تشریح..... صورت مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلمان کفار کے پاس قیدی یا امن لے کر ان کے یہاں تجارت کی غرض سے گیا تو اس قیدی یا تاجر کا حربیوں کے حق میں امان دینا جائز نہیں۔ کیونکہ مسلمان قیدی یا تاجر کفار کی ماتحتی میں قہر زدہ ہیں۔ امان محل خوف سے مخصوص ہوتی ہے اور وہ خوف اہل کفر و کفر کے نہیں۔ یعنی اہل کفر کو جس سے خوف ہوتا ہے اس کی امان کا جواز موجود ہوتا ہے۔ بایں دلیل کہ کفار قیدی یا تاجر پر زبردستی امان طلب کریں گے۔ یوں امان دینے کا عمل خارج از مصلحت ہو جائے گا۔ اگر کفار قیدی یا تاجر پالیں تو ان (قیدی، تاجر) سے امان کی آڑ میں چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ تو دریں صورت اہل اسلام کے حق میں فتوحات کا دروازہ نہیں کھلتا امان کے جواز میں اصول یہ ہے کہ امان دینے سے قبل قوت و ضعف پر مبنی خفیہ حالات پر غور کیا جائے۔ اگر دارالاسلام یا میدان کارزار میں موجود مجاہدین اسلام امان کی پیش کش کے وقت طاقتور ہیں اور کفار کیلئے ضرر رسانی ناممکن ہو تو امان دینا صحیح اقدام متصور ہوگا اور بصورت دیگر پناہ دینے سے اہل کفر نقصان دے سکتے ہیں۔ چنانچہ اندرونی طور پر ضعف پر مبنی حالات امان دینے کے مقتضی نہیں ہوتے لہذا امان دینے کا اصول یہی ہے کہ دارالاسلام مجاہدین اسلام کے اندرون خانہ حالات پر نظر کی جائے۔

۱۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اہل کفر کے کافروں کو امان دینے کا استحقاق نہیں رکھتا جب تک وہ دارالاسلام یا اہل کفر سے برسر پیکار مجاہدین کے اندرونی و مخفی حالات سے بخوبی باخبر نہ ہو۔

۲۔ چونکہ کفار کی قید میں محبوس مسلمان یا اہل کفر کے ملک میں موجود مسلمان تاجر دارالاسلام اور مجاہدین کے خفیہ حالات سے بے خبر ہوتا ہے اس لئے قیدی یا تاجر کی دی ہوئی امان ناقابل تسلیم ہوگی۔



۳۔ مسلمان قیدی ہو یا تاجر ہر دو کفار کے قبضہ میں ہوتے ہیں۔ کفار انہیں (مسلم قیدی، تاجر کو) جس طرح چاہیں استعمال کرنے کے مختار ہیں۔ مبادا کہ ان (مسلمان قیدی یا تاجر) کی آڑ میں اہل اسلام کے لئے نقصان دہ ثابت ہوں۔ چنانچہ کفار کے ضرر سے محفوظ رہنے کیلئے یہ امر ضروری قرار پایا کہ کفار کی قید میں محبوس مسلمان یا دارالحرب میں موجود تاجر کی امان کو ناقابل قبول قرار دیا جائے تاکہ کفر کی فریب کاریوں اور عیارانہ چالوں کو ناکامی کا سامنا ہو اور تمام مسلمان ان کے شر اور نقصان سے محفوظ ہو سکیں۔

۴۔ امان کے ارکان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ امان دینے والا شخص آزاد ہو جب کہ کفار کی قید میں محبوس آدمی اگرچہ مسلمان اور بنیادی طور پر آزاد ہوتا ہے لیکن کفار کے قبضہ میں آنے کے باعث وہ فی الوقت مجبور محض ہو جاتا ہے۔ بایں وجہ کہ وہ (مسلمان قیدی) ہمہ تن کفار کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ چنانچہ قیدی کی وقتی اسارت (قید) کے پیش نظر اسے (مسلمان قیدی کو) امان دینے کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ یہی حال اس مسلمان تاجر کا ہے جو دارالحرب (مملکت کفریہ) میں تجارتی ضرورتوں اور دارالاسلام کی سرحد سے کوسوں دور ہونے کی وجہ سے اہل کفر کا محتاج ہوتا ہے۔ لہذا مسلمان قیدی اور دارالحرب میں مسلمان تاجر کفار کے مد مقابل مجبور و مقہور ہونے کے باعث اہل اسلام کو امان دینے کی لیاقت نہیں رکھتا۔

۵۔ از روئے مصلحت امان محل خوف کے ساتھ مخصوص ہے۔ یعنی کفار ہمیشہ ایسے مسلمان سے خائف ہوتے ہیں جو صاحب قتال و ذی عقل اور آزادی پر مبنی صفات سے متصف ہو۔ کیونکہ اہل قتال نہ صرف ہمیشہ مسلح رہتا ہے بلکہ کفار کو سرنگوں کرنے کے عمل میں ہر وقت مصروف رہتا ہے۔ چنانچہ اہل قتال کی صفت کا حامل مسلمان کفار کی مرعوبیت کا باعث ہی نہیں ہوتا بلکہ ہر وقت ان (کفار) پر مسلمان اہل قتال کا خوف بھی طاری رہتا ہے۔ جب کہ کفار کا قیدی (مسلمان) اہل کفر کے دلوں میں ذرہ بھر خوف طاری نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ (مسلمان قیدی یا دارالحرب میں موجود تاجر) خوف طاری کرنے پر مبنی صلاحیت سے عاری ہوتا ہے۔ چنانچہ کفار کی قید میں محبوس مسلمان یا دارالحرب (سرزمین کفر) میں موجود مسلمان تاجر کی امان ناقابل تسلیم متصور ہوگی۔ ذی عقل کی صفت کا حامل مسلمان اپنی تدابیر کے ذریعے اہل کفر کو خوف زدہ رکھتا ہے اس لئے عقل و خرد رکھنے والا مسلمان اہل کفر کی نظر میں محل خوف کا حامل ہوتا ہے جب کہ کفر کی قید میں محبوس مسلمان یا سرزمین کفر میں تنہا تاجر مسلمان اپنی بے بسی و بے کسی کے باعث حواس باختہ ہوتا ہے اس لئے مسلمان قیدی یا تاجر امان دینے کی اہلیت کا حامل نہیں ہوتا۔ صاحب قتال ہونا یا ذی عقل ہونے کا دار و مدار آزادانہ زندگی پر منحصر ہے۔ اگر اسے (مسلمان کو) آزادانہ زندگی میسر نہیں تو صاحب قتال ہونے یا عقلمند ہونے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ لہذا آزادی ایسی صفت نہ ہونے کے بسبب انسان بنیادی طور پر امان کی مصلحت (محل خوف) کھودیتا ہے۔ اس لئے ہر سہ صفات (اہل قتال ذی عقل، آزادی) کا وجود اہل کفر کو امان دینے کیلئے مستلزم ہے۔ جب کہ کفار کی قید میں محبوس مسلمان اور مملکت کفریہ میں موجود تاجر امان کی مصلحت (محل خوف) سے خارج ہوتا ہے۔ لہذا مسلمان قیدی یا دارالحرب میں جانے والا تاجر کسی کافر کو یا دارالحرب کے تمام کفار کو امان دینے کا مجاز نہیں ہے۔

۶۔ اگر کفار کی قید میں محبوس مسلمان قیدی یا سرزمین کفر (دارالحرب) میں موجود تاجر کی امان کو قبول کر لیا جائے تو دارالحرب کے حوالے سے مجاہدین اسلام کی فتوحات میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی جو کہ نہ صرف اسلام، شعائر اسلام اور اہل اسلام کے حق میں نقصان دہ

امر ہے بلکہ اسلام دشمن اور شر پسند عناصر کے جو رستم میں پسے والی انسانیت کا بھی قلع قمع ہو جائے گا۔ چنانچہ کفار کی قید میں ایک یا چند مسلمان قیدیوں یا دارالحرب میں چند تاجران کی خاطر مظلوم عوام (مسلمان و کافر) کے مشترکہ مفادات کو سبوتاژ کرنا حق و انصاف کے خلاف ہے۔ لہذا حق و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اس کے پس منظر میں مجاہدین اسلام کیلئے فتوحات کا دروازہ کھلا رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ کفار کے قبضے میں ایک یا چند مسلمان قیدیوں یا دارالحرب میں موجود چند تاجروں کی امان کو عدم جواز کا درجہ دیا جائے۔

۷۔ مملکت کفریہ میں اسلام لانے والے حربی کی امان کو صحیح و جائز متصور نہ کیا جائے گا تا وقتیکہ وہ (حربی) دارالاسلام کی طرف ہجرت نہ کر لے۔ کیونکہ دارالحرب میں اسلام قبول کرنے والے حربی کی حیثیت بھی وہی ہوگی جو کفار کی قید میں محبوس مسلمان قیدی یا دارالحرب میں موجود تاجر کی ہے۔

عبد مجبور امان دے سکتا ہے یا نہیں، اقوال فقہاء

وَلَا يَجُوزُ أَمَانُ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْقِتَالِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَصِحُّ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبُو يُوسُفَ مَعَهُ فِي رِوَايَةٍ وَمَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ لِمُحَمَّدٍ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَانُ الْعَبْدِ أَمَانٌ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَلِأَنَّهُ مُؤْمِنٌ مُمْتَنِعٌ فَيَصِحُّ أَمَانُهُ إِعْتِبَارًا بِالْمَاذُونِ لَهُ فِي الْقِتَالِ وَبِالْمُؤَبَّدِ مِنَ الْأَمَانِ فَإِلَّا يَمَانٌ لِكُونِهِ شَرْطًا لِلْعِبَادَةِ وَالْجِهَادِ عِبَادَةٌ وَإِلْمِتِنَاعٌ لِتَحَقُّقِ إِزَالَةِ الْخَوْفِ بِهِ وَالتَّأْيِثِ إِعْزَازُ الدِّينِ وَإِقَامَةُ الْمَصْلَحَةِ فِي حَقِّ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا الْكَلَامُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ وَإِنَّمَا لَا يَمْلِكُ الْمُسَابِقَةُ لِمَافِيهِ مِنْ تَعْطِيلِ مَنَافِعِ الْمَوْلَى وَلَا تَعْطِيلِ فِي مُجَرَّدِ الْقَوْلِ وَلَا يُبْعَى حَنِيفَةُ أَنَّهُ مَحْجُورٌ عَنِ الْقِتَالِ فَلَا يَصِحُّ أَمَانُهُ لِأَنَّهُمْ لَا يَخَافُونَهُ فَلَمْ يُبْلَقِ الْأَمَانُ مَحَلَّهُ بِخِلَافِ الْمَاذُونِ لَهُ فِي الْقِتَالِ لِأَنَّ الْخَوْفَ مِنْهُ مُتَحَقِّقٌ وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا لَا يَمْلِكُ الْمُسَابِقَةُ لِمَا أَنَّهُ تَصَرَّفُ فِي حَقِّ الْمَوْلَى عَلَى وَجْهِ لَا يَعْرِى عَنِ احْتِمَالِ الضَّرَرِ فِي حَقِّهِ وَالْأَمَانُ نَوْعُ قِتَالٍ وَفِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ قَدْ يُخْطِئُ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ وَفِيهِ سُدَّ بَابُ الْإِسْتِغْنَامِ بِخِلَافِ الْمَاذُونِ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهِ وَالْخَطَاءُ نَادِرٌ لِمُبَاشَرَتِهِ الْقِتَالِ وَبِخِلَافِ الْمُؤَبَّدِ لِأَنَّهُ خَلَفَ عَنِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّعْوَةِ إِلَيْهِ وَلِأَنَّهُ مُقَابِلٌ بِالْجِزْيَةِ وَلِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ عِنْدَ مَسْأَلَتِهِمْ ذَلِكَ وَإِسْقَاطُ الْفَرَضِ نَفْعٌ فَافْتَرَقَا

ترجمہ..... اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مجبور غلام کا کسی کافر کو امان دینا صحیح نہ ہوگا مگر اسی صورت میں کہ اس کے مولیٰ نے اسے قتال کرنے کی اجازت دے دی ہو۔ اور امام محمدؒ نے کہا ہے کہ صحیح ہے یہی قول امام شافعیؒ (وما لک و احمد) کا بھی ہے۔ امام ابو یوسفؒ ایک روایت میں امام محمدؒ کے ساتھ ہیں۔ قدوریؒ نے بھی اسی کو یہاں پیش کیا ہے۔ اور دوسری روایت میں امام ابو حنیفہؒ کے ساتھ ہیں۔ مبسوط میں اسی پر اعتماد ہے۔

امام محمدؒ کی دلیل یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غلام کی امان بھی امان ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس کی روایت کی ہے (مگر یہ حدیث نہیں ملتی ہے۔ البتہ عبدالرزاق نے جبید سند کے ساتھ فضیل سے روایت کی ہے کہ ہم نے ملک فارس



کے ایک شہر کا ایک مہینہ تک محاصرہ کیا۔ آخر ایک دن ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ صبح کے وقت اسے فتح کر لیں گے اس لئے ہم قتال سے واپس آ گئے۔ اتفاق سے ہمارا ایک غلام وہاں رہ گیا۔ تو کافروں نے اس سے پناہ مانگی اور اس نے ایک امان نامہ لکھ کر ایک تیر کے ساتھ ان کو پھینک کر دیدیا۔ یہ پا کر ان لوگوں نے اپنے ہتھیار بند کر کے رکھ لئے اور اپنے کپڑے پہنے اور وہاں سے نکل کر ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ تمہارا کیا حال ہے۔ جواب دیا کہ آپ لوگوں نے ہمیں امان دیدی ہے اور وہ امان نامہ لے کر ہمارے سامنے پیش کیا اسے پڑھ کر ہم نے کہا کہ یہ تو ایک غلام کی طرف سے ہے جسے اس طرح امان دینے کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے آزاد، غلام کو نہیں پہچانتے ہیں۔ اسی لئے ہم وہ امان نامہ پا کر ہی آپ کے پاس آئے ہیں۔ تب ہم نے پورا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیجا۔ تو جواب دیا کہ مسلمان غلام بھی مسلمانوں میں ہے اور اس کی امان بھی مسلمانوں کی امان ہے۔ ابن ابی شیبہؒ نے بھی اس کی روایت کی ہے) اور اس دلیل سے بھی غلام کی امان صحیح ہے کہ وہ غلام بھی مؤمن اور صاحب قوت ہے۔ اس لئے اس کی امان بھی صحیح ہوگی۔ جیسے کہ اس غلام کی امان صحیح ہوتی ہے جسے قتال کی اجازت موجود ہو۔ اور جیسا کہ کسی غلام نے اگر کسی کافر کو اپنے ملک میں ذمی کی حیثیت سے رہنے کا عہد نامہ لکھ دیا۔ جو کہ مقبول ہوتا ہے۔

اس جگہ ہم نے ایمان کی شرط لگائی ہے یعنی یہ کہا کہ امان دینے والا مؤمن ہو اس لئے کہ کسی قسم کی بھی عبادت کرنے کے لئے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اور جہاد بھی ایک عبادت ہے۔

اسی طرح ہم نے دوسری شرط صاحب قوت ہونے کی لگائی ہے اس لئے کہ اس کی وجہ سے دوسرے کے خوف کا دور ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ اور مجبور غلام کو ماذون پر اس لئے قیاس کیا کہ دونوں کے امان دینے میں دین کا اعزاز کرنا اور مسلمانوں کے حق میں مصلحت کو پیش نظر رکھنا برابر ہے۔

یہ تفصیل اسی صورت میں ہے جبکہ غلام کا امان دینا مسلمانوں کی مصلحت کے مطابق ہو۔

مجبور کو لڑائی اور قتال کرنے کی قدرت اس بناء پر نہیں سمجھی جاتی ہے کہ اگر وہ خود مختار ہو اور اپنی مرضی کے مطابق ہر کام کر سکتا ہو تو اس پر اپنے مولیٰ کی خدمت جو لازم ہوتی ہے وہ نہیں کر سکے گا اور صرف ایک قول میں امان دینے کا حق ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اس کی وجہ مولیٰ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔

اور امام ابو حنیفہؒ کی دلیل یہ ہے کہ جب اس غلام کو قتال کرنے کا حق نہیں ہے تو اس کی امان بھی صحیح نہ ہوگی کیونکہ ایسی صورت میں کفار کو اس سے کوئی خوف نہیں ہے۔ تو اس کی طرف سے امان بے موقع اور بے فائدہ ہوگی۔ بخلاف اس غلام کے جس کو قتال کی اجازت بھی ہو۔ کیونکہ اس سے خوف کا پایا جانا یقینی امر ہے۔

(ابن الہمامؒ نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ کفار کو اس بات کی تمیز نہیں ہوتی ہے کہ کون سا غلام ماذون ہے اور کون سا مجبور ہے یعنی کسے اس کے آقا کی طرف سے قتال میں شرکت کی اجازت ہے۔ اور کسے اجازت نہیں ہے۔ اس لئے وہ کفار تو ہر ایک سے خوف کھاتے ہوں گے۔ بلکہ یقینی طور سے خوف پایا جاتا ہے۔)

اور دوسری دلیل یہ ہے کہ غلام مجبور کو قتال کرنے کی فرصت نہیں ملتی ہے اس لئے کہ وہ اپنے آقا کی خدمت میں ہمہ تن مشغول رہتا ہے۔

اس لئے دوسرا کوئی کام کرنے سے ہی نقصان پہنچا دے گا۔ یا اس نقصان کے احتمال سے خالی نہ رہے گا اور اس کا امان دینا بھی ایک قسم کا قتال ہے اور قتال میں اس کا مشغول ہونا بھی اس کے مولیٰ کے حق میں سراسر نقصان ہے۔ کیونکہ شاید وہ غلام ایسا کرنے میں غلطی اور خطا کر بیٹھے بلکہ اسی کا احتمال بھی واضح ہے۔ اس طرح آئندہ اس کے مولیٰ کو غنیمت میں سے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا اور اس کے لئے غنیمت کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ بخلاف غلام ماذون کے کیونکہ اس کا مولیٰ ذہنی طور پر ہر بات کے لئے تیار ہو چکا ہے اور ایسے غلام سے شاذ و نادر ہی غلطی ہوتی ہے کیونکہ وہ قتال میں بھی شریک ہو چکا ہے اور یہ بات کسی ذمی کو عہد نامہ دینے کی سی نہیں ہے یعنی اگر مجبور غلام نے کسی کافر کو اپنے ملک میں ذمی بن کر رہنے کے لئے ایک عہد نامہ لکھ کر دیا۔ تو یہ مقبول ہو گا کیونکہ اسے اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ کافر کا ذمی بننا اس کے کافر سے مسلمان ہو جانے کے قائم مقام ہے۔ اس لئے اس کافر کو عہد نامہ دینا گویا اسے اسلام کی دعوت دینی ہے۔ ساتھ ہی اس ذمی سے جزیہ بھی وصول ہوتا ہے۔ اس طرح ہر طرح کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ جب کوئی کافر ذمی بننے کی درخواست کرتا ہے تو اسے قبول کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور فرض کو بجالانا عین نفع ہے۔ اس طرح کافر کو ذمی بننے کا عہد نامہ دینے اور لڑائی کے موقع میں امان دینے کے درمیان واضح فرق ہے۔

### صَبِيٌّ لَا يَعْقِلُ كِيَامَانِ كَا حَكْم

وَلَوْ أَمِنَ الصَّبِيُّ وَهُوَ لَا يَعْقِلُ لَا يَصِحُّ كَالْمَجْنُونِ وَإِنْ كَانَ يَعْقِلُ وَهُوَ مُحْجُورٌ عَنِ الْقِتَالِ فَعَلَى الْخِلَافِ وَإِنْ كَانَ مَا ذُونَا لَهُ فِي الْقِتَالِ فَلَا يَصِحُّ أَنَّهُ يَصِحُّ بِالْإِتِفَاقِ .

ترجمہ..... اور اگر ایسے نابالغ نے امان دی ہو جو ابھی تک اسلام کے مفہوم کو نہیں سمجھتا ہو تو اس کی امان مجنوں کے امان کے مانند صحیح نہیں ہے اور اگر وہ نابالغ اسلام کا مفہوم سمجھتا بھی ہو اسے قتال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہو تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس کی بھی امان صحیح نہیں ہے لیکن امام محمدؒ اور باقی آئمہ کے نزدیک صحیح ہے اور اگر اسے قتال کی بھی اجازت مل چکی ہو تو قول اصح یہ ہے کہ تمام آئمہ کے نزدیک بالاتفاق صحیح ہے۔

تشریح..... صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر نابالغ نے کسی کافر یا کفار کے گروہ کو امان (پناہ) دی۔ تو جمہور علماء کے نزدیک اسلام کی سمجھ نہ رکھنے والے بچے کی امان صحیح نہیں ہے۔

۱۔ کیونکہ نابالغ بچہ امان پر مبنی حکم ”حرمت قتال، خطاب تحریم“ کے اعتبار سے اہل امان میں شمار نہیں ہوتا۔

۲۔ اہل اسلام کے ضعف اور اہل کفر کی قوت پر مشتمل مخفی حالت سے آگاہی کا تعلق تفکر و تدبیر پر مبنی ہوتا ہے۔ جب کہ نابالغ و بے شعور بچہ کھیل کود کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ لہذا نابالغ بچہ جہاں اہل ایمان نہیں ہوتا وہاں اہل امان (پناہ) بھی متصور نہیں ہوتا۔ بقول امام شافعیؒ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تین آدمی مرفوع القلم ہیں۔ ۱۔ نابالغ بچہ۔ ۲۔ دیوانہ۔ ۳۔ نائم (نیند کرنے والا) گو کہ نابالغ بچہ کا عقلی اصول کے حوالے سے مرفوع القلم ہونا ممنوع ہے۔ لیکن فروعات شریعہ کے ضمن میں اسے (نابالغ بچے کو) مرفوع القلم (احکام شریعہ کا مکلف نہ ہونا) متصور کیا جائے گا۔



اسلامی احکامات پر مبنی عملی تصرفات کی اہلیت کے لئے ”عقل و شعور“ کا وجود لازمی ہے۔ امان دینا۔ ایک شرعی تصرف ہے جو عقل و شعور کا مقتضی ہے اور ”صبی“ (عقل و شعور سے عاری بچہ) میں غمرد (عقل) نام کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اگر عقل ہوتی بھی ہے تو وہ کھیل کود کی طرف راغب ہونے کی وجہ سے کا عدم متصور ہوتی ہے۔ جب کہ ”امان“ دینے کے لئے تدبیر و تفکر کا تحقق (ثبوت) لازمی امر ہے۔ پس ثابت ہوا کہ غیر ذی عقل و غیر ذی شعور شخص (خواہ نابالغ بچہ ہو یا بالغ دیوانہ) کسی کافر کو امان دینے کا مجاز نہیں۔ کیونکہ شرعی تصرف کے لئے ”عقل و شعور“ مشروط ہے۔

امان کی شرائط میں سے ایک شرط (بلوغت) کی عدم موجودگی میں ”امان“ کا تحقق ناممکن ہوگا۔ کیونکہ نابالغ بچے میں حرمت قتال اور تحریم خطاب موجود نہیں۔ نابالغ بچے کی امان میں فقہاء کی اختلافی صورت اگر بچہ بلوغت کے قریب ہے اور اسلام کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو امام محمد کے نزدیک ایسے بچے کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ کسی کافر یا کفار کے گروہ کو ”امان“ دے۔ بایں دلیل کہ امان کی اہلیت ایمان کی اہلیت پر مبنی ہے اور جو نابالغ بچہ اسلام کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ اہل ایمان کے زمرے میں آتا ہے۔ لہذا وہ (نابالغ بچہ) بالغ آدمی کی طرح ”امان“ دینے کا مجاز ہوگا۔

امام مالک، امام احمد کی رائے بھی ایک قول کے مطابق امام محمد کے موقف کی تائید میں ہے اور ایک روایت کے مطابق امام شافعی، احمد، امام ابو حنیفہ کے قول کی تائید کرتے ہیں۔ جب کہ جمہور علماء (اصحاب احناف) کا استدلال یہ ہے کہ نابالغ بچہ امان کے حکم کے اعتبار سے اہل امان میں سے نہیں کیونکہ امان کے جواز کے لئے مسلمانوں کی خفیہ حالات سے واقف اور غم و فکر پر مبنی صلاحیت لازمی امر ہے جو کہ اس (نابالغ بچے) میں موجود نہیں لہذا احناف کی رائے یہی ہے کہ نابالغ بچہ حکم امان کے پیش نظر ”امان“ دینے کا مجاز نہیں۔ بشرطیکہ وہ (اسلام کی سمجھ بوجھ رکھنے والا نابالغ بچہ) قتال میں ممنوع ہو۔ چنانچہ اس (نابالغ) بچے کی امان بھی عبد مجبور (قتال میں ممنوع غلام) جیسی ہوگی۔

فقہاء کی متفقہ صورت..... اگر بچہ قتال میں اجازت یافتہ ہے تو مسلمانوں کی خفیہ حالت (ضعف و قوت) سے واقفیت رکھنے اور اسلام کی سمجھ بوجھ کا حامل ہونے کی بناء پر تمام فقہاء (خصوصاً فقہائے احناف) کے نزدیک متفقہ طور پر اس (قتال میں اجازت یافتہ بچے) کی ”امان“ صحیح ہوگی۔ بقول صاحب ہدایہ یا قدوری ”صح“ قول یہی ہے۔

## بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

ترجمہ..... باب، غنیمت کے مال اور ان کی تقسیم کے بیان میں

وہ شہر جس کو امام نے عنوة (قہراً) فتح کیا ہو مال غنیمت کیسے تقسیم کرے

وَإِذَا فَتَحَ الْإِمَامُ بَلَدًا عَنْوَةً أَوْ قَهْرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَسَمَّيْنِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِخَيْبَرَ

ترجمہ..... اگر امام نے کسی شہر یا علاقہ کو عنوة یعنی قوت اور طاقت سے فتح کیا ہو تو اسے اس شہر کے پارے میں یہ اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو

اس شہر کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دے جیسے کہ رسول اللہ ﷺ نے صوبہ خیبر کو لوگوں میں تقسیم کر دیا تھا۔

تشریح..... امام جب دشمن کے کسی شہر یا علاقہ کو طاقت کے ذریعہ فتح کر لے تو وہاں کے افراد اور تمام مال و اسباب و جائیداد کے بارے میں امام کو اختیار ہوگا کہ حسب ضرورت اگر چاہے تو ان چیزوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دے۔ یا ان کو حسب سابق وہیں رہنے دے اور اس کے عوض آدمیوں سے جزیہ لے اور جائیداد میں کاشت کی زمین پر خرچ مقرر کر دے۔

حضرت زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آئندہ مسلمان ہونے والوں کے لئے کچھ جائیداد پانے کی مجھے فکر نہ ہوتی تو جو شہر یا گاؤں میں فتح کرتا اس کو اس کے غازیوں ہی میں تقسیم کر دیتا جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے خیبر میں کیا تھا۔ (رواہ البخاری و مالک)

اور عراق کی آبادی اور زمین پر فتح ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں کے لوگوں کو اس غرض سے حسب سابق اس لئے رہنے دیا تھا کہ آئندہ مسلمانوں کو جب کبھی ضرورت ہوگی اپنے قبضہ میں لے لیں گے۔ کیونکہ ان لوگوں کو جو ہم نے ان کی جگہ پر بحال رکھا ہے یہ ہمیشہ کیلئے نہیں اور ایسا کرنے پر چند صحابہ یعنی حضرت بلال و سلمان رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھیوں کے علاوہ تمام صحابہ کرام نے ان کی موافقت کی ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو بلوایا اور فرمایا کہ میں نے صحابہ کرام کے مشورہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے برحق ہے لیکن وہ لوگ نہ مانے اور نہ اس کی مصلحت سمجھ سکے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خیبر کی تقسیم کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ پھر دوسرے صحابہ کرام نے بھی مزید کچھ مصلحتیں ان کے سامنے بیان کر کے یہ چاہا کہ وہ بھی ہماری موافقت کر لیں اس پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا حق ہے۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ناراض ہو کر ان پر بددعا کی کہ الہی بلال اور ان کے ساتھیوں کے مقابلہ میں تو میرے لئے کافی ہو جا۔ چنانچہ ایک سال کے اندر ان سب کا انتقال ہو گیا۔ تاج الشریعہ نے ایسا ہی ذکر کیا ہے۔ میں مترجم کہتا ہوں کہ یہ بددعا ان کے حق میں عین دعا ہو گئی کہ وہ اپنی مراد تک پہنچ گئے کیونکہ تمام صحابہ ہی اس کی تمنا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے مِنْهُمْ مَنْ قُضِيَ نَجْبَتُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ (الاحزاب: ۲۳) یہ آیت اس باب میں صریح ہے کہ وہ لوگ موت کے منتظر تھے۔ اسی لئے جو صحابی جہاد میں شہید ہوتا یہی کہتافزت و رب الکعبہ۔ یعنی رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا کیونکہ (ویدار الہی کے فیض اور رسول اللہ ﷺ کے انوار کی برکتوں اور دار آخرت کے واسطے وہ ہر وقت ہر طرح بالکل تیار رہتے تھے۔

حجاج ثقفی نے جو مشہور ظالم ہے جس نے ایک لاکھ سے زیادہ بے گناہوں کا قتل کیا ہے۔ جب حضرت سعید بن جبیر تابعی کو قتل کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا تم میرے قتل سے بچو کیونکہ یہ کام خود تمہارے ہی حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اس نے کہا خاموش رہو۔ میں نے تم سے اچھے اچھے کو قتل کیا ہے۔ تب حضرت سعید نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو۔ جن کو تم نے قتل کیا ہے وہ لوگ ایسے تھے جن کو زندگی سے بیزاری اور موت کی خواہش نہ تھی اور مجھ میں ابھی تک زندگی کی ایک رمت باقی ہے۔ اس لئے میرا قتل کرنا تمہارے حق میں بہت برا ہوگا مگر حجاج نے ان کی کوئی بات نہ سنی اور آخر ان کو شہید کر ڈالا۔ مگر خواب میں دیکھا کہ حضرت سعید بڑی شان کے ساتھ موجود ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ”چلا آ، یہاں میں تمہارا منتظر ہوں“۔ حجاج اس خواب سے انتہائی پریشانی کے عالم میں بیدار ہوا۔ اس کے بعد اس کے وزراء اور امراء نے اگرچہ اسے بہت زیادہ تسلی دینے کی کوشش کی مگر اسے تسلی نہ ہوئی۔ اور اس نے کہا کہ مجھے ایسی امید نہیں ہے کہ مجھے اب تسلی ہوگی۔ چنانچہ اس کے



صرف چالیس دنوں کے بعد ہی وہ مر گیا۔ اور ایک صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرا مومن بندہ جب موت سے کراہت کرتا ہے حالانکہ موت اس کے لئے بہتر ہے تو میں اس کی ناگواری برداشت نہیں کرتا اور میں نہیں چاہتا کہ اسے کوئی صدمہ ہو۔ جیسا کہ صحیح میں ہے۔ اب بظاہر حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل میں زندگی کی تھوڑی سی خواہش دیکھی تو اسی سے نتیجہ اخذ کیا کہ حجاب ضرور اس سلسلہ میں عذاب میں پکڑا جائے گا۔ اسی لئے خیر خواہانہ اس کو نصیحت فرمائی کہ مجھے قتل نہ کر۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضرت عزرائیل علیہ السلام انتہائی محبوب کے سفیر اور پیام رساں معلوم ہوتے تھے۔ فافہم، م، الحاصل امام کو اختیار ہے کہ اس نے جس ملک کو طاقت اور زور کے ساتھ فتح کیا ہو اسے ان غازیوں کے درمیان ہی تقسیم کر دے۔ اسی طرح اگر چاہے تو اسی ملک کے مقامی باشندوں کو ہی حسب سابق وہاں رہنے دے اور اس کے عوض ان سے جزیہ اور خراج لیتا رہے۔

تشریح..... مفتوحہ شہر کی تقسیم کا مسئلہ مسلم حکمران کی صوابدید پر منحصر ہوگا۔ کیونکہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی صوابدید کے مطابق صوبہ خیبر کو مختلف حصوں میں مکمل طور پر تقسیم کر دیا تھا۔ جب کہ ابو داؤد کی صحیح روایت سے متحقق ہے کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صوبہ خیبر کو اٹھارہ حصوں میں تقسیم کیا تھا اور ہر حصے میں سو مردوں کے حصے داخل کئے تھے۔ اگر لشکر اسلام کے شرکاء حاجت مند ہوں تو بہتر یہی ہے کہ مفتوحہ علاقے کو لشکر اسلام میں تقسیم کر دیا جائے۔

واضح رہے کہ اگر مسلمان حکمران کفار کے علاقے پر حملہ کر کے غلبہ پالیتا ہے تو ایسی صورت میں حاصل شدہ مال تین اقسام پر مبنی ہوگا۔

۱۔ ساز و سامان ۲۔ اراضی (زمینیں) ۳۔ قیدی

اگر مال غنیمت ساز و سامان پر مشتمل ہو تو اس میں پانچواں حصہ (خمس) منہا کر کے باقی چار حصوں کو لشکر اسلام کے شرکاء میں تقسیم کرنے کا استحقاق سربراہ کو حاصل ہے۔ جب کہ اس مال کے بارے میں مسلم حکمران کو تصرف کا اختیار حاصل نہیں۔ مفتوحہ علاقے کی اراضی تقسیم کرنے کے حوالے سے مسلم حکمران (مسلک احناف کے بموجب) اراضی میں سے خمس نکال کر بقیہ زمین کو مجاہدین اسلام میں بانٹ دے۔ جیسا کہ ساز و سامان کی تقسیم میں ہوتا ہے۔ یا پھر اہل ذمہ ہونے کی شرط پائے جانے کی صورت میں اسے (کفار کی مفتوحہ اراضی) سابقہ مالکان کے پاس رہنے دے اور ان پر خراج عائد کر دے۔ (یعنی افراد پر جزیہ اور زمینوں پر خراج)۔

قیدیوں کے بارے میں مسلمان حاکم تین طرح کا اختیار رکھتا ہے

۱۔ مردوں کو قتل کیا جائے گا۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے فَاصْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ (گردنوں پر مارو) سے واضح ہے کہ عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے گا۔

۲۔ اگر اسلامی مملکت کے سربراہ کی صوابدید میں یہ امر ہو کہ انھیں (کفار قیدیوں کو) غلام بنایا جائے دریں صورت پانچواں حصہ نکال کر بقیہ تمام قیدیوں کو بحیثیت غلام غازیان اسلام میں تقسیم کر دے کہ حقیقی معنی میں یہ ”مال غنیمت“ متصور ہوتے ہیں۔ لہذا ان کی تقسیم مال غنیمت کی طرح ہوگی۔ بشرطیکہ وہ (قیدی) اہل عرب یا مرتد نہ ہوں۔ کیونکہ انہیں غلام نہیں بنایا جاتا بلکہ انھیں قتل کیا جاتا ہے یا پھر وہ قبول اسلام کے لئے مائل ہوں۔

۳۔ اگر مسلم حکمران مناسب سمجھے تو انھیں بطور احسان رہا کر دے۔ مال غنیمت میں مسلمان حاکم کے اختیار تصرف پر مبنی مختصر بحث کے

اعتبار سے متن ہدایہ کی مذکورہ صورت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ متذکرہ صورت مسئلہ میں مفتوحہ علاقے کی اراضی کے حوالے سے اس کی تقسیم کا مسئلہ مراد ہے۔ یعنی اگر امام مناسب سمجھے تو اہل حرب کے مفتوحہ علاقے کو غازیان اسلام میں تقسیم کر دے اور صوبہ خیبر کی تقسیم میں رسول اللہ ﷺ کے تعامل کو بطور دلیل پیش کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ خیبر کا علاقہ محرم ۷ھ میں چودہ صحابہؓ نے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیرِ کمان فتح کیا تھا اور اسے (خیبر کو) آپؐ نے مکمل یا نصف یا اٹھارہ حصوں میں تقسیم کر کے غازیان اسلام کے سپرد کر دیا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب

وہیں کے باشندوں کو جزیہ اور خراج لیکر برقرار رکھنے کا حکم

وَإِنْ شَاءَ أَقْرَأَهُ عَلَيْهِ وَوَضَعَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ وَعَلَى أَرْضِيهِمُ الْخِرَاجَ كَذَلِكَ فَعَلَ عُمَرُ بِسَوَادِ الْعِرَاقِ بِمُؤَافَقَةِ مَنْ الصَّحَابَةُ وَلَمْ يُحْمَدْ مَنْ خَالَفَهُ وَفِي كُلِّ مِّنْ ذَلِكَ قُدْوَةٌ فَيَتَخَيَّرُ.

ترجمہ..... اور اگر چاہے تو وہاں کے باشندوں کو بھی وہیں حسب دستور رہنے دے۔ البتہ ان پر جزیہ اور ان کی کاشت کی زمین پر خراج مقرر کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے ایسا ہی عراق والوں پر لازم کیا تھا۔ اور وہاں بھی جن لوگوں نے ان کے مشورے کی مخالفت کی اس کی برائی ہوئی اچھائی نہیں ہوئی۔ الحاصل اگر ایسے علاقہ کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو رسول اللہ ﷺ کا عمل پیش نظر ہوگا۔ اور اپنی حالت پر رہنے دینے میں جمہور صحابہ کے عمل کے پیش نظر ہوگا۔ اس لئے ایسے وقت حالات کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے۔

تشریح..... حاصل یہ کہ اگر مسلمان حاکم چاہے تو اپنی صوابدید پر مفتوحہ علاقہ اہل حرب کے باشندوں کو بایں طور عطاء کرے کہ ان (اہل حرب) کے گھروں اور اراضی کو مفتوح قوم کے تصرف میں رکھے اور ان پر جزیہ و خراج مقرر کر دے۔ کیونکہ اسلامی حکمران کا یہ اختیار تعامل رسول ﷺ اور فعل عمرؓ سے ثابت ہے۔

عہد نبوی ﷺ کی فتوحات کے بعد بیرون عرب یہ پہلی عظیم الشان فتح تھی۔ حضرت عمرؓ نے سواد عراق کی زمین کو غازیان اسلام کے مابین تقسیم کرنے سے متعلق صحابہ کرامؓ سے مشورہ کیا۔ حضرت علیؓ کے بقول سواد عراق کی زمین تقسیم نہ کی جائے بلکہ اسے مسلمانوں کے متفقہ سرمایہ کے طور پر رکھا جائے۔ حضرت معاذؓ کی رائے تھی کہ سواد عراق کی زمین کو تقسیم کرنے کی صورت میں قوم کے پاس بہت بڑی زمین آجائے گی۔ مبادا کہ اس طرح ساری زمین ایک ہی شخص کے پاس نہ چلی جائے اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کیلئے کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ جبکہ حضرت بلالؓ، سلمان فارسیؓ و دیگر احباب کا موقف اس سے مختلف تھا۔ یعنی ہم نے اسے بزور قوت و غلبہ فتح کیا ہے۔ لہذا رسولؐ کے ہاتھوں خیبر کی اراضی کی تقسیم کی طرح سواد عراق کی زمین بھی تقسیم کی جائے۔ چنانچہ صحابہ کرامؓ کی بحث و تمحیص کے بعد یہ رائے طے پائی کہ سواد عراق کی زمین وہیں کے باشندوں (کفار) کو دی جائے اور ان کی ذات پر جزیہ اور زمین پر خراج عائد کیا جائے۔ تمام صحابہ کرامؓ نے اس فیصلے پر اتفاق کیا اور جس مسئلے پر صحابہ کرامؓ کا اتفاق متحقق ہو جائے تو اس سے (غیر مقلدین، اہل تشیع کی طرح) روگردانی نہ کی جائے۔ کیونکہ صحابہ کرامؓ علوم شریعہ کو سب سے زیادہ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرامؓ کے متفقہ موقف سے حدیث نبویؐ منسوخ ہو جاتی ہے۔ بایں وجہ کہ صحابہ کرامؓ براہ راست رسول اللہ ﷺ کے تربیت یافتہ افراد ہیں۔ چنانچہ احکام شریعہ کے ناسخ و منسوخ کا بخوبی



علم سوائے صحابہ کرامؓ کے کسی اور کے پاس نہیں احادیث نبویہ ﷺ کی لفظی و معنوی حقیقت سے صرف صحابہ کرامؓ ہی آشنا تھے۔ اس لئے جو شخص صحابہ کرامؓ کی متفقہ رائے سے اختلاف کرتا ہے اس کا یہ اقدام عبث، شنیع و فبیح (گندہ) متصور ہوگا۔ رہا سیدنا بلالؓ، اور سیدنا سلمان فارسیؓ کا اختلاف تو وہ صحابہ رسول اللہ ﷺ تھے، ہم عصر وہم پلہ ہونے کے باعث ان کا استحقاق تھا۔ امام محمدؒ نے سیر کبیر میں لکھا ہے کہ ہر دو حضرات (بلالؓ، سلمانؓ) نے اپنے موقف سے رجوع کرتے ہوئے دیگر تمام صحابہؓ کے موقف سے اتفاق کر لیا تھا۔ (فتح القدیر)

مفتوحہ علاقہ کے لوگوں اور اموال کے ساتھ کونسا معاملہ کرنا اولیٰ ہے

وَقِيلَ الْأُولَىٰ هُوَ الْأَوَّلُ عِنْدَ حَاجَةِ الْغَانِمِينَ وَالثَّانِي عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ لِيَكُونَ عُدَّةٌ فِي الزَّمَانِ الثَّانِي وَ هَذَا فِي الْعَقَارِ أَمَّا فِي الْمَنْقُولِ الْمُجَرَّدِ لَا يَجُوزُ الْمَنْ بِالرَّدِّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ فِيهِ وَفِي الْعَقَارِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ فِي الْمَنْ أَبْطَالُ حَقِّ الْغَانِمِينَ أَوْ مِلْكِهِمْ فَلَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ يُعَادِلُهُ وَالْخِرَاجُ غَيْرُ مُعَادِلٍ لِقَتْلِهِ بِخِلَافِ الرَّقَابِ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَبْطُلَ حَقُّهُمْ رَأْسًا بِالْقَتْلِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ وَلِأَنَّ فِيهِ نَظَرًا لِأَنَّهُمْ كَالْأَكْرَهَةِ الْعَامِلَةِ لِلْمُسْلِمِينَ الْعَامِلَةِ بِوُجُوهِ الزَّرَاعَةِ وَالْمُونِ مُرْتَفَعَةٌ مَعَ أَنَّهُ يَحْظَرُ بِهِ الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِ وَالْخِرَاجُ وَإِنْ قُلَّ حَالًا فَقَدْ جَلَّ مَالًا لِدَوَامِهِ وَإِنْ مَنْ عَلَيْهِمْ بِالرَّقَابِ وَالْأَرْضِ يَدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمَنْقُولَاتِ بِقَدْرِ مَا يَنْتَهِي أَلَهُمُ الْعَمَلُ لِيَخْرُجَ عَنْ حَدِّ الْكَرَاهَةِ

ترجمہ..... اور کہا گیا ہے کہ مذکورہ دو صورتوں میں سے پہلی صورت (غنیمت کو غازیوں میں تقسیم کر دینا) ہی بہتر اور اولیٰ ہے۔ بشرطیکہ غازیوں کو مالی ضرورت زیادہ ہو۔ اور ضرورت نہ ہونے کی صورت میں دوسری صورت اولیٰ ہے (باشندگان ملک کو اپنی پرانی حالت پر رہنے دینا اور جزیہ دینے کی شرط پر) تاکہ جب کبھی ضرورت آن پڑے اس وقت ان لوگوں کے لئے یہ سامان مہیا رہیں۔ پھر یہ مذکورہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ منقولہ جائیداد نہ ہو لیکن مال منقولہ کو احسان کے طور پر وہاں کے لوگوں کے پاس واپس کر دینا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ ایسا کرنا شریعت میں منقول نہیں ہے۔ اور غیر منقول یعنی منقول نہ ہونے والی جائیداد مثلاً مکانات زمینیں اور باغات وغیرہ کے بارے میں امام شافعیؒ کا اختلاف ہے۔ کیونکہ جن لوگوں پر فتح حاصل کی گئی ہے ان کو مسلمانوں میں تقسیم نہ کر کے ان پر احسان کرتے ہوئے ان کو حسب سابق رکھ کر غازیوں کے حق یا ان کی ملکیت کو باطل کرنا لازم آتا ہے۔ اس طرح یہاں کسی مساوی بدلہ کے بغیر احسان کرنا لازم آتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ اور ان سے جو خراج لیا جاتا ہے وہ ان کا پورا بدلہ نہیں ہوتا ہے بخلاف ان لوگوں کے ذات اور رقبہ کے یعنی کافروں کا ملک فتح کیا گیا ہے ان لوگوں کو اپنا غلام بنا کر تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ ان کے بارے میں بھی امام کو اختیار ہوتا ہے کہ اگر چاہے تو ان سب کو قتل بھی کر سکتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ان غازیوں کا حق ان گرفتار شدہ لوگوں کی ذات اور رقبہ سے متعلق نہیں ہوتا ہے ورنہ امام کو سب کے قتل کر دینے کا بھی اختیار نہ ہوتا۔

اور ہمارا جواب یہ ہے کہ ایسی قیاسی دلیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل کے مقابلہ میں باطل ہے کیونکہ فعل صحابہ ایک مسلمہ حجت ہے اور اس دلیل سے بھی کہ ایسا کرنے میں یہ مصلحت ہے کہ اس علاقہ میں جن کفار کو باقی رہنے دیا گیا ہے وہ مسلمانوں کے کاشتکار ہوں گے اور وہ اپنی زمینوں میں زراعت کرنے کے طریقوں سے واقف ہوتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کو اس علاقہ میں کھیتی کرنے اور باغات

وغیرہ کی دیکھ بھال کرنے کے لئے نہ تو کچھ خرچ کرنا ہوتا ہے اور نہ کوئی فکر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ علاقہ مسلمانوں کی ملکیت میں رہتا ہے جو بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لئے ضرورت پڑنے پر ہر طرح کا سامان ثابت ہوتا ہے اور ان سے لیا ہوا خراج اگرچہ فی الحال بظاہر بہت کم ہوتا ہے مگر چونکہ ہمیشہ وصول ہوتا ہے اس لئے بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اگر امام وقت ان کافروں پر احسان کرتے ہوئے ان کی گردنیں آزاد کر دے اور ان کو قتل نہ کرے اور وہاں کی زمینوں پر ان کو کاشت کاری کرنے دے تو امام ان لوگوں کے لئے منقولہ جائداد اور سامان میں سے صرف اتنا ہی چھوڑے جن سے وہ اطمینان کے ساتھ کھیتی باڑی کا کام کر سکیں تاکہ کسی طرح کی کراہت بھی نہ پائی جائے۔ (کراہت نہ پائی جانے کے جملہ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر امام نے ان کی عورتوں، اولاد، دوسرے اموال سب تقسیم کر دیئے اور ان مردوں کو صرف کاشتکار کے طور پر ان کی زمینوں پر رہنے دیا تو اس میں کراہت ہے کیونکہ وہ مال کے بغیر زمینوں اور کھیتوں سے کسی طرح کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس لئے کھیتوں اور زمینوں میں کام کرنے کے لائق ان کے پاس مال بھی چھوڑ دینا چاہئے۔ یہ بات تمر تاشی نے بیان کی ہے

### قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے

قَالَ وَهُوَ فِي الْأَسَارَى بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ قَتَلَ وَلَئِنْ فِيهِ حَسَمَ مَادَّةَ الْفَسَادِ

ترجمہ..... اور قدوری نے کہا ہے کہ امام کو کافر قیدیوں کے بارے میں تین باتوں کا اختیار ہوتا ہے کہ اگر چاہے تو ان کو قتل کر دے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن قتل کیا تھا۔ اور جیسا کہ بخاری نے اس کی روایت کی ہے۔ اور اس لئے بھی کہ ان کے قتل کر دینے سے فساد کی جڑ کو اکھیر دینا ہوتا ہے۔

### قیدیوں کو غلام بنانے کا بھی اختیار ہے

وَإِنْ شَاءَ اسْتَرْقَهُمْ لِأَنَّ فِيهِ دَفْعَ شَرِّهِمْ مَعَ وَفُورِ الْمَنْفَعَةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمْ أَحْرَارًا ذِمَّةً لِلْمُسْلِمِينَ لِمَا بَيْنَنَا وَالْأَفْئِ مِشْرِكِي الْعَرَبِ وَالْمُرْتَدِّينَ عَلَى مَا بَيْنَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

ترجمہ..... اور یا اگر امیر چاہے تو ان کو غلام بنالے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے ان کی شرارت ختم ہونے کے علاوہ مسلمانوں کو ان سے بہت سے منافع بھی حاصل ہوں گے۔ اور اگر چاہے تو ان کو یوں ہی آزاد رہنے دے مگر ان کو ذمی بنا کر ان پر جزیہ لازم کر دے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق والوں کے ساتھ کیا تھا۔ البتہ مشرکین عرب اور اسلام سے مرتد ہونے والوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوگا کیونکہ ان کیلئے صرف دو ہی باتیں ہیں کہ وہ دوبارہ اسلام قبول کر لیں یا قتل کر دیئے جائیں۔ انشاء اللہ اس مسئلہ کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔

### سربراہ مملکت کیلئے جنگی قیدیوں کو از روئے احسان دار الحرب کی طرف رہا کرنا جائز نہیں

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّ فِيهِ تَقْوِيَتَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ أَسْلَمُوا لَا يَقْتُلُهُمْ لِأَنْدِفَاعِ الشَّرْبِ دُونِهِ وَلَكِنْ أَنْ يَسْتَرْقَهُمْ تَوْفِيرًا لِلْمَنْفَعَةِ بَعْدَ انْعِقَادِ سَبَبِ الْمَلِكِ بِخِلَافِ إِسْلَامِهِمْ قَبْلَ الْأَخْذِ لِأَنَّهُ لَمْ



## يَنْعَقِدُ السَّبَبُ بَعْدُ

ترجمہ... اور یہ جائز نہیں ہے کہ امام ان قیدیوں کو دار الحرب میں جانے کی اجازت دیدے۔ کیونکہ ایسا ہونے سے ان کفار کو مسلمانوں کے خلاف طاقت پہنچانی ہوگی۔ اب اگر وہ اسلام لے آئیں تو امام ان کو قتل نہ کرے کیونکہ قتل کے بغیر ہی ان کے شر و فساد سے بچنا ممکن ہو گیا اور امام کو یہ حق بھی ہے کہ وہ قیدی جو مسلمان ہو گئے ہوں ان کو غلام بنا کر رکھے۔ تاکہ ان سے بہت سے منافع حاصل ہوں کیونکہ ملکیت کا سبب پیدا ہو چکا ہے۔ یعنی وہ پہلے قیدی بن کر غلام بنے اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے ہیں اس لئے ان کو غلام بنا کر رکھنا بھی جائز ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر وہ لوگ گرفتار ہونے سے پہلے مسلمان ہو گئے ہوں تب ان کو غلام بنا کر رکھنا جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ اس وقت ان کو غلام بنا کر رکھنے کا سبب پیدا نہیں ہوا ہے۔

تشریح... خلاصہ یہ کہ سربراہ مملکت کو اس امر کا اختیار نہیں کہ وہ کسی قیدی کو بطور احسان رہائی دیتے ہوئے واپس دار الحرب کی طرف بھیج دے کیونکہ ایسا کرنے سے وہ اہل اسلام کے خلاف قتال لڑائی کرے گا اور اس سے اہل کفر کی تقویت ہوگی۔ لہذا مسلمان حاکم کو یہ استحقاق نہیں کہ وہ کسی کافر قیدی کو ذمی بنائے بغیر یا غلام بنا کر مال غنیمت کی طرح تقسیم کئے بغیر یا قتل کئے بغیر مال لے کر یا بطور احسان چھوڑ دے۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ قیدی کو فدیہ لے کر رہا کر دینا جائز ہے۔ خواہ وہ کیسا کیوں نہ ہو دلیل یہ ہے۔

فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً (محمد: ۴)

اس طرح رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسیران بدر کو فدیہ لے کر رہا کر دیا تھا اور رسول علیہ السلام کا شرعی عمل کم از کم جواز و اباحت کا درجہ رکھتا ہے۔ لہذا قتال رسول علیہ السلام کے جواز و اباحت پر مبنی فعل کا تقاضی یہی ہے کہ قیدی کی نوعیت کوئی بھی ہو اس سے فدیہ (مال) لے کر رہا کرنا جائز ہے۔

امام محمد کا قول ہے کہ ضعیف العمر شخص جو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اگر وہ قیدی کی حیثیت سے موجود ہے تو اسے مال لے کر چھوڑنے میں کوئی قباحت نہیں۔

ظاہر الروایات (زیادات، جامع کبیر، جامع صغیر، مبسوط، سیر کبیر، سیر صغیر) کی رو سے ائمہ احناف کے نزدیک مال لے کر قیدی کو رہا کرنا جائز نہیں ہے۔ بایں دلیل کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ،

۱۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ (الانفال: ۱۲) (پس ان کو گردنوں کے اوپر مارو) یہ حکم گرفتار کرنے اور غلام بنالینے کے بعد سے متعلق ہے کیونکہ دوران قتال گردنوں کے اوپر مارنا یعنی جوڑ سے گردن کو الگ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔

۲۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (التوبة: ۵) (مشرکوں کو قتل کرو انہیں جہاں کہیں پاؤ) قتل کو ترک کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک قبول اسلام کا وسیلہ موجود نہ ہو۔ جو کہ مشروعیت قتل کی غرض ہے اور فدیہ لے کر چھوڑ دینے سے وجود وسیلہ کا معنی حاصل نہیں ہوتا۔

۳۔ مال لے کر چھوڑ دینا یا بطور احسان رہا کرنے سے قتال میں اہل حرب کی اعانت و تقویت کو متحقق کرنا ہے۔ ضعیف العمر شخص کے

حوالے سے امام محمدؒ کی اعانت کا مفہوم اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہونے کی صورت میں اگرچہ موجود ہے۔ لیکن رائے، مشورہ، نفری میں اضافہ کے باعث ضعیف العمر شخص میں اعانت اور تقویت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔

امام شافعیؒ کے استدلال فَاِمَا مَنَّا بَعْدُ وَاِمَا فِدَاءُ کے جواب میں بعض مفسرین کا قول مذکورہ ہے کہ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ (التوبة: ۲۹) (ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے) چونکہ سورۃ التوبہ سورۃ محمد کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان (فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ) منسوخ متصور ہوگا۔ اگر قیدی کو ویسے رہا کر دیا جائے تو کفار کی تقویت کا باعث بن کر اہل اسلام کے لئے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ یہ نقصان قیدی کو بطور احسان یا مال لے کر چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیونکہ اسلام غالب سے مغلوب نہیں۔ قیدی کو رہا کر کے کفار کو تقویت دینے سے اسلام کی مغلوبیت متحقق ہوگی۔ لہذا قیدی کو رہائی دے کر دار الحرب کی طرف بھیجنا مسلمان حاکم کے اختیار و استحقاق میں متحقق نہیں۔ اگر کوئی قیدی دوران قید اسلام قبول کر لے تو اسے قتل کرنے سے گریز کیا جائے گا۔ کیونکہ کفر اپنی ذات میں بنیادی طور پر شر و فساد کا سرچشمہ ہے اس لئے کافر کو دفع شر کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے باعث کافر سے شرم فروع ہو گیا جو کہ قتل کا سبب تھا۔ چنانچہ سبب کے مفقود ہونے سے مسبب (کفر) کا فقدان ہو گیا۔ لہذا کافر قیدی کے مسلمان ہونے سے مسلمان حاکم پر قتل کا اقدام ممنوع ہو جائے گا۔ اگر کوئی کافر قیدی گرفتار ہونے سے پہلے اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسے غلام نہیں بنایا جائے گا۔ کیونکہ ملکیت کا سبب کفر اور قتال تھا اسلام قبول کرنے سے سبب ملکیت زائل ہو گیا لہذا غلام بنانا صحیح متصور نہ ہوگا۔

### قیدیوں کے بدلے جزیہ لینے کا حکم

وَلَا يُفَادَى بِالْأَسَارَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ يُفَادَى بِهِمْ أَسَارَى الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ فِيهِ تَخْلِيصَ الْمُسْلِمِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَتْلِ الْكَافِرِ وَالْإِنْتِفَاعِ بِهِ وَلَهُ أَنْ فِيهِ مَعُونَةُ الْكُفْرَةِ لِأَنَّهُ يَعُوذُ حَرْبًا عَلَيْنَا وَدَفْعَ شَرِّ حَرَابِهِ خَيْرٌ مِنْ اسْتِنْقَادِ الْأَسِيرِ الْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ إِذَا بَقِيَ فِي أَيْدِيهِمْ كَانَ ابْتِلَاءً فِي حَقِّهِ غَيْرَ مُضَافٍ إِلَيْنَا وَالْإِعَانَةُ بِدَفْعِ أَسِيرِهِمْ إِلَيْهِمْ مُضَافٌ إِلَيْنَا أَمَّا الْمَفَادَةُ بِمَالٍ يَأْخُذُهُ مِنْهُمْ لَا يَجُوزُ فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ لِمَابَيْنَا وَفِي السَّيْرِ الْكَبِيرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةً اسْتِدْلًا لَا بِأَسَارَى بَدْرٍ وَلَوْ كَانَ أَسْلَمَ الْأَسَارَى فِي أَيْدِينَا لَا يُفَادَى بِمُسْلِمٍ أَسِيرٍ فِي أَيْدِيهِمْ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِهِ وَهُوَ مَأْمُونٌ عَلَى إِسْلَامِهِ

ترجمہ..... اور ابو حنیفہؒ کے نزدیک کافر قیدیوں کا فدیہ نہیں لیا جائے گا یعنی یہ بات جائز نہ ہوگی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے اور صاحبینؒ نے فرمایا ہے کہ مسلمان قیدیوں کے بدلے ان کو چھوڑنا جائز ہے۔

امام شافعیؒ و مالک و احمد رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے کیونکہ ایسا کرنے سے ہمارے مسلمان قیدی بھائیوں کو رہائی میسر ہوتی ہے۔ اور یہ بات کافر کو قتل کر دینے اور اس سے نفع اٹھانے کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔

اور امام ابو حنیفہؒ کی دلیل یہ ہے کہ ایسا کرنے سے کافروں کو قوت پہنچانی ہوتی ہے کیونکہ یہ قیدی چھوٹ کر ہم سے پھر لڑے گا اور اس کی لڑائی کی برائی اور نقصان کو دور کرنا مسلمان قیدی کو چھڑانے سے بہت بہتر ہے کیونکہ مسلمان قیدی اگر ان کے ہاتھوں میں گرفتار رہا تو



اس کا نقصان صرف اسی کی ذات کا ہے اور تمام مسلمانوں کا نہیں ہے۔ لیکن کافروں کو ان کا قیدی واپس دے کر عام مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے (لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک کافر قیدی چھوڑ دے گا تو اس کے بدلہ ایک مسلمان آئے گا جو اس کافر کے نقصان دور کرنے کے لئے کافی ہوگا۔ اور اس آزادی سے اس کی عظمت اور اس کی عبادت کی آزادی اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی زیادہ ہوگی۔ اسی لئے امام ابو حنیفہ کی دوسری روایت بھی صاحبین اور جمہور کے قول کے موافق ہی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ یہی قول اظہر ہے اور خود رسول اللہ ﷺ نے ایک مشرک کے بدلہ دو مسلمانوں کو آزاد کروایا تھا۔ جیسا کہ مسلم و ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کی ہے۔ بلکہ کافرہ عورت کو دے کر بھی مسلمان کو چھوڑ دانا جائز ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ایسے چند مسلمانوں کو جو مکہ میں قیدی تھے ایک ایسی عورت کے عوض آزاد کر دیا تھا جسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جہاد کے موقع میں حضرت سلمہ بن رکوع رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ جیسا کہ اس کی روایت مسلم نے کی ہے) اور اب یہ سوال کہ کافر قیدی کو مال لے کر چھوڑنا تو مشہور مذہب کے مطابق جائز نہیں ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے کافروں کی تقویت ہوتی ہے۔ اور امام محمدؒ نے سیر کبیر میں لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہو تو مال کے عوض قیدی کو بھی چھوڑنا جائز ہے۔ چنانچہ بدر کی لڑائی میں کافر قیدی مال لے کر چھوڑ دیئے گئے تھے (لیکن جب ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب کی آیت نازل ہو گئی تو اب اس واقعہ کو دلیل کے طور پر پیش کرنا درست نہیں ہوگا۔ (الغنیہ)

اور اگر یہ کافر قیدی مسلمان ہو گئے ہوں تو ان کو دے کر ان مسلمانوں کو چھوڑ دانا جو کافروں کے ہاتھوں میں مقید ہوں جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ ایسا کرنا بے فائدہ ہوگا۔ البتہ اگر مسلمان ہونے والا قیدی اپنی خوشی سے اس پر راضی ہو اور اس کے اسلام پر قائم رہ جانے پر اطمینان بھی ہو تو تبادلہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔

تشریح..... رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بدر کے موقع پر جنگی قیدیوں کو مال کے عوض میں رہا کیا تھا اور غزوہ حدیبیہ کے موقع پر جنگی قیدیوں کو بطور احسان چھوڑ دیا تھا اور خلفائے راشدین نے بھی اسی کو اپنا معمول بنایا تھا اس لئے صحیح اور مختار قول یہی ہے کہ مسلمانوں کی قلیل تعداد کے باعث بوقت ضرورت وضعف جنگی قیدیوں کو مال کے عوض رہا کرنے کی ممانعت ہوگی اور جب مسلمان اسلامی شان و شوکت کے حوالے سے مضبوط اور طاقت ور ہونے کے باعث کفار میں اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کی سکت و جرات نہ ہو تو اس صورت میں انھیں (کافر قیدیوں کو) رہا کرنے کے جواز پر مبنی اقدام صحیح متصور ہوگا۔

صاحب فتح القدیر (علامہ ابن ہمام) کا قول ہے کہ امام ابو حنیفہ کے ہاں کافر قیدیوں کو آزاد کرنے کے عدم جواز پر مبنی حکم محض ایک روایت ہے۔ جب کہ سیر کبیر میں مذکور قول جمہور صحابہ و فقہاء کے مطابق جنگی قیدیوں کو چھوڑنے کے جواز پر منقول ہے۔ بشرطیکہ مسلمانوں کے حق میں مصلحت اسی میں ہو۔ امام ابو جعفر طحاوی نے اسی کو امام ابو حنیفہ کا مذہب قرار دیا ہے۔

حضور ﷺ اور خلفاء راشدین سے قیدیوں کے بارے میں کبھی قتل کرنا کبھی غلام بنانا کبھی مال کے عوض رہا کرنا اور کبھی بطور احسان چھوڑنا ثابت ہے، اس لئے آیات قرآنیہ یعنی سورہ محمد و سورہ انفال میں مختلف حکم مسلمانوں کے اختلاف حالات پر مبنی ہے۔

صاحب ہدایہ نے امام صاحب کا مذہب سیر کبیر کے حوالے سے وہی نقل کیا ہے جو جمہور صحابہ و فقہاء کا ہے کہ قیدیوں کو فدیہ کے عوض آزاد کرنا جائز ہے۔

خلاصہ یہ کہ جنگی قیدیوں کا قتل ہو یا انھیں غلام بنانے کا حکم مسلمان حاکم کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جو مناسب سمجھے عمل کرے اس پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ جب کہ فدیہ (مال) کے عوض یا بطور احسان انھیں (کافر قیدیوں کو) آزادی دینے میں اگرچہ کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن جمہور (اکثریتی رائے) صحابہ و فقہاء کے نزدیک ہر دو صورتوں کا جواز موجود ہے۔

### قیدیوں پر احسان کرنے کا حکم

قَالَ وَلَا يَجُوزُ الْمَنْ عَلَيْهِمْ أَى عَلَى الْأَسَارَى خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ يَقُولُ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى بَعْضِ الْأَسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى خَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَهْزِلُوا أَسْرَهُمُ الْقَسْرُ يَثْبُتُ حَقُّ الْأَسْرِ قَسْرٌ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ إِسْقَاطُهُ بِغَيْرِ مَنَفْعَةٍ وَعَوَضٍ وَمَا رَوَاهُ مَنْسُوخٌ لِمَا تَلَوْنَا

ترجمہ..... اور قیدیوں پر احسان کرنا جائز نہیں ہے، بخلاف امام شافعیؒ کے، انکا کہنا یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے غزوہ بدر کے چند قیدیوں پر احسان فرمایا تھا، ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے (مشرکین جہاں بھی ملیں انکو قتل کر دو) اور اسلئے بھی ان کو قیدی و فرمانبردار بنا کر غلام بنایا جاسکتا ہے لہذا اس حق کو بلا عوض و بدون منفعت ضائع نہ کیا جائے گا اور امام شافعیؒ کی دلیل ہماری ذکر کردہ آیت کی روشنی میں منسوخ ہو چکی ہے۔

امام دارالاسلام لوٹنے کا ارادہ کرے اور اس کے ساتھ مویشی ہوں اور وہ انکو منتقل نہ کر سکے تو

### ان کیساتھ کیا سلوک کیا جائے

وَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ الْعَوْدَ وَمَعَهُ مَوَاشٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَقْلِهَا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ذَبَحَهَا وَحَرَّقَهَا وَلَا يَعْصِرُهَا وَلَا يَتْرُكُهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَتْرُكُهَا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ ذَبْحِ الشَّاةِ إِلَّا لِمَا كَلَهُ وَلَنَا أَنَّ ذَبْحَ الْحَيَوَانِ يَجُوزُ لِعَرَضٍ صَحِيحٍ وَلَا عَرَضٍ أَصَحُّ مِنْ كَسْرِ شَوْكَةِ الْأَعْدَاءِ ثُمَّ يُحْرَقُ بِالنَّارِ لِيَنْقَطَعَ مَنَفَعَتُهُ عَنِ الْكُفَّارِ وَصَارَ كَتَحْرِيبِ الْبُنْيَانِ بِخِلَافِ التَّحْرِيقِ قَبْلَ الذَّبْحِ لِأَنَّهُ مَنَّهُ عَنْهُ وَبِخِلَافِ الْعَقْرِ لِأَنَّهُ مُثَلَّةٌ وَتُحْرَقُ الْأَسْلِحَةُ أَيْضًا وَمَا لَا يَحْتَرِقُ مِنْهَا يُدْفَنُ فِي مَوْضِعٍ لَا يَطْلُعُ عَلَيْهِ الْكُفَّارُ أَبْطَالًا لِلْمَنَفْعَةِ عَلَيْهِمْ

ترجمہ..... اور جب امام دارالاسلام واپس آ جانا چاہیں اور ان کے ساتھ مویشی ہوں جن کو اپنے ساتھ لانا ان کے بس کی بات نہ ہو تو ان کو ذبح کر کے آگ لگا دیں، ان کی قطع و برید نہ کریں اور نہ ہی زندہ چھوڑ کر چلے آئیں، اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ان کو زندہ چھوڑ کر آجائیں، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے کھانے کے علاوہ کسی اور غرض سے بکری کو ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے، ہماری دلیل یہ ہے کہ جانور کو کسی صحیح مقصد کیلئے ذبح کیا جاسکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا صحیح مقصد ہو سکتا ہے کہ دشمن کی شان و شوکت اور مالی حیثیت کمزور کرنے کیلئے ان کو ذبح کیا جائے، اور پھر ان مویشیوں کو آگ لگا دی جائے تاکہ وہ کفار کے کسی کام نہ آسکیں، بالکل ویسا ہی جس طرح کہ عمارتوں کو برباد کر کے دشمن کو زک پہنچائی جاتی ہے۔ ہاں البتہ ذبح کرنے سے پہلے آگ لگانے کی اجازت نہیں، اسی طرح قطع و برید بھی جائز نہیں ہے کہ اسے مثلہ کہا جاتا ہے، اسی طرح دشمن کے اسلحہ کو بھی آگ لگا دی جائے اور جو چیز آگ میں نہ جلتی ہو تو اسے ایسی جگہ دفن کر دیں جہاں دشمن



کی پہنچ آسان نہ ہو، تاکہ دشمن ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔

تشریح..... متن ہدایہ کی مذکورہ عبارت کے مطابق کفر کی قوت کو توڑنے کیلئے ان تمام اسباب و لوازمات سے اس کو محروم رکھا جائے گا۔ چنانچہ جہاد و قتال سے فراغت کے بعد دارالاسلام کی طرف واپس جاتے وقت جانوروں کو ذبح کر کے جلانا اسلحہ کو محفوظ مقام پر دفن کرنا ضروری امر ٹھہرا۔ بشرطیکہ ان (جانوروں، اسلحہ وغیرہ) کی نقل مکانی ناممکن ہو۔ تاکہ کفر کی قوت و شوکت پارہ پارہ ہو جائے۔ لیکن امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ جانوروں کو زندہ چھوڑ دے۔ کیونکہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کھانے کی ضرورت کے ماسواہ بکری کو ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لہذا کھانے کی غرض سے ذبح کرنا جائز ہے ورنہ نہیں لیکن بقول صاحب عین الہدایہ یہ حدیث کہیں منقول نہیں ہے۔ بلکہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے شام کی طرف لشکر بھیجتے وقت یزید بن ابی سفیان کو دس باتوں کی وصیت کی تھی ان میں سے ایک وصیت جانوروں کو ذبح کرنے سے ممانعت سے متعلق بھی تھی۔ یعنی کھانے کے علاوہ بکری یا گائے کو ہلاک نہ کریں۔ (رواہ مالک، ابن ابی شیبہ)

امام شافعیؒ کا استدلال اگرچہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث سے متحقق نہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیقؓ کے خلیفہ راشد ہونے کے حوالے سے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دوسری حدیث

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ

تم پر میری اور خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے

سے امام شافعیؒ کا استدلال صحیح ثابت ہوتا ہے۔ مگر حضرت ابو بکر صدیقؓ کی وصیت جانوروں کو زندہ جلانے کی صورت میں ہلاکت پر محمول ہوگی یا انہیں (جانوروں کو) منتقل کرنے کی سہولت نہ ہونے پر مبنی ہوگی۔ اگر جانوروں کی ہلاکت کے حوالے سے غرض صحیح موجود نہ ہو تو پھر امام شافعیؒ کا قول معتبر متصور ہوگا۔ اگر غرض صحیح پائی جائے تو احناف کا موقف مبنی برحق متصور ہوگا۔ اور جانوروں کو ذبح کر کے جلانے اور اسلحہ کو محفوظ مقام پر دفن کرنے سے کفر کی طاقت ختم ہوتی ہے تو اس سے بڑی غرض صحیح اور کیا ہو۔ پس ثابت ہوا کہ احناف کی رائے رائج اور امام شافعیؒ کا موقف مرجوح ہوگا۔

### مال غنیمت کی تقسیم دارالحرب میں یا دارالاسلام میں؟

وَلَا يُقَسَّمُ غَنِيمَةٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ حَتَّى يَخْرُجَ جَهَا لِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَأَصْلُهُ أَنَّ الْمَلِكَ لِلْغَنَائِمِ لَا يَثْبُتُ قَبْلَ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ يَثْبُتُ وَيُسْتَنْبَى عَلَى هَذَا الْأَصْلِ مَعْدَّةٌ مِّنَ الْمَسَائِلِ ذَكَرْنَا هَافِي كِفَايَةِ الْمُتَنَهِّي لَهُ أَنَّ سَبَبَ الْمَلِكِ الْإِسْتِيْلَاءُ إِذَا وَرَدَ عَلَى مَالٍ مُّبَاحٍ كَمَا فِي الصِّيُودِ وَلَا مَعْنَى لِلْإِسْتِيْلَاءِ سِوَى اثْبَاتِ الْيَدِ وَقَدْ تَحَقَّقَ وَلَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْخِلَافُ ثَابِتٌ فِيهِ وَالْقِسْمَةُ بَيْعٌ مَعْنَى فَتَدْخُلُ تَحْتَهُ وَلِأَنَّ الْإِسْتِيْلَاءَ إِثْبَاتُ الْيَدِ الْحَافِظَةِ وَالنَّاقِلَةِ وَالثَّانِي مُنْعَدِمٌ لِقُدْرَتِهِمْ عَلَى الْإِسْتِنْفَادِ وَقُجُودُهُ ظَاهِرٌ ثُمَّ قِيلَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ تَرْتُبُ الْأَحْكَامِ عَلَى الْقِسْمَةِ إِذَا قَسَمَ الْإِمَامُ لَا عَنِ اجْتِهَادٍ لِأَنَّ حُكْمَ الْمَلِكِ لَا يَثْبُتُ بِدُونِهِ وَقِيلَ الْكَرَاهَةُ وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهِهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ قَانَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ الْقِسْمَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ إِلَّا فَضْلٌ أَنْ يُقَسَّمُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَوَجْهُ الْكَرَاهَةِ أَنَّ دَلِيلَ الْبُطْلَانِ رَاجِعٌ إِلَّا أَنَّهُ تَقَاعَدٌ عَنْ سَبَبِ

## الْجَوَازِ فَلَا يَتَّقَا عَدُوَّ اِيْرَاثِ الْكُورَاهَةِ

ترجمہ..... اور امام مال غنیمت کو دارالحرب میں رہتے ہوئے تقسیم نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ وہاں سے دارالاسلام میں لے آئے اور امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ دارالحرب ہی میں رہتے ہوئے بھی تقسیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس مسئلہ کی اصل یہ ہے کہ دارالاسلام میں لا کر محفوظ کر لینے سے پہلے تک ہمارے نزدیک غنیمت میں غازیوں کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس اصل کی بناء پر بہت سے مسائل نکلتے ہیں جنہیں ہم نے کفایۃ المنتہی میں ذکر کیا ہے ان میں سے چند مسائل یہ ہیں۔

۱: اگر غازی نے غنیمت کی کسی باندی سے وطی کی اور اس سے بچہ بھی پیدا ہو گیا اور اس نے اس بچہ پر نسب کا دعویٰ کر دیا تو نسب ثابت ہو گا اور یہ باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے نزدیک نہ نسب ثابت ہو گا اور نہ وہ ام ولد ہوگی۔

۲: غنیمت کی کسی چیز کو فروخت کرنا (ہمارے نزدیک جائز نہ ہوگا)۔

۳: اگر کوئی غازی دارالحرب میں مر گیا تو امام شافعیؒ کے نزدیک اس کے حصہ میں بعد میں جو کچھ آئے گا وہ بطور میراث تقسیم ہوگا لیکن ہمارے نزدیک نہیں ہوگا۔

۴: اگر اس غنیمت میں سے کچھ مال وہ برباد کر دے تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔ لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک وہ ضامن ہوگا۔

۵: تقسیم غنیمت سے پہلے جو لشکر بھی غازیوں کی مدد کو پہنچے گا ہمارے نزدیک وہ بھی مال غنیمت میں شریک ہوگا۔ اور امام شافعیؒ کے نزدیک شریک نہ ہوگا۔

امام شافعیؒ کی دلیل یہ ہے کہ جب مال مباح پر استیلاء (قبضہ اور اختیار) واقع ہو تو ایس کے مالک ہو جانے کا سبب ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے شکار کو جال میں پھنسا لیا یا کسی طرح اس پر قابو پا لیا تو وہ شکاری کی ملکیت میں آ گیا۔ استیلاء کے سوا اس کے کچھ معنی نہیں ہیں کہ اس پر قبضہ ثابت کر دے اور دارالحرب کے مال غنیمت میں بھی یہی بات ثابت ہو گئی اس لئے وہ مال غازیوں کی ملک میں آ گیا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دارالحرب میں مال غنیمت کے بیچنے کو منع فرمایا ہے (یہ حدیث غریب ہے نہیں ملی ہے) اور دارالحرب میں مال غنیمت کے بیچنے میں بھی اختلاف ہے۔ جبکہ تقسیم کرنے میں ایک قسم کے بیچنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اسی لئے بیع کی طرح اس کی تقسیم سے بھی ممانعت ہو جائے گی۔ اور اس دلیل سے بھی کہ استیلاء اور غلبہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اس چیز پر قبضہ ہو جائے اور اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہے لے جاسکے۔ حالانکہ دارالحرب میں رہتے ہوئے مال غنیمت کو منتقل کرنے کا قبضہ نہیں ہوا ہے کیونکہ اس وقت تک کافروں کے لئے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا مال ان غازیوں سے تھوڑے سے مقابلہ سے واپس لے لیں اور یہ بات ظاہر اور واقع ہے (کیونکہ اس وقت تک مسلمان ان کے ملک میں ہیں اس لئے اس وقت تک بظاہر کافروں کو ہی قوت ہوگی)۔ پھر اس جگہ یہ کہا گیا ہے کہ یہاں فقہاء کا اختلاف اس بات میں ہے کہ جب امام نے اجتہاد کے بغیر مجاہدین میں مال تقسیم کر دیا تو اس تقسیم یا بٹوارے کے احکام اس پر نافذ ہوں گے یا نہیں۔ کیونکہ ملکیت کے بغیر ملک کے احکام ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ اختلاف کراہت کے بارے میں



ہے۔ چنانچہ امام محمدؒ کے نزدیک اس میں کراہت تنزیہی ہے۔ چنانچہ امام محمدؒ نے سیر کبیر میں کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ابو یوسفؒ کے قول کے مطابق دار الحرب میں مال غنیمت کی تقسیم جائز نہیں ہے۔ اور امام محمدؒ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ دارالاسلام میں واپس آ کر تقسیم کرے۔ اس کراہت کی وجہ یہ ہے کہ وہاں رہتے ہوئے تقسیم کا باطل ہونا ہی راجح قول ہے۔ مگر یہ دلیل جائز نہ ہونے پر مؤثر نہیں ہے اس لئے کہ کم کراہت تو ضرور پیدا ہوگی۔

میدان جنگ میں براہ راست قتال کرنے والا اور مدد کرنے والا برابر ہیں

قَالَ وَالرِّدَاءُ وَالْمُقَاتِلُ فِي الْعُسْكَرِ سَوَاءٌ لَا سَتَوَائِهِمْ فِي السَّبَبِ وَهُوَ الْمُجَاوِزَةُ أَوْ شُهُودُ الْوُقُوعَةِ عَلَى مَا عُرِفَ وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ لِمَرَضٍ أَوْ لَغَيْرِهِ لِمَا ذُكِّرْنَا

ترجمہ..... اور مجاہدین کے لشکر میں براہ راست قتال کرنے والے ان کے مددگار حکم کے اعتبار سے سب برابر ہوں گے۔ کیونکہ سب کے اعتبار سے دونوں جماعتیں برابر ہیں۔ اور اس کا سبب ہمارے نزدیک دارالاسلام کی سرحد سے دوسری جانب چلے جانا ہے۔ مگر امام شافعیؒ کے نزدیک میدان جنگ میں حاضر ہونا سبب ہے۔ جیسا کہ اپنے موقع پر پہلے بتایا جا چکا ہے۔ (بہر حال ان آئمہ میں اس پر سب کا اتفاق ہے کہ غنیمت کے حصہ میں بالاتفاق لڑنے والوں کے برابر ہی ان کے مددگاروں کا بھی حصہ ہوگا) اسی طرح اگر کوئی غازی کسی مجبوری مثلاً بیماری وغیرہ کے قتال میں عملی حصہ نہ لے سکا، تو وہ بھی غنیمت کے حصہ میں برابر کا حصہ دار ہوگا کیونکہ سبب میں سب برابر ہو رہے ہیں۔

تشریح..... قَالَ وَالرِّدَاءُ..... الخ ترجمہ سے مطلب واضح ہے۔ (الرداء بکسر الراء وسكون الدال المہملتین وفی آخرہ ہمزۃ مد محاورہ میں بولا جاتا ہے۔ رداہ رداء، اس کی مدد کی)۔ (انوار الحق قاسمی)

مال غنیمت دارالاسلام لانے سے پہلے مکہ پہنچ گئی وہ بھی مال غنیمت میں شریک ہوں گے

وَإِذَا لَحِقَهُمُ الْمَدَدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجُوا الْغَنِيمَةَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ شَارَكُوهُمْ فِيهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ وَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى مَا مَهَّدْنَا مِنَ الْأَصْلِ وَإِنَّمَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَشَارَكَةِ عِنْدَنَا بِإِلَّا حَرَّازٍ أَوْ بِقِسْمَةِ الْإِمَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ بَيْعِهِ الْمَغَانِمَ فِيهَا لِأَنَّ بَكُلٍّ وَاحِدٍ مِّنْهَا يَتِمُّ الْمِلْكُ فَيَنْقَطِعُ حَقُّ شَرِكَةِ الْمَدَدِ

ترجمہ..... اور اگر غازیوں نے مال غنیمت کو ابھی تک دارالاسلام میں نہ پہنچایا ہو کہ اس موقع پر ان غازیوں کے کچھ مددگار بھی ان سے آ کر مل گئے تو یہ مددگار بھی مال غنیمت پانے میں ان کے شریک ہوں گے۔ اس میں امام شافعیؒ کا اختلاف ہے۔ اگرچہ جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد ہو۔ یہ حکم اس قاعدہ اور اصل پر مبنی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے نزدیک شرکت کا حق اس وقت ختم ہو جائے گا کہ غازیوں نے غنیمت کا مال دار الحرب سے نکال کر دارالاسلام میں پہنچا کر محفوظ کر لیا ہو۔ یا امام نے خود غنیمت تقسیم کر دی یا فروخت کر دی ہو کیونکہ ان تینوں باتوں سے ہر بات سے غازیوں کی ملکیت پوری ہو جاتی ہے اور اس سے پہلے وہ مال مشترک بھی رہتا ہے اسی لئے مددگاروں کے شریک غنیمت ہونے کا حق ختم ہو جائے گا اور قدوریؒ نے کہا ہے کہ غنیمت میں بازاری لوگوں کا کچھ بھی حق نہیں ہوتا ہے۔



### لشکر کے بازار والوں کیلئے مال غنیمت میں حصہ نہیں

قَالَ وَلَا حَقَّ لِأَهْلِ سُوقِ الْعَسْكَرِ فِي الْغَنِيمَةِ إِلَّا أَنْ يَقَاتِلُوا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ يُسْهِمُ لَهُمْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ لَوْ قَعَّةٌ وَلِأَنَّهُ وَجَدَ الْجِهَادَ مَعْنَى بَتَكْثِيرِ السَّوَادِ وَلَنَا أَنَّهُ لَمْ يَوْجِدِ الْمُجَاوِزَةَ عَلَى قَصْدِ الْقِتَالِ فَانْعَدَمَ السَّبَبُ الظَّاهِرُ فَيُعْتَبَرُ السَّبَبُ الْحَقِيقِيُّ وَهُوَ الْقِتَالُ

ترجمہ..... لشکر کے ساتھ جو بازار ہوان کے بازار یوں کے واسطے غنیمت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ البتہ اس صورت میں ان کا بھی حصہ ہوگا کہ انہوں نے بھی عملی طور سے قتال میں شرکت کی ہو۔ (امام مالک و احمد اور ایک قول امام شافعی رحمہم اللہ علیہم کا بھی یہی ہے) اور امام شافعی نے دوسرے قول میں فرمایا ہے کہ ان کا بھی حصہ ہوگا کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مال غنیمت اس شخص کے لئے ہے جو بوقت قتال حاضر ہو۔ (حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو ابن ابی شیبہ اور الطبرانی نے روایت کیا ہے۔ اور بیہقی نے کہا ہے کہ یہی صحیح ہے۔) اور اس وجہ سے بھی کہ ایک حد تک بازار یوں کی طرف سے جہاد کے مقصد میں شرکت پائی گئی ہے کیونکہ انہوں نے ان مجاہدین کے لشکر اور اس کی تعداد کو بڑھا کر دکھایا ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ قتال کی غرض سے اپنی سرحد سے ان کا نکلنا نہیں پایا گیا ہے۔ تو ظاہر سی سبب نہیں پایا گیا۔ اس لئے سبب حقیقی یعنی قتال کا اعتبار ہوگا۔

### مال غنیمت کا استحقاق مجاہد کی پیدل یا سواری کی حالت پر ہے

فَيُفِيدُ الْإِسْتِحْقَاقَ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ فَارِسًا أَوْ رَاجِلًا عِنْدَ الْقِتَالِ وَمَا رَوَاهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عُمَرَ أَوْ تَأْوِيلُهُ أَنْ يَشْهَدَهَا عَلَى قَصْدِ الْقِتَالِ

ترجمہ..... اب اگر قتال میں شریک ہو گیا تو قتال کے وقت اس کی جو حالت ہوگی مثلاً اگر پیدل ہو تو اس کے اعتبار سے حصہ پائے گا اور اگر سوار ہو تو ایک سوار کا جو حصہ ہوتا ہے وہی اسے بھی ملے گا۔ اور امام شافعی نے جو بھی حدیث روایت کی ہے وہ حضرت عمر کا قول ہے یعنی امام شافعی کے لئے حجت نہیں ہے۔ یا اس کی تاویل یہ ہے کہ قتال کی نیت سے میدان جنگ میں حاضر ہوا ہو۔

### مال غنیمت لانے کیلئے امام کے پاس سوار یاں نہ ہوں تو مجاہدین کو سارا مال بطور امانت دیدے

وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِلْإِمَامِ حَمُولَةٌ تَحْمِلُ عَلَيْهَا الْغَنَائِمَ قَسَمَهَا بَيْنَ الْغَنَائِمِينَ قِسْمَةً إِذَا جِئَ لِيَحْمِلُوهَا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ يَرْجِعُهَا مِنْهُمْ فَيُقَسِّمُهَا قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ هَكَذَا ذَكَرَ فِي الْمُخْتَصَرِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ رِضَاهُمْ وَهُوَ رَأْيُ السَّيَرِ الْكَبِيرِ وَالْجُمْلَةِ فِي هَذَا أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا وَجَدَ فِي الْمَغْنَمِ حَمُولَةً يَحْمِلُ الْغَنَائِمَ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْحَمُولَةَ وَالْمَحْمُولَ مَالُهُمْ وَكَذَا إِذَا كَانَ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَضْلٌ حَمُولَةٌ لِأَنَّهُ مَالُ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ كَانَ لِلْغَنَائِمِينَ أَوْ لِبَعْضِهِمْ لَا يُجْبَرُ هُمْ فِي رَأْيِ السَّيَرِ الصَّغِيرِ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءٌ إِجَارَةٌ وَصَارَ كَمَا إِذَا نَفَقَتْ دَابَّةٌ فِي مَفَازَةٍ وَمَعَ رَفِيقِهِ فَضْلُ حَمُولَةٍ وَيُجْبَرُ هُمْ فِي رَأْيِ السَّيَرِ الْكَبِيرِ لِأَنَّهُ دَفْعُ الضَّرَرِ الْعَامِ بِتَحْمِيلِ ضَرَرٍ خَاصٍّ

ترجمہ..... اور اگر دار الحرب میں امام کے پاس مال غنیمت کو دارالاسلام لانے کے لئے اتنی سوار یاں نہ ہوں جن پر مال غنیمت کو لادے تو ان



مجاہدین کو وہ سارا مال بطور امانت دیدے کہ وہ اسے دارالاسلام میں لے آئیں۔ اور یہاں آ جانے کے بعد سبھوں سے واپس لے کر حصہ رسد کے طور پر مال تقسیم کر کے ہر ایک کو اس کا حصہ دیدے عبد ضعیف (یعنی مصنف) نے کہا ہے کہ ایسا ہی مختصر قدوری میں مذکور ہے۔ اس میں غازیوں کی رضا مندی کی شرط نہیں لگائی ہے۔ اور سیر کبیر کی بھی یہی روایت ہے اس مسئلہ کا ماحصل یہ ہوا کہ اگر امام کے پاس میدان جنگ میں اتنی سواریاں ہوں جن پر وہ مال غنیمت لا کر دارالاسلام لا سکتا ہو تو ان ہی پر لا کر دارالاسلام میں لے آئے۔ کیونکہ وہ سواریاں اور پورا مال سب کا سب ان غازیوں کا ہی ہے۔ اسی طرح اگر بیت المال میں زائد سواریاں موجود ہوں تو بھی ایسا ہی کرے۔ کیونکہ وہ سواریاں بھی مسلمانوں کی ہی ہیں۔ اور اگر سواریاں تمام غازیوں کی یا کسی ایک کی ذاتی ملکیت کی ہوں تو سیر صغیر کی روایت کے مطابق ان لوگوں پر جبر نہیں کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہ ابتداءً گرجا رہا ہے اور اس کی مثال ہو جائے گی جیسے جنگل میں کسی کا جانور مر گیا اور اس کے ساتھی کے پاس اس کی ضرورت سے زائد جانور موجود ہو تو اس کو کرایہ کے لئے مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے۔

### تقسیم سے پہلے مال غنیمت بیچنا جائز نہیں

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْغَنَائِمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ قَبْلَهَا وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ وَقَدْ بَيَّنَّا الْأَصْلَ وَمَنْ مَاتَ مِنَ الْغَانِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ اخْرَاجِهَا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَنَصِيئُهُ لَوَرَثَتِهِ لِأَنَّ الْأَرْضَ يَجْرِي فِي الْمَلِكِ وَلَا مِلْكَ قَبْلَ الْإِخْرَازِ وَإِنَّمَا الْمَلِكُ بَعْدَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْهَزِيمَةِ يُورَثُ نَصِيئُهُ لِقِيَامِ الْمَلِكِ فِيهِ عِنْدَهُ وَقَدْ بَيَّنَّا

ترجمہ..... اور دارالحرب میں رہتے ہوئے غنیمت کے مال کو تقسیم سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے کیونکہ تقسیم سے پہلے اس کا کوئی شخص مالک نہیں ہوتا ہے۔ اس مسئلہ میں امام شافعی کا اختلاف ہے۔ ہم نے پہلے ہی اختلاف کی اصل اور بناء کو بتا دیا ہے۔ اور اگر دارالحرب میں رہتے ہوئے کوئی غازی مر گیا تو غنیمت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا اور اگر مال غنیمت دارالاسلام میں لا کر محفوظ ہو جانے کے بعد کوئی غازی مر گیا تو اس کا حصہ اس کے وارثوں کی میراث ہے کیونکہ میراث تو ملکیت میں جاری ہوتی ہے اور غنیمت کو محفوظ کر لینے سے پہلے اس پر ملکیت جاری نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ محفوظ کر لینے کے بعد ہی ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ اور امام شافعی نے کہا ہے کہ کافروں کی شکست مکمل ہو جانے کے بعد ہی غازی مرے اس کا حصہ میراث ہوگا۔ کیونکہ امام شافعی کے نزدیک اس میں غازی کی ملکیت ثابت ہوگئی۔ اس اصل کو ہم اوپر کی بحث میں ذکر کر چکے ہیں۔

دارالحرب سے پائے ہوئے چارہ سے اپنے جانوروں کو کھلائیں اور کھانے پینے

کی چیزیں خود بھی کھائیں

قَالَ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْلِفَ الْعَسْكَرُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَيَأْكُلُوا مِمَّا وَجَدُوهُ مِنَ الطَّعَامِ قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ أُرْسِلَ وَلَمْ يُقَيَّدَ بِالْحَاجَةِ وَقَدْ شَرَطَهَا فِي رَوَايَةٍ وَلَمْ يَشْتَرِطَهَا فِي الْأُخْرَى وَجْهُ الْأُولَى أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْغَانِمِينَ فَلَا يَبَاحُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ إِلَّا لِلْحَاجَةِ كَمَا فِي الثَّيَابِ وَالِدَوَابِّ وَجْهُ الْأُخْرَى قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي طَعَامِ خَيْبَرِ كُلُّوْهَا وَاعْلِفُوْهَا وَلَا تَحْمِلُوْهَا وَلَآنَ الْحُكْمُ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِ الْحَاجَةِ وَهُوَ كَوْنُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّ الْغَازِيَّ



لَا يَسْتَصْحِبُ قُوَّتَ نَفْسِهِ وَعَلَفَ ظَهْرَهُ مُدَّةَ مَقَامِهِ فِيهَا وَالْمِيرَةُ مُنْقَطِعَةٌ فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجَةِ بِخِلَافِ السِّلَاحِ لِأَنَّهُ يَسْتَصْحِبُهُ فَانْعَدَمَ دَلِيلُ الْحَاجَةِ وَقَدْ تَمَسَّ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ فَيُعْتَبَرُ حَقِيقَتُهَا فَيُسْتَعْمَلُ ثُمَّ يَرُدُّهُ فِي الْمَغْنَمِ إِذَا اسْتُغْنِيَ عَنْهُ وَالذَّابَّةُ مِثْلُ السِّلَاحِ وَالطَّعَامُ كَالْخُبْزِ وَاللَّحْمُ وَمَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ كَالسَّمَنِ وَالزَّيْتِ

ترجمہ..... قدوریؒ نے کہا ہے کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دارالحرب میں رہتے ہوئے مجاہدین وہاں سے حاصل کئے ہوئے چارہ سے اپنے جانوروں کو بھی کھلائیں اور ان سے کھانے پینے کی چیزیں جو وہ پائیں ان سے خود بھی کھائیں۔ اس عبدضعیف (مصنف) نے کہا ہے کہ قدوریؒ نے اپنی عبارت میں یہ قید نہیں لگائی ہے کہ بوقت ضرورت ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن سیر صغیر کی روایت میں ہے کہ بشرط ضرورت ایسا جائز ہے اور سیر کبیر میں ضرورت کی شرط نہیں لگائی ہے۔ پہلی روایت کی وجہ یہ ہے کہ یہ مال غنیمت سارے مجاہدین کا مال مشترک ہے۔ اس لئے کسی خاص ضرورت کے بغیر کسی کا اس سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جیسے کہ کپڑوں اور جانوروں کی ضرورت میں ہے اور دوسری روایت کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خیبر کی کھانے کی چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم خود بھی اسے کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی اس سے کھاؤ لیکن اسے لاؤ کر کہیں نہ لے جاؤ۔ اور اس دلیل سے بھی کہ حکم کا مدار حاجت کی دلیل پر ہے۔ کیونکہ غازی اپنے ساتھ وہاں غیر معینہ مدت تک رہنے کے لئے نہ اپنا کھانا پینا ساتھ لے جاسکتے ہیں اور نہ ہی اپنے جانوروں کے لئے چارہ اور گھاس لے جاسکتے ہیں۔ نیز دوسرے راستوں سے وہاں تک باضابطہ غلہ منگوانے یا پہنچانے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے پس اس مجبوری کی وجہ سے تمام چیزوں میں جو اصل اباحت تھی وہ باقی رکھی گئی۔ بخلاف ہتھیاروں کے کیونکہ غازی اپنے ساتھ ہتھیار لے جاتے ہیں اس لئے مجبوری کی جو دلیل تھی وہ ختم ہوگئی۔ اور کبھی واقعتاً ہتھیاروں کی بھی وہاں مزید ضرورت ہو جاتی ہے۔ اس لئے حقیقی ضرورت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس لئے ہتھیار کو استعمال میں لانے کی اجازت ہوتی ہے اور وہ ہتھیاروں کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب ان کی ضرورت ختم ہو جائے تو پھر انہیں مال غنیمت میں جمع کر دینا ہوگا۔ اور جانور کا حکم ہتھیاروں کے ہی جیسا ہے۔ اس جگہ طعام سے مراد روٹی، گھی، تیل اور گوشت وغیرہ ہے۔

تشریح..... غازیان اسلام کو دارالحرب کے مال مباح سے مفاد اٹھانے کی عام اجازت ہے اگر یہ اجازت نہ دی جائے۔ تو پھر انہیں (غازیان اسلام کو) دوہری مصیبت (یعنی ضروریاتِ اصلیہ سے محرومی اور دارالحرب کے مقیم (کفار) سے نبرد آزمائی) کا سامنا ہوگا۔ چنانچہ اس نوعیت کا کوئی بھی امر محال ہوگا۔ دریں صورت مال مباح پر ہر مجاہد اسلام کا حق اسکے دوسرے مجاہد ساتھی کے حق میں نہ صرف ساقط ہو جائے گا۔ بلکہ از روئے شریعت کا عدم قرار پائے گا۔ پس مال مباح بوقت ضرورت اس حاجت کے باعث مباحاتِ اصلیہ میں شامل ہو جائے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ غازیان اسلام (اشیائے خوردنی اور جانوروں کا چارہ) ضرورتاً و حاجتاً استعمال و انتفاع (مفاد اٹھانا) کے مجاز ہیں۔ بخلاف اسلحہ کے کیونکہ قتال کیلئے دارالحرب کی طرف روانگی کے وقت ہر مجاہد ہمہ قسم کے اسلحہ سے لیس ہوتا ہے اور جہاد و قتال کی مکمل تیاری کی بنا پر اپنا اسلحہ دارالحرب میں خود اپنے ساتھ لاتا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ (غازی اسلام) اسلحہ کے حوالے سے خاص حاجت مند نہیں ہوتا۔ اسلئے دوران قتال یا بعد از قتال کفار سے حاصل شدہ اسلحہ مال غنیمت کی باقاعدہ تقسیم یا فروخت یا دارالاسلام میں نقل مکانی



سے پہلے دارالحرب میں کسی بھی مجاہد کو اس (ہتھیار) سے نفع اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے استعمال کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ کیونکہ غلبہ حق اور تحفظ جان کیلئے دارالاسلام سے دارالحرب تک اسلحہ اٹھانے یا دوران سفر ہتھیاروں (اسلحہ) کو ساتھ رکھنے یا دارالحرب میں کسی نتیجے تک پہنچنے کیلئے اسلحہ ہمیشہ مجاہدین اسلام کے پاس ہوتا ہے۔ اس لئے اسلحہ اٹھانے کی تکلیف گوارا ہوتی ہے۔ لہذا اسلحہ کی ضرورت بھی نہ رہے گی۔ چنانچہ کفار سے چھینا ہوا اسلحہ مال مباح کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس لئے اس کے استعمال کا جواز بھی نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی مجاہد کا ہتھیار بوقت قتال گم ہو گیا یا دوران قتال ناکارہ ہو گیا تو اس صورت میں وہ (نہتا مجاہد) دارالحرب میں مال غنیمت کی تقسیم یا فروخت یا دارالاسلام میں نقل مکانی سے قبل استعمال کرنے کا مجاز متصور ہوگا۔ یہی حکم بوقت قتال جانور کا ہے۔ البتہ یہ قید لازماً ہوگی کہ اسلحہ یا جانور جب تک قتال میں کارآمد ہو تب تک مستحق مجاہد اسے استعمال کرنے کا مجاز ہے۔ بعد ازاں (قتال و جہاد سے فراغت کے بعد) دارالحرب میں کفار سے حاصل شدہ اسلحہ یا جانور واپس کرنے کا پابند ہوگا۔

### دارالحرب کی لکڑیوں کو استعمال میں لانے کا حکم

قَالَ وَيَسْتَعْمِلُوا الْحَطَبَ وَفِي بَعْضِ النَّسَخِ الطِّيبُ وَيُدَّهِنُوا بِالذَّهْنِ وَيُوقِحُوا بِهِ الدَّابَّةَ لِمَسَاسِ الْحَاجَةِ إِلَى جَمِيعِ ذَلِكَ

ترجمہ..... اور مجاہدین دارالحرب سے حاصل کی ہوئی لکڑیوں کو جلانے کے کام میں لاسکتے ہیں۔ اور بعض نسخوں میں (بجائے حطب کے) طیب ہے یعنی خوشبو اور عطر وغیرہ کو اپنے کام میں لاسکتے ہیں۔ اسی طرح ان کو اختیار ہے کہ چاہیں تو وہ تیل کو استعمال میں لاسکتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کے پیروں میں لگا سکتے ہیں۔ کیونکہ ان مجاہدین کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی رہتی ہے۔

### تقسیم سے پہلے جو بھی ہتھیار ملیں ان کو لے کر قتال کریں

وَيُقَاتِلُوا بِمَا يَجِدُونَهُ مِنَ السِّلَاحِ كُلِّ ذَلِكَ بِلَا قِسْمَةٍ وَتَأْوِيلُهُ إِذَا احتَاجَ إِلَيْهِ بَأْنٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ سِلَاحٌ وَقَدْ بَيَّنَّا

ترجمہ..... اور جو بھی ہتھیار وہاں پائیں ان کے ذریعہ ان کفار سے قتال کر سکتے ہیں۔ اس وقت یہ چیزیں تقسیم کے بغیر بھی مباح ہوں گی۔ مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان غازیوں کو واقعتاً ان ہتھیاروں کی ضرورت بھی ہو۔ مثلاً ان کے پاس ہتھیار بالکل نہ ہوں یعنی خالی ہاتھ ہوں۔ یہ مسئلہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

### اسلحہ بیچنے اور جمع کرنے کا حکم

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعُوا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا وَلَا يَتَمَوَّلُونَهُ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَتَرْتَّبُ عَلَى الْمَلِكِ وَلَا مِلْكَ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَإِنَّمَا هُوَ بَاحَةٌ وَصَارَ كَالْمُبَاحِ لَهُ الطَّعَامُ وَقَوْلُهُ وَلَا يَتَمَوَّلُونَهُ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُمْ لَا يَبِيعُونَهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعُرُوضِ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إِلَى ذَلِكَ فَإِنْ بَاعَهُ أَحَدُهُمْ رَدَّ الثَّمَنَ إِلَى الْغَنِيمَةِ لِأَنَّهُ بَدَلُ عَيْنٍ كَانَتْ لِلْجَمَاعَةِ وَأَمَّا الثِّيَابُ وَالْمَتَاعُ فَيُكْرَهُ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لِلِاشْتِرَاكِ إِلَّا أَنَّهُ يُقَسِّمُ الْإِمَامُ بَيْنَهُمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ إِذَا احتَاجُوا إِلَى الثِّيَابِ وَالذَّوَابِ وَالْمَتَاعِ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ يُسْتَبَاحُ لِلضَّرُورَةِ فَالْمَكْرُوهُ أَوْلَى وَهَذَا لِأَنَّ حَقَّ الْمَدَدِ



مُحْتَمَلٌ وَحَاجَةٌ هُوَ لَا مُتَيَقَّنٌ بِهَا فَكَانَ أَوْلَى بِالرَّعَايَةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِسْمَةَ فِي السِّلَاحِ وَلَا فَرْقَ فِي الْحَقِيقَةِ فَإِنَّهُ إِذَا اُخْتِاجَ وَاحِدٌ يَبَاحُ لَهُ إِلَّا نَتَفَاعُ فِي الْفَضْلَيْنِ فَإِنْ اُخْتِاجَ الْكُلِّ يُقَسَّمُ فِي الْفَضْلَيْنِ بِخِلَافِ مَا إِذَا اُخْتِاجُوا إِلَى السَّبَبِ حَيْثُ لَا يُقَسَّمُ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ مِنْ فَضُولِ الْحَوَائِجِ

ترجمہ..... اور ان کے لئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی سونا یا چاندی کے بدلہ بیچیں اور نہ ہی وہ اپنے پاس ایسی چیز کو جمع کر کے رکھ لیں۔ کیونکہ ایسی ہی چیز کی بیع ہی درست اور جائز ہوتی ہے جس کا بیچنے والا خود اس کا مالک ہو (یا اس کا وکیل ہو) جبکہ ایسے مال غنیمت کو مکمل طور پر اپنے قابو میں لائے بغیر اس پر ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت استعمال کی ان کو جو اجازت دی جا رہی ہے وہ اباحت کے طور پر ہے۔ اس لئے یہ مسئلہ ایسا ہو گیا جیسے کسی کو کھانا کھانے کی اجازت دیدی جائے گئی ہو اور اس کیلئے مباح کر دیا گیا ہو۔ اور قدوریؒ نے جو فرمایا ہے کہ اور نہ اپنے واسطے ان کو مالی ذخیرہ کریں۔ اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ سونے و چاندی کی طرح دوسرے اسباب کے عوض بھی وہ فروخت نہیں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اس ممانعت کے باوجود اگرچہ کسی نے فروخت کر دیا تو اس کی قیمت اس شخص سے واپس لے کر مال غنیمت میں جمع کر دیا جائے کیونکہ یہ ایسے متعین مال کا عوض ہے جس میں پوری جماعت مجاہدین کا حق ہے اور کپڑے اور دوسرے سامان سے ضرورت کے بغیر نفع اٹھانا مکروہ ہے۔ کیونکہ اس میں بھی تمام غازیوں کا مشترک حق ہے اور اگر تمام غازیوں کو کپڑے جانور اور دوسرے سامانوں کی ضرورت ہونے لگے تو امام کو چاہئے کہ دارالحرب میں رہتے ہوئے یہ چیزیں ان غازیوں کے درمیان تقسیم کر دے کیونکہ کبھی مجبوری ہو جانے کی صورت میں جب حرام چیز بھی مباح ہو جاتی ہے تو مکروہ چیز بدرجہ اولیٰ مباح ہو جائے گی کیونکہ ایسی ضرورت کی چیزوں کو دارالاسلام سے منگوا کر ضرورت پوری کرنا ایک احتمالی بات ہے۔ جبکہ جتنے غازی دارالحرب میں موجود ہیں ان کے لئے ضرورت کا پایا جانا یقینی ہے۔ اس لئے ان ہی کی رعایت اولیٰ ہے۔ امام محمدؒ نے ہتھیاروں میں تقسیم کا ذکر نہیں کیا ہے لیکن حقیقت میں کپڑے اور ہتھیاروں میں ضرورت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اسی لئے اگر کسی کو ان دونوں چیزوں (کپڑے اور ہتھیار) کی ضرورت ہو جائے تو اس کے لئے دونوں قسم کی چیزوں سے اپنا کام پورا کر لینا مباح ہے۔ اور اگر صرف ایک دو غازیوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہ ہو بلکہ تقریباً سارے غازیوں کو ضرورت ہونے لگی ہو تو امام کو چاہئے کہ خود ہی کپڑے اور ہتھیار ان لوگوں میں تقسیم کر دے۔ اس کے برخلاف پکڑی ہوئی عورتوں کی ضرورت ہوئی ہو امام ان کی تقسیم نہیں کرے گا کیونکہ ان عورتوں کی ضرورت اصلی نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ ضرورت زائدہ میں عورتوں کا شمار ہوگا۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کے لئے کھانے جلانے کے سامان، تیل و کپڑے اور ہتھیاروں کی ضرورت اصلی ہوتی ہے۔

### دارالحرب میں کوئی کافر اسلام قبول کر لے اس کا حکم

قَالَ وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ مَعْنَاهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَخْرَزَ بِإِسْلَامِهِ نَفْسَهُ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يُنَافِي ابْتِدَاءَ الْإِسْتِرْقَاقِ وَأَوْلَادَهُ الصِّغَارَ لِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا وَكُلُّ مَالٍ هُوَ فِي يَدِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مَالٍ فَهُوَ لَهُ وَلِأَنَّهُ سَبَقَتْ يَدُهُ الْحَقِيقَةُ إِلَيْهِ يَدَ الظَّاهِرِينَ غَلَبَةً أَوْ دِيعَةً فِي يَدِ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ لِأَنَّهُ فِي يَدِ صَحِيحَةٍ مُحْتَرَمَةٍ وَيَدُهُ كَيْدُهُ



ترجمہ..... قدووی نے کہا ہے کہ ان کفار میں سے جو کوئی بھی دارالحرب میں رہتے ہوئے اسلام لے آیا تو اس نے اپنے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اپنی جان کو بچا لیا (قتل ہونے سے) کیونکہ اسلام کے ساتھ ابتداء مملوک ہونا ممکن نہیں ہے اور اپنے ساتھ اپنے نابالغ بچوں کو بھی بچا لیا کیونکہ ایسے چھوٹے بچے اسلام لانے میں اپنے باپ کے تابع ہوتے ہیں یعنی وہ بھی مسلمان مان لئے جاتے ہیں اور اس نے اپنے ساتھ اپنے ایسے مال کو محفوظ کر لیا جو اس کے قبضہ میں ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو مالدار شخص اسلام لایا (ایسا شخص کہ اس کے پاس مال بھی موجود ہے) تو وہ مال اسی کا رہے گا۔ سعید بن منصور نے اس کی صحیح اسناد کے ساتھ روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ ابو داؤد اور احمد نے بھی کی ہے۔ اور اس دلیل سے بھی کہ غازیوں کا اس مال پر قبضہ ہونے سے پہلے سے ہی خود اس کا اپنا حقیقی قبضہ باقی ہے۔ اسی طرح اس نے اپنے اس مال کو بھی بچا لیا جو اس کا کسی مسلمان یا ذمی کے پاس بطور امانت موجود ہے۔ کیونکہ اس مال پر اس کا محترم اور صحیح قبضہ موجود ہے۔ اور جس کے پاس اس کا مال بطور امانت ہے اس کا قبضہ مال کے مالک کے قبضہ کی طرح ہے۔

### مسلمان دارالحرب پر غالب آجائیں تو دارالحرب کی زمین مال فیء ہے

فَإِنْ ظَهَرْنَا عَلَىٰ دَارِ الْحَرْبِ فَعَقَارُهَا فِئَةٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ لَهُ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ فَصَارَ كَالْمَنْقُولِ وَلَنَا أَنَّ الْعَقَارَ فِي يَدِ أَهْلِ الدَّارِ وَسُلْطَانُهَا إِذْ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ دَارِ الْحَرْبِ فَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ حَقِيقَةً وَقِيلَ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ الْآخَرُ وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلِ هُوَ كَغَيْرِهِ مِنَ الْأَمْوَالِ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ الْيَدَ حَقِيقَةً لَا يَثْبُتُ عَلَى الْعَقَارِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَثْبُتُ

ترجمہ..... اور اگر ہم لوگ (مسلمان) دارالحرب پر غالب آگئے تو اس کا غیر منقولہ مال (یعنی جو شخص دارالحرب میں مسلمان ہوا ہے اس کا غیر منقولہ مال) سب کا سب مال غنیمت ہو جائے گا۔ اور امام شافعی (و مالک اور احمد رحمۃ اللہ علیہم نے کہا ہے کہ غیر منقولہ مال بھی اسی کا ہوگا کیونکہ غیر منقولہ بھی اسی کے قبضہ میں ہے۔ اس لئے منقولہ مال کے مثل ہو گیا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اس کا غیر منقولہ مال دارالحرب کے بادشاہ اور اہل ملک کے قبضہ میں ہے کیونکہ ایسی زمینیں اور مکانات وغیرہ بھی منجملہ دارالحرب ہی کے ہے۔ اس لئے حقیقت میں یہ سارا مال اس کے قبضہ میں نہ ہوا۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ غیر منقولہ کا غنیمت ہونا امام ابو حنیفہ کا قول ہے اور دوسرا قول امام ابو یوسف کا ہے۔ اور ابو یوسف کے قول اول اور قول محمد میں غیر منقولہ بھی اس کے دوسرے مالوں کی مانند ہے یہ اختلاف اس بناء پر ہے کہ غیر منقولہ مال پر امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک حقیقی قبضہ ثابت نہیں ہوتا ہے لیکن امام محمد کے ہاں قبضہ ثابت ہوتا ہے۔

### کافرہ حریبہ بھی مال فیء ہے

وَزَوْجَتُهُ فِئَةٌ لِأَنَّهَا كَافِرَةٌ حَرْبِيَّةٌ لَا تَتَّبَعُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَكَذَا أَحْمَلُهَا فِي خِلَافٍ لِلشَّافِعِيِّ هُوَ يَقُولُ إِنَّهُ مُسْلِمٌ تَبَعًا كَالْمُنْفَصِلِ وَلَنَا أَنَّهُ جُزْأُهَا فَيَرْقُ بِرِقَاقِهَا الْمُسْلِمُ مَحَلٌّ لِلتَّمْلِكِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلِ لِأَنَّهُ حُرٌّ لَا نَعْدَامُ الْجُزْئِيَّةَ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَوْلَادُهُ الْكِبَارُ فِئَةٌ لِأَنَّهُمْ كُفَرَاءُ حَرْبِيُّونَ وَلَا تَبَعِيَّةَ وَمَنْ قَاتَلَ مِنْ عِبِيدِهِ فِئَةٌ لِأَنَّهُ لَمَّا تَمَرَّدَ عَلَىٰ مَوْلَاهُ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ فَصَارَ تَبَعًا لِأَهْلِ دَارِهِمْ.

ترجمہ..... اور اس نو مسلم کی بیوی بھی مال غنیمت بن جائے گی کیونکہ یہ ابھی تک کافرہ اور حریبہ ہے جو اسلام میں اپنے شوہر کے تابع نہیں



ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اس کی بیوی کو حمل ہوگا تو اس کا بچہ بھی مال غنیمت ہوگا۔ یعنی اگرچہ اس عورت کا شوہر مسلمان ہو گیا لیکن اس کی بیوی کو جو حمل ہے وہ اس کی بیوی کے مال کے حکم میں ہوگا اور وہ بھی مال غنیمت ہو جائے گا۔ اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ اپنے باپ کے تابع ہو کر مسلمان ہی سمجھا جائے گا جیسے اس کے دوسرے وہ بچے جو پیدا ہو چکے ہیں مسلمان سمجھے جاتے ہیں اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ حمل اور پیٹ میں موجود بچہ ابھی تک اسی کافرہ عورت کا جزو بدن ہے۔ اس لئے عورت جیسے ہی باندی شمار ہوگی وہ بچہ بھی غلام ہو جائے گا اور مسلمان اس لائق ہوتا ہے کہ دوسرے کے تابع ہو کر غلام اور مملوک ہو جائے۔ بخلاف اس بچہ کے جو پیدا ہو چکا ہو کیونکہ وہ آزاد ہے۔ اس لئے کہ پیٹ سے نکل جانے کے بعد وہ اپنی ماں کا جزو بدن باقی نہ رہا۔

اور اس عورت کی بالغ اولاد بھی مال غنیمت ہو جائے گی کیونکہ یہ لوگ حربی کافر ہیں اور اولاد بڑی ہو جانے کی وجہ سے اپنی ماں کے تابع نہیں ہو سکتی ہے اور اس کے غلاموں میں سے جس نے قتال کیا وہ بھی مال غنیمت ہے کیونکہ جب اس نے اپنے مولیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کی تو وہ اس کے قبضے سے نکل گیا تو وہ دارالحرب والوں کے تابع ہو گیا۔

### دارالحرب میں جو حربی کے ہاتھ میں ہے وہ بھی مال فیء ہے

وَمَا كَانَ مِنْ مَّالٍ فِي يَدِ حَرْبٍ فَهُوَ فِي غَضَبٍ كَانَ أَوْ وَدِيعَةً لِأَنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ بِمُحْتَرَمَةٍ

ترجمہ..... اور اس نو مسلم کا وہ مال جو کسی حربی کے قبضہ میں ہو وہ مال غنیمت ہے۔ خواہ کسی کا غضب کئے ہوئے ہو یا امانت کے طور پر ہو کیونکہ حربی کا قبضہ قابل احترام نہیں ہوتا ہے۔

### مسلمان یا ذمی کے قبضے میں جو بطور غضب ہے وہ بھی مال فیء ہے

وَمَا كَانَ غَضَبًا فِي يَدِ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ فَهُوَ فِي عِنْدِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَكُونُ فِئًا قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ رَحِمَهُ اللَّهُ كَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ الْإِخْتِلَافَ فِي السَّيْرِ الْكَبِيرِ وَذَكَرُوا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ مَعَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ لَهُمَا أَنَّ الْمَالَ تَابِعٌ لِلنَّفْسِ وَقَدْ صَارَتْ مَعْصُومَةً بِالْإِسْلَامِ فَيَبْعُهَا مَالُهُ فِيهَا وَلَهُ أَنَّهُ مَالٌ مُبَاحٌ فَيُمْلِكُ بِالْإِسْتِيلَاءِ وَالنَّفْسُ لَمْ تَصِرْ مَعْصُومَةً بِالْإِسْلَامِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُتَقَوِّمَةٍ إِلَّا أَنَّهُ مُحَرَّمُ التَّعَرُّضِ فِي الْأَصْلِ لِكَوْنِهِ مُكَلَّفًا وَإِبَاحَةُ التَّعَرُّضِ بَعَارِضُ شَرِّهِ وَقَدْ ائْتِيَ بِإِسْلَامٍ بِخِلَافِ الْمَالِ لِأَنَّهُ خُلِقَ عُرْضَةً لِإِلْمَتِهِ إِنْ كَانَ مَحَلًّا لِلْمَلِكِ وَلَيْسَتْ فِي يَدِهِ حُكْمًا فَلَمْ تَثْبُتِ الْعِصْمَةُ

ترجمہ..... اور اس نو مسلم کا جو مال کسی مسلمان یا ذمی کے قبضہ میں غضب کے طور پر ہو وہ بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک مال غنیمت ہے۔ لیکن امام محمد کے نزدیک غنیمت سے نہیں ہوگا۔ مصنف نے کہا ہے کہ امام محمد نے سیر کبیر میں اسی طرح کا اختلاف ذکر کیا ہے۔ اور جامع صغیر کے شارحین نے امام ابو یوسف کو امام محمد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یعنی صاحبین کے نزدیک غنیمت نہیں ہوگا۔ امران (صاحبین) کی دلیل یہ ہے کہ مال اس کے نفس کے تابع ہے حالانکہ اس کا نفس اسلام کی وجہ سے معصوم و محفوظ ہو گیا ہے اس لئے اس کا مال بھی اس کے تابع ہو کر محفوظ ہو گیا ہے اور امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ مال اصل میں مباح ہوتا ہے اور غلبہ کر لینے سے مال ملکیت میں آ جاتا ہے اس لئے جب



اس پر کوئی غالب ہو گیا تو وہ ملک میں آ جائے گا۔ اور نفس کوئی قیمتی چیز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت میں اس سے تعرض اور تصرف میں لانا حرام ہے کیونکہ وہ خود مکلف ہے۔ اور جہاد کے موقع میں ایسے اشخاص سے تعرض کرنا اگرچہ مباح کیا گیا تھا مگر وہ اس کے کفر کی شرارت کی وجہ سے تھا اور اب جبکہ وہ شخص اسلام لے آیا اور اس کا کفر دفع ہو گیا تو اب اس سے تعرض کرنا ممنوع ہو گیا ہے۔ بخلاف مال کے کیونکہ مال تو اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ حسب ضرورت اسے کام میں لایا جائے اس لئے وہ تو ملک میں آنے کے قابل ہی ہوتا ہے اور یہ مال بھی اس شخص کے قبضہ میں حکماً نہیں ہے اس لئے کہ قابل احترام ہونا بھی ثابت نہیں ہوا۔

تشریح..... صورت مسئلہ یہ ہے کہ نو مسلم کا جو مال کسی مسلمان یا ذمی کے قبضہ میں ہو تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک وہ مال بھی مال غنیمت ہوگا کیونکہ دراصل مال مباح ہے۔ غلبہ حاصل کرنے سے وہ (مال) ملکیت بن جاتا ہے۔ نو مسلم کا نفس قیمتی نہ ہونے کے باوجود فی الحقیقت اس سے مقابلہ کرنا حرام ہے۔ بایں وجہ کہ وہ قبولیت اسلام کی وجہ سے اسلامی اقدار اپنانے کا مکلف ہے۔ جبکہ جہاد و قتال میں کفار سے مقابلہ کرنے کا جواز ان کے کفر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن نو مسلم کے اسلام قبول کرنے سے اس کا کفر پر مبنی شر دور ہو گیا۔ اگرچہ مال پیدا ہونے کی وجہ اس مال کو کام میں لانا ہے۔ اس بنا پر مال میں ملکیت بن جانے کی صلاحیت موجود ہے لیکن از روئے حکم وہ مال نو مسلم کے قبضہ میں نہیں ہوتا۔ اسلئے نو مسلم کا مال محترم نہ ہونے کے باعث فی الواقع نو مسلم کا مال ”مال غنیمت“ ہوگا۔

جاننا چاہئے کہ حصول مال کا اصل مقصود از روئے جواز اسے استعمال میں لانا ہے۔ مال جب کسی کے قبضہ میں ہوتا ہے تو اس پر قابض کو بالکل اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسے استعمال میں لائے۔ الا یہ کہ ایمانی و شرعی تقاضوں کو بروئے کار لاتے ہوئے امین کے پاس بطور امانت مال نہ ہو۔ استثناء پر مبنی شرط ”دارالاسلام“ کے مسلمانوں کے ساتھ تو مشروط ہے مگر دارالحرب میں مقیم مسلمان یا ذمی کیلئے استثناء مشروط نہیں۔ کیونکہ اگر دارالحرب میں کوئی مسلمان غیر شرعی فعل کا ارتکاب کرے تو وہ موجب سزا نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہاں (دارالحرب میں) اسلامی اقدار کی پابندی لازم نہیں۔ لہذا دارالحرب میں مقیم مسلمان یا ذمی کے قبضے میں کسی نو مسلم کا مال غیر مباح متصور نہ ہوگا۔ چونکہ مال میں عدم جواز کی صورت اس وقت پائی جاتی ہے جب وہ کسی کی ملکیت خاص پر مبنی ہو۔ جبکہ دارالحرب میں مقیم لوگوں کا مال اس وقت تک ”جواز“ کو قائم نہیں کرتا جب تک دارالحرب پر اہل اسلام کا غلبہ متحقق نہیں ہوتا۔ جب دارالحرب پر اہل اسلام کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو اس وقت حربیوں کے نفس کے ساتھ ان کا مال بھی تابع ہو کر بوجہ اباحت (جواز) مسلمان فاتحین کی ملکیت میں آ جاتا ہے۔ چونکہ دارالحرب میں مقیم نو مسلم کا نفس قیمتی نہیں ہوتا۔ اسلئے اس کا مال خواہ کسی مسلمان یا ذمی کے پاس بطور غصب موجود ہو تو نو مسلم کے نفس کے تبعاً مال بھی غیر معصوم (قیمتی نہ ہونا) متصور ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ مال پر جس کا قبضہ ہو اسی کا غلبہ ہوگا اور غلبہ سے مال کی ملکیت غالب و قابض شخص کی متحقق ہوتی ہے۔ چنانچہ مذکورہ صورت میں زیر بحث مسئلہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی نو مسلم کا مال بطور غصب کسی مسلمان یا ذمی کے قبضہ میں ہو تو امام ابو حنیفہؒ کے موقف کے بموجب وہ مال قابض کا ہی متصور ہوگا۔ کیونکہ مال پر قابض آدمی کو اس (مال) کے تصرف کرنے کا پورا پورا اختیار حاصل ہے۔ لہذا فی الواقع مال اسی کا ہوگا جس کے قبضہ میں ہے۔

دریں صورت یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ دارالحرب میں نو مسلم کا مال کسی مسلمان یا ذمی کے پاس بطور غصب موجود ہے۔ لیکن اس پر نو مسلم (مال کا اصل مالک) کو تصرف کا اختیار نہیں۔ اسلئے غصب شدہ مال نو مسلم کی دسترس میں نہیں۔ لہذا یہ (غصب شدہ) مال نو مسلم کا نہ



ہوا۔ بلکہ یہ مال غاصب و قابض کے تصرف میں ہونے کے باعث درحقیقت مال اپنی اصل (مباح) کے اعتبار سے غاصب اور قابض کی ملکیت ہی متصور ہوگا۔ پس ثابت ہوا کہ نو مسلم کا غصب شدہ مال غنیمت کے زمزے میں شمار ہوگا۔ جبکہ نو مسلم قبولیت اسلام کی وجہ سے اسلامی اقدار (عبادات، معاملات، معاشرت) اپنانے کے حوالے سے مکلف ہے اسلئے اس کا نفس قیمتی نہ ہونے کے باوجود جہاد و قتال کے حوالے سے نو مسلم کے قتل نفس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بایں وجہ کہ

قتال کے ذریعے دارالحرب پر غلبہ اور حربیوں کے ساتھ جہاد و قتال کا مقصد کفر پر مبنی شر کو دور کرنا ہوتا ہے۔ اور نو مسلم کے قبولیت اسلام کے باعث شر و فساد کی بنیاد زائل ہوگئی۔ لہذا نو مسلم سے جہاد کی نیت کے ساتھ قتال نہیں کیا جائے گا۔ البتہ دارالحرب میں نو مسلم کے غصب شدہ مال پر اس کی ملکیت متحقق نہ ہوگی۔ لیکن صاحبین (امام محمد، امام ابو یوسف) کی رائے میں نو مسلم کا وہ مال جو کسی مسلمان یا ذمی کے قبضہ میں غصباً ہو تو اسے مال غنیمت متصور نہیں کیا جائے گا کیونکہ نفس کے تابع ہوتا ہے اور دارالحرب میں مقیم نو مسلم کا نفس قبولیت اسلام کی وجہ سے محترم ہے۔ لہذا اس کا مال بھی محترم ہوگا۔

مسلمان جب دارالحرب سے نکل جائیں تو مال غنیمت سے جانوروں کو چارہ کھانا اور خود

مال غنیمت سے کھانا جائز ہے

وَإِذَا خَرَجَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَجْزَأَنْ يَعْلفُوا مِنَ الْغَنِيمَةِ وَلَا يَأْكُلُوا مِنْهَا لِأَنَّ الضَّرُورَةَ قَدِ ارْتَفَعَتْ وَالْإِبَاحَةُ بِاعْتِبَارِهَا وَلِأَنَّ الْحَقَّ قَدْ تَأَكَّدَ حَتَّى يُورَثُ نَصِيبُهُ وَلَا كَذَلِكَ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ

ترجمہ..... اور مسلمانوں کے دارالحرب سے نکل جانے کے بعد ان کے لئے جائز نہ ہوگا کہ وہ مال غنیمت میں سے اپنے جانوروں کو چارہ کھلائیں یا غنیمت سے خود کھائیں۔ کیونکہ مجبوری باقی نہیں رہی اور اس غنیمت کے استعمال کو مجبوری کی بناء پر جائز کہا گیا تھا اور اس دلیل سے بھی کہ غنیمت میں مسلمانوں کا حق اور بھی زیادہ پختہ ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ اب ان میں سے کسی کے مرنے پر اس غنیمت سے اس کا کوئی حق میراث ہو جاتا ہے۔ جبکہ دارالحرب سے نکلنے سے پہلے تک اتنی پختگی نہ تھی۔

جس کے پاس پہلے کا چارہ یا کھانا بچا ہوا ہو وہ مال غنیمت میں جمع کرادے

وَمَنْ فَضَّلَ مَعَهُ عَلْفًا أَوْ طَعَامًا رَدَّهُ إِلَى الْغَنِيمَةِ مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ تُقَسَّمْ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ مِثْلَ قَوْلِنَا وَعَنْهُ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ اعْتِبَارًا بِالْمُتَلَصِّصِ وَلِنَّا أَنَّ الْإِخْتِصَاصَ ضَرُورَةٌ الْحَاجَةُ وَقَدْ زَالَتْ بِخِلَافِ الْمُتَلَصِّصِ لِأَنَّهُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ فَكَذَا بَعْدَهُ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ تَصَدَّقُوا بِهِ إِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ وَانْتَفَعُوا بِهِ إِنْ كَانُوا مَحَاضِرًا لِأَنَّهُ صَارَ فِي حُكْمِ اللَّقْطَةِ لِسَعْدِ الرَّدِّ عَلَى الْغَانِمِينَ وَإِنْ كَانُوا انْتَفَعُوا بِهِ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ تُرَدُّ قِيَمَتُهُ إِلَى الْمَغْنَمِ إِنْ كَانَ لَمْ يُقَسَّمْ وَإِنْ قُسِمَتْ الْغَنِيمَةُ فَالْغَنِيُّ يَتَصَدَّقُ بِقِيَمَتِهِ وَالْفَقِيرُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِقِيَامِ الْقِيَمَةِ مَقَامَ الْأَصْلِ فَأَخَذَ حُكْمَهُ

ترجمہ..... اور اگر کسی غازی کے پاس چارہ، دانہ یا غلہ استعمال سے بچ گیا ہو تو وہ اسے مال غنیمت میں واپس کر دے۔ یعنی جبکہ یہ باضابطہ تقسیم نہ کیا گیا ہو (فہ یعنی اگر امام نے غلہ وغیرہ دارالحرب میں تقسیم کر دیا ہو تو اس کی واپسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر بغیر تقسیم اپنی



ضرورت پر کچھ لیا ہو کیونکہ دارالحرب میں رہتے ہوئے ان کے لئے اس کا استعمال مباح تھا۔ اب جبکہ وہاں سے نکل کر دارالاسلام پہنچ گئے تو جس کے پاس جو کچھ بھی اس مال سے بچا ہوا رہ گیا ہو وہ خرچ نہ کرے بلکہ مال غنیمت میں جمع کر دے۔ امام شافعیؒ سے بھی ایک قول ہمارے ہی مثل ہے۔ اور ان کا دوسرا قول یہ ہے کہ واپس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ چوری سے مال لینے پر (متلخص) پر قیاس کرتے ہوئے (متلخص - لخص) چور کے متلخص مصدر سے اسم فاعل ہے۔ وہ شخص جو چوری اور چھپ کر دارالحرب میں جا کر کافروں کا مال لے آیا ہو) یعنی عوام میں سے کہ جس کو کوئی اختیار اور طاقت حکومت کی جانب سے نہ ہو وہ امام کی اجازت کے بغیر دارالحرب میں گیا اور وہاں سے کوئی چیز یا مال نکال لایا تو یہ سب کا سب اسی کا ہو جائے گا یہاں تک کہ اس میں سے پانچواں حصہ بھی نکال کر بیت المال میں جمع کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ کیونکہ یہ مال غنیمت میں سے نہیں ہے کیونکہ غنیمت ایسے مال کو کہتے ہیں جو (حربوں سے) زبردستی اور طاقت سے امام کی اجازت کے ساتھ لیا جائے۔ جبکہ مال مذکور ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے مال کو مال مباح کہا جاتا ہے کہ جس پر جس کا قبضہ پہلے ہو جائے وہ مال اسی کا ہوتا ہے۔ جیسے کہ خود دارالاسلام کے شکار مباح کا حال ہے کہ جو اسے پکڑے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دانہ اور غلہ خاص اسی غازی کا ہو گیا۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ دارالحرب میں رہتے ہوئے ضرورت کی وجہ سے کچھ مال کسی کے لئے مخصوص سمجھا گیا مگر اب وہ ضرورت باقی نہ رہی (یعنی دانہ و غلہ دارالحرب کی ضرورت کی وجہ سے اس غازی کے لئے مخصوص تھا ورنہ وہ تو سارے غازیوں کا مال مشترک اور مال غنیمت تھا۔ اب جبکہ اس کی ضرورت باقی نہیں رہی تو اسے مال غنیمت میں واپس کر دینا چاہئے)۔ بخلاف متلخص کے کیونکہ اس نے دارالحرب سے جو کچھ لیا وہ دارالاسلام میں لانے کے بعد بھی اسی کا حق ہوگا (لہذا اس متلخص کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے)۔ اور اگر امام نے خود دارالحرب میں رہتے ہوئے غازیوں کے درمیان غلہ تقسیم کر دیا تھا پھر دارالحرب سے نکلنے کے بعد بھی کچھ بچا ہوا رہ گیا اور غازی خود مالدار ہو تو اس بچے ہوئے کو لوگوں میں صدقہ کر دے اور اگر محتاج ہو تو خود اس سے بھی نفع حاصل کر لے (کیونکہ دارالحرب میں امام نے لوگوں کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے تقسیم کیا تھا۔ لیکن دارالحرب سے نکل جانے کے بعد بھی جب بچ گیا تو معلوم ہوا کہ اتنا غلہ اسے اس کی ضرورت سے زائد ملا تھا لہذا اب اس کے لئے یہ جائز نہ رہا۔ کیونکہ اس تمام غازیوں کا حق متعلق ہو گیا ہے۔ ہاں اگر واقعاً خود محتاج ہو تو اس سے نفع اٹھائے اور جمع نہ کرے) کیونکہ یہ غلہ لفظ کے حکم میں ہو گیا ہے کیونکہ اب غازیوں کو واپس دینا محال ہے (اور اگر دارالاسلام میں لانے کے بعد بچا ہوا غلہ انہوں نے غنیمت میں واپس نہ کیا بلکہ استعمال میں لے آیا اور اس سے نفع اٹھا لیا تو اس کی قیمت مال غنیمت میں واپس کرنا ہوگی)۔ بشرطیکہ امام نے دارالحرب میں غلہ کی تقسیم نہ کی ہو۔ اور اگر دارالحرب میں یہ مال ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہو اور وہ غازی خود مالدار ہو تو اس پر واجب ہوگا کہ جس بچے ہوئے غلہ کو خرچ کیا ہے اس کی قیمت دارالاسلام کے فقیروں کے درمیان صدقہ کر دے۔ اور اگر خود ہی فقیر ہو تو اس پر کچھ بھی صدقہ کرنا لازم نہیں ہے۔ کیونکہ اگرچہ اصل یعنی غلہ فی الحال موجود نہیں ہے مگر اس کی قیمت قائم مقام کی حیثیت کے اعتبار سے موجود ہے۔ اس لئے اس کو اصل کا حکم دیدیا گیا ہے (یعنی اگر بچا ہوا غلہ موجود ہوتا تو اس محتاج غازی کے لئے یہ جائز ہوتا کہ اسے اپنی ذات میں خرچ کر ڈالے اور صدقہ نہ کرے۔ اسی طرح اس کا قائم مقام اس کی قیمت ہے اسے بھی صدقہ کرنا لازم نہیں ہے۔ کیونکہ گویا اس نے اصل غلہ کو خرچ کیا۔

## فصل فی کیفیۃ القسمة

ترجمہ..... فصل، مال غنیمت کی تقسیم کی کیفیت کے بیان میں

امام کیلئے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ

قَالَ وَيُقَسِّمُ الْإِمَامُ الْغَنِيمَةَ فَيُخْرِجُ خُمُسَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ اسْتَشْنَى الْخُمْسَ وَيُقَسِّمُ أَرْبَعَةً أَحْمَاسٍ بَيْنَ الْغَانِمِينَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَسَمَهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ

ترجمہ..... قدوریؒ نے کہا ہے کہ امام مال غنیمت کو تقسیم کرے اس طرح سے کہ سارے مال کو پانچ حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ (پانچواں) نکال لے۔ کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ الا یہ یعنی غنیمت میں سے اللہ تعالیٰ کے لئے پانچواں حصہ ہے اور رسول کے لئے اس طرح پانچواں حصہ مستثنیٰ کر لیا۔ (اسی آیت اور حکم سے دسویں پارہ کی ابتداء ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک نام صرف تعظیم و تکریم کے لئے ذکر فرمایا ہے۔ حالانکہ اس سے مراد رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصل قرابت و یتیم بچہ اور مساکین اور ابن السبیل ہیں۔ جیسا کہ آیت پاک میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔ الحاصل امام تقسیم کا کام خود کرے۔ اس طرح سے کہ سب کو پانچ حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ علیحدہ کر کے رکھ دے۔ وَيُقَسِّمُ أَرْبَعَةً أَحْمَاسٍ الخ پھر باقی چار حصوں سے غنیمت حاصل کرنے والوں میں تقسیم کر دے (یعنی کل غنیمت کے پانچ حصے کر کے ایک حصہ نکال لے اور باقی چار حصے غازیوں میں اس طرح تقسیم کرے جیسے آئندہ مذکور ہوگا خلاصہ یہ ہوا کہ باقی چار حصے سارے غازیوں کے ہیں) کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ان چار حصوں کو غنیمت پانے والے (غازیوں) میں تقسیم کر دیا ہے۔ (چنانچہ طبرانی کی طویل حدیث میں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ پانچواں حصہ نکالنے کے بعد باقی چار کو غانمین میں تقسیم کر دیا ہے اور طبرانی نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مرسل اس کی روایت کی ہے۔

فارس اور راجل کیلئے کتنے حصے ہیں، اقوال فقہاء

ثُمَّ لِلْفَارِسِ سَهْمَانٍ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَشْهُمٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهُمٌ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَشْهُمٍ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمَانٌ وَلِأَنَّ الْإِسْتِحْقَاقَ بِالْغَنَاءِ وَغَنَاؤُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْشَالِ الرَّاجِلِ لِأَنَّهُ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ وَالثَّبَاتِ وَالرَّاجِلُ لِلثَّبَاتِ لَا غَيْرَ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُعْطِيَ الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَالرَّاجِلَ سَهْمًا فَتَعَارَضَ فِعْلَاهُ فَيُرْجَعُ إِلَى قَوْلِهِ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْفَارِسِ سَهْمَانٍ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ كَيْفَ وَقَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَسَمَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا وَإِذَا تَعَارَضَتْ رَوَايَتُهُ تُرْجَعُ رِوَايَةُ غَيْرِهِ وَلِأَنَّ الْكَرَّ وَالْفَرَّ مِنْ جَنْسٍ وَاحِدٍ فَيَكُونُ غَنَاؤُهُ مِثْلِيَّ غَنَاءِ الرَّاجِلِ فَيَفْضُلُ عَلَيْهِ بِسَهْمٍ وَلِأَنَّهُ تَعَدَّرَ اعْتِبَارُ مِقْدَارِ الزِّيَادَةِ لِمَعْرِفَتِهِ فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَى سَبَبِ ظَاهِرٍ وَلِلْفَارِسِ سَبَبَانِ النَّفْسُ وَالْفَرَسُ وَلِلرَّاجِلِ سَبَبٌ وَاحِدٌ فَكَانَ اسْتِحْقَاقُهُ عَلَى ضَعْفِهِ



ترجمہ..... پھر امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک پیدل چل کر جہاد کرنے والے کے لئے ایک حصہ ہوگا تو سواری والے کے لئے دو حصے ہوں گے اور صاحبینؒ نے کہا ہے کہ سوار کے لئے تین حصے ہوں گے۔ امام شافعیؒ کا بھی یہی قول ہے (امام مالکؒ و احمدؒ اور اکثر اہل علم کا بھی یہی قول ہے اور امام محمدؒ نے آثار میں ابوحنیفہؒ کی اسناد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی خلافت میں اس تقسیم پر راضی ہونا کہ سوار کو دو حصے اور پیدل کو ایک حصہ ہے روایت کیا ہے۔ پھر کہا کہ ابوحنیفہؒ کا یہی قول ہے۔ لیکن ہم اسے قبول نہیں کرتے بلکہ ہمارے نزدیک سوار کے لئے تین حصے اور پیدل کے لئے ایک حصہ ہے۔

لما روی ابن عمر الخ اس دلیل سے جو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سوار کو تین حصے دیئے ہیں اور پیدل کو ایک حصہ دیا ہے۔ اس کی روایت بخاری و مسلم و ابوداؤد و ترمذی اور ابن ماجہ نے کی ہے۔ اور اس دلیل سے بھی کہ غازی غنیمت سے اتنا ہی حصہ کا حق دار ہوتا ہے۔ جتنے کی ضرورت ہوتی ہو۔ یعنی لڑائی میں جس ذات کو جتنے سے کفایت حاصل ہو اسی قدر غنیمت کا وہ مستحق ہوگا۔

عَنَاوُهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ جبکہ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایک سوار تین پیدل چلنے والوں کے برابر ہوتا ہے کیونکہ صرف ایک سوار تین موقعوں میں کام کرتا ہے اور کافی ہوتا ہے۔ یعنی حملہ کرنے کے موقع میں بھاگ کر جان بچانے کے موقع میں اور میدان میں جم کر لڑنے کے موقع میں۔ جبکہ پیدل شخص جم کر لڑنے کے واسطے ہوتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی پیدل شخص جہاں پر ہوگا اس کے علاوہ کہیں اور آدمی کی حرکت سے زیادہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ بخلاف سوار کے کہ وہ اچانک حملہ کر کے دشمن کو بھگا کر ضرورت ہونے پر پلٹ کر پیدل شخص کی مدد کو بھی آ سکتا ہے۔ پھر جب تک وہ موقع پائے گا اور مناسب سمجھے گا ایک جگہ پر جم کر لڑے گا۔ مگر یہ بات پیدل شخص میں نہیں پائی جا سکتی ہے۔ پس جب ایک پیدل شخص کے مقابلہ میں سوار تین کو نا کام کرتا ہے تو اس پیدل شخص کے مقابلہ میں تین گونہ غنیمت سے بھی پانے کا حق دار ہو سکتا ہے۔

ولابی حنیفہؒ ماروی..... الخ اور امام ابوحنیفہؒ کی دلیل وہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سوار کو دو حصے اور پیدل کو ایک حصہ دیا ہے (لیکن ابن الہمامؒ نے کہا ہے کہ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب ہے۔ یعنی کہیں نہیں ملتی ہے۔ بلکہ اسحق ابن راہویہ نے مسند میں اس کے خلاف روایت کی کہ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے سوار کو تین حصے دیئے اور پیدل کو ایک حصہ دیا۔ اور اسی طرح کی ان ہی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دوسری سندوں سے بھی روایت کی ہے۔ طبرانی وغیرہ کی روایت میں بھی یہی مفہوم ہے۔ لیکن مصنفؒ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت پا کر اسی پر یقین کر لیا۔ اور کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے دونوں عملوں میں تعارض پایا گیا (اس طرح سے کہ ایک تو وہ جو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی اور دوسری وہ جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔ لیکن ابھی معلوم ہوا کہ پہلی روایت تو صحاح میں موجود ہے اور دوسری یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کا ثبوت نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے علاوہ ابوداؤد کی جو مجمع بن جاریہ کی حدیث اور طبرانی و ابن مردویہ کی روایت میں مذکور ہے وہ ضعف اور وہم اور جرح سے خالی نہیں ہے۔ اس لئے دونوں روایتوں میں پورا معارضہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اصول میں یہی بات طے شدہ ہے کہ معارضہ کے لئے دونوں طرف کی روایتوں کا قوت میں برابر ہونا شرط ہے۔ تفع (۱) ایک کے



ضعیف اور دوسری کے قوی ہونے کی صورت میں معارضہ نہیں ہو سکتا ہے) مگر مصنف نے یہاں پر دونوں روایتوں کے ہم پلہ اور مساوی نہ ہونے کے باوجود ان میں تعارض قرار دیا ہے) اور یہ فرما دیا ہے کہ **فَيُسْرُ جَعُ إِلَى قَوْلِهِ**..... الخ یعنی جبکہ رسول اللہ ﷺ کے دو فعلوں میں تعارض پایا گیا تو اب آپ کے قول کی طرف رجوع کیا جائے گا (اور ان میں معارضہ کی وجہ سے آپ کے فعل سے استدلال نہیں ہو سکتا ہے۔)

**وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْخ**۔ جبکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ سوار کے لئے دو حصے اور پیدل کے لئے ایک حصہ ہے (لیکن ابن الہمام وغیرہ نے فرمایا ہے کہ یہ روایت نہیں ملتی ہے۔ اور جس نے اس روایت کو ابن ابی شیبہ کی طرف منسوب کیا ہے اس نے غلطی کی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ مصنف نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو اولیٰ قرار دیا ہے۔

**كَيْفَ وَقَدْ رُوِيَ** اور اسے اولیٰ کیوں نہ کہا جائے جبکہ خود ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سوار کے لئے دو حصے اور پیدل کے لئے ایک حصہ دیا ہے (ابن ابی شیبہ اور دارقطنی نے متعدد طریقوں سے اس کی روایت کی ہے اور یہ تمام سندیں ثقہ ہیں لیکن بعض نے بعض کی مخالفت کی ہے۔ اور حق بات یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اثبت واقویٰ روایت یہی ہے کہ سوار کو دو حصے اور پیدل کو ایک حصہ دیا ہے۔)

**وَإِذَا تَعَارَضَتْ الْخ** اور جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں روایتیں باہم متعارض ہوئیں تو دوسرے صحابی کی روایت سے ایک کو ترجیح ہوئی۔ (یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ترجیح ہوئی۔ لیکن یہ بات مخفی نہ رہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی اسحق بن راہویہ نے سوار کے لئے تین حصوں کی روایت کی ہے تو اس سے بھی استدلال نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی پہلی روایت تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے اور دوسری روایت مصنف ابن ابی شیبہ و دارقطنی میں ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ صحیحین کی روایتیں دارقطنی وغیرہ کی روایتوں کے مقابلہ میں اصح اور قوی ہیں اس لئے دونوں میں تعارض نہیں پایا گیا۔ کیونکہ تعارض کے لئے برابری ضروری ہوتی ہے الحاصل ان میں معارضہ نہ ہو سکا اور شیخ ابن ہمام نے جواب دیا ہے کہ جب ابن ابی شیبہ کی اسناد میں بھی بخاری کی روایت کے برابر ثقہ ہوں تو ہم ایسی صورت میں صحیحین کی روایت کو دوسری روایت کے مقابلہ میں مطلقاً مقدم اور اعلیٰ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات اس سے پہلے کہی بار کہہ چکے ہیں بلکہ اسناد کی قوت کا اعتبار کرنا ہوگا۔ جیسا کہ ابن ابی شیبہ نے کہا ہے **حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاحِلِ سَهْمًا**۔ دارقطنی نے کہا ہے کہ ابو بکر نیشاپوری نے کہا ہے کہ میرے نزدیک یہ ابن ابی شیبہ کا وہم ہے کیونکہ احمد بن حنبل و عبد الرحمن بن بشر وغیرہ نے ابن نمیر سے اس کے خلاف روایت کی ہے اور ابو اسامہ سے بھی اس کے خلاف مروی ہے یعنی **لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَشْهُمٍ** یعنی سوار کو دو حصوں کی جگہ تین حصوں کی روایت ہے لیکن نعیم نے عبد اللہ بن المبارک سے اوپر کے اسناد سے سوار کے واسطے دو حصہ کی روایت کی ہے۔ ابن الہمام نے کہا ہے کہ نعیم ثقہ اور ابن المبارک اثبت ہیں۔ پھر متابعت میں دارقطنی نے **يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْخ** اور حجاج بن منہال ثنا حماد بن سلمہ ثنا عبید اللہ الخ یہی روایت کی ہے کہ سوار کے لئے دو حصے اور پیدل کے لئے ایک حصہ ہے۔ اور اسی پر شیخ ابن الہمام نے زور دیا کہ یہ روایت ثابت ہے اور اس کی اسناد ثقہ ہے۔ پس اگر دوسری روایت جس میں سوار کے لئے تین حصے ہیں اصح مان لی جائے تو ان دونوں کو متفق کرنا بہتر ہے۔ بہ نسبت اس کے کہ ایک کو بالکل چھوڑ دیا جائے۔ اس



لئے ہم نے دونوں روایتوں میں اس طرح توفیق دی کہ اصل تقسیم یہ ہے کہ سوار کے لئے دو حصے اور پیدل کے لئے ایک حصہ ہو اور جس روایت میں سوار کے لئے تین حصے ہیں وہ نفلاً عطیہ کے طور پر دینے کی روایت ہے۔ اور اس قیاس کا ایک سوار تین پیدل چلنے والے کے کام کرتا ہے اور اس کے برابر ہوتا ہے یعنی وہ ایک جگہ جم کر لڑ سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے، پھر پلٹ کر اپنی جان بچا سکتا ہے (الْكَرُّ وَالْفَرُّ وَالثَّبَاتُ) جبکہ پیدل صرف ایک ہی جگہ رہ کر لڑ سکتا ہے جواب یہ دیا ہے کہ وَلَإِنَّ الْكَرَّ وَالْفَرَّ الْخِ کہ اس سوار کا حملہ کرنا اور پیچھے ہٹنا یہ دو صفتیں نہیں ہیں بلکہ دونوں ایک ہی جنس ہیں (کیونکہ پیچھے ہٹنا اسی وقت اچھا ہوتا ہے جبکہ دوبارہ حملہ کے واسطے ہو ورنہ میدان سے بھاگ جانے میں لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے) اس طرح پیدل کے مقابلہ میں سوار دو ہرے نفع کا مالک اور دو گنا فائدہ کا کام کرتا ہے اس لئے پیدل کے مقابلہ میں دو گنے فائدہ کا بھی وہ مستحق ہو سکتا ہے۔ زیادہ کا نہیں اور اس وجہ سے بھی کہ مقدار کی زیادتی کا اعتبار کرنا بہت مشکل ہے یعنی یہ حساب ٹھیک ہو سکتا ہے کہ سوار نے پیدل کے مقابلہ میں کتنا کام زیادہ کیا ہے۔ کیونکہ اسے پہچاننا اور گنا تقریباً ناممکن ہے اس لئے زیادتی کا حکم ظاہری سبب پر ہوگا۔ جب کہ ظاہری سبب دو ہیں ایک سوار کی اپنی ذات اور دوسرا اس کا گھوڑا اور پیدل میں صرف اس کی ذات ہی ایک سبب ہے۔ اس طرح سوار کا حق پیدل سے ظاہر ادو گنا ہی ہوگا۔

### غازی کیلئے ایک گھوڑے کے حصے کا حکم

وَلَا يُسْهَمُ إِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُسْهَمُ لِفَرَسَيْنِ لِمَا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُسْهَمَ لِفَرَسَيْنِ وَلِأَنَّ الْوَاحِدَ قَدْ يُعْيَىٰ فَيَحْتَاجُ إِلَى الْآخِرِ وَلَهُمَا أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ أَوْسٍ قَادَ فَرَسَيْنِ وَلَمْ يُسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ وَلِأَنَّ الْقِتَالَ لَا يَتَحَقَّقُ بِفَرَسَيْنِ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَلَا يَكُونُ السَّبَبُ الظَّاهِرُ مُفْضِيًا إِلَى الْقِتَالِ عَلَيْهِمَا فَيُسْهَمُ لَوَاحِدٍ وَلِهَذَا لَا يُسْهَمُ لِثَلَاثَةِ أَفْرَاسٍ وَمَا رَوَاهُ مُحْمُوْلٌ عَلَى التَّنْفِيلِ كَمَا أُعْطِيَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ سَهْمَيْنِ وَهُوَ رَاجِلٌ

ترجمہ..... اور غازی کو ایک گھوڑے سے زیادہ کا حصہ نہ دیا جائے۔ (یہی قول امام شافعی کا بھی ہے۔ اور یہی ظاہر الروایت ہے) اور ابو یوسفؒ نے کہا ہے کہ دو گھوڑوں کا حصہ دیا جائے۔ (یہی قول امام احمد کا بھی ہے) کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے دو گھوڑوں کا حصہ دیا ہے (چنانچہ ابو عمرہ بشیر ابن عمر بن محسن نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے دو گھوڑوں کو چار حصے اور مجھے ایک حصہ دیا۔ اس طرح مجھے پانچ حصے مل گئے۔ رواہ الدارقطنی۔ اور مکحول سے روایت ہے کہ براء رضی اللہ عنہ جنگ خیبر میں دو گھوڑے لائے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو پانچ حصے دیئے۔ (رواہ عبد الرزاق مرسلًا)

وَلِأَنَّ الْوَاحِدَ الْخِ اور اس دلیل سے کہ ایک گھوڑا کبھی تھک جاتا ہے۔ تو وہ دوسرے گھوڑے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اور طرفین یعنی امام ابو حنیفہ و محمدؒ کی دلیل یہ ہے کہ براء بن اوس رضی اللہ عنہ دو گھوڑے لے گئے تھے۔ اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ نے ان کو صرف ایک گھوڑے کا حصہ دیا تھا۔ اور اس وجہ سے بھی بیک وقت دو گھوڑوں سے قتال کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے حصہ پانے کا ظاہری سبب یعنی دونوں پر سوار ہو کر قتال کرنا اس کا سبب نہ ہو اس لئے ایک ہی گھوڑے کا حصہ دیا جائے گا۔ اور اسی وجہ سے اگر کوئی تین گھوڑے یا اس سے بھی زائد لے جائے تو بھی بالاتفاق دو سے زائد کا حصہ نہیں دیا جاتا ہے۔ اور امام ابو یوسفؒ نے جو حدیث روایت کی ہے کہ دو گھوڑوں

کا حصہ دیا گیا ہے وہ بطور نقد یا (انعام) زائد دینے پر محمول ہے جیسا کہ حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کو دو حصے دیئے گئے ہیں حالانکہ وہ پیدل ہی تھے۔ (جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں مذکور ہے)

تشریح..... وَلَهُمَا أَنْ الْبَرَاءَ..... الخ طرفین کی دلیل یہ ہے کہ براء بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو گھوڑے لے گئے تھے۔ پھر بھی رسول اللہ ﷺ نے ان کو ایک گھوڑے کا حصہ دیا۔ یہ حدیث غریب ہے بلکہ اس کے برعکس واقدی نے مغازی میں اور ابن مندہ نے کتاب الصحابہ میں براء بن اوس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو پانچ حصے دیئے۔ لیکن یہ روایت بھی غریب ہے۔ اور امام مالکؒ نے موطا میں کہا ہے کہ میں نے نہیں سنا ہے کہ ایک گھوڑے سے زیادہ کا حصہ دیا گیا ہو۔ اور امام شافعیؒ نے کہا ہے کہ ابو عمرہ کی حدیث منقطع ہے اور غیر محفوظ ہے۔ اگرچہ امام اوزاعی نے اسے مکحول سے منقطع قبول کر لیا ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ خود تین گھوڑے جن کا نام سکیب و ضریب و مرتجر تھے لائے تھے۔ پھر بھی آپ نے صرف ایک ہی گھوڑے کا حصہ لیا تھا۔

وَلَا الْقِتَالَ..... الخ ترجمہ سے مطلب واضح ہے۔

### عربی اور عجمی گھوڑے حصے میں برابر ہیں

وَالْبَرَادِيزُ وَالْعِتَاقُ سَوَاءٌ لِأَنَّ الْإِرْهَابَ مُضَافٌ إِلَى جِنْسِ الْخَيْلِ فِي الْكِتَابِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاسْمُ الْخَيْلِ يُطْلَقُ عَلَى الْبَرَادِيزِ وَالْعِتَاقِ وَالْهَجِينِ وَالْمُقْرِفِ إِطْلَاقًا وَاحِدًا وَلِأَنَّ الْعَرَبِيَّ إِنْ كَانَ فِي الطَّلَبِ وَالْهَرَبِ أَقْوَى وَالْبُرْدُونَ أَصْبَرَ وَالْيَنَ عَطْفًا فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنَفَعَةٌ مُعْتَبَرَةٌ فَاسْتَوِيََا

ترجمہ..... والبرادیزین..... الخ عجمی گھوڑا اور خالص عربی گھوڑا دونوں حصہ پانے میں برابر ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں خوف دلانا گھوڑوں کی جنس یعنی خیل کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ یعنی گھوڑے کا انتظام کر کے رکھو جس سے اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دشمنوں کو خوف دلاؤ۔ حالانکہ خیل کا لفظ عجمی گھوڑے اور عربی گھوڑے اور جس کی فقط ماں عربی ہو اور جس کا فقط باپ عربی ہو سب پر ایک ہی طرح بولا جاتا ہے۔ اور اس دلیل سے کہ عربی گھوڑا اگرچہ دشمن کا پیچھا کرنے یا خود پیچھے ہونے میں زیادہ قوی ہوتا ہے۔ تو دو غلے یعنی جس کے ماں باپ میں سے ایک عربی اور دوسرا عجمی ہو میں تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ اور اسے گھومانا آسان ہوتا ہے۔ اس لئے ہر ایک میں علیحدہ علیحدہ خصوصیت ہوتی ہے اور دونوں ہی صفتیں مفید اور معتبر ہوتی ہیں۔ اس لئے دونوں حکم میں بھی برابر رکھے گئے ہیں۔

بُرْدُونَ بَرْدُونَ سَنُوزُ کی جمع بَرَادِيزُ ہے۔ بُرْدُ - گھوڑا - غیر عربی۔ عِتَاقُ بروزن کتاب خالص عربی گھوڑے۔ (قاسمی)

مجاہد سواری پر دار الحرب میں داخل ہوا اس کا گھوڑا امر گیا یا وہ مجاہد جو پیدل

دار الحرب میں داخل ہوا اور پھر گھوڑا خریدا ان کو کتنا کتنا حصہ ملے گا

وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَارِسًا فَفَنَّقَ فَرَسُهُ اسْتَحَقَّ سَهْمُ الْفَرَسَانِ وَمَنْ دَخَلَ رَاغِلًا فَاشْتَرَى فَرَسًا اسْتَحَقَّ سَهْمُ



رَاجِلٌ وَجَوَابُ الشَّافِعِيِّ عَلَى عَكْسِهِ فِي الْفَصْلَيْنِ وَهَكَذَا رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ سَهْمَ الْفُرْسَانِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ عِنْدَنَا حَالَةَ الْمُجَاوِزَةِ وَعِنْدَهُ حَالُ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ لَهُ أَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْقَهْرُ وَالْقِتَالُ فَيُعْتَبَرُ حَالُ الشَّخْصِ عِنْدَهُ وَالْمُجَاوِزَةُ وَسِيلَةٌ إِلَى السَّبَبِ كَالْخُرُوجِ مِنَ الْبَيْتِ وَتَعْلِيقُ الْأَحْكَامِ بِالْقِتَالِ يَدُلُّ عَلَى إِمْكَانِ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ وَلَوْ تَعَذَّرَ أَوْ تَعَسَّرَ يُعْلَقُ بِشُهُودِ الْوُقُوعَةِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْقِتَالِ وَلَنَا أَنَّ الْمُجَاوِزَةَ نَفْسَهَا قِتَالٌ لِأَنَّهُ يُلْحَقُهُمُ الْخَوْفُ بِهَا وَالْحَالُ بَعْدَهَا حَالَةُ الدَّوَامِ وَلَا مُعْتَبَرُ بِهَا وَلِأَنَّ الْوُقُوفَ عَلَى حَقِيقَةِ الْقِتَالِ مُتَعَسِّرٌ وَكَذَا عَلَى شُهُودِ الْوُقُوعَةِ لِأَنَّهُ حَالُ التِّقَاءِ الصَّفَيْنِ فَتَقَامُ الْمُجَاوِزَةُ مَقَامَهُ إِذْ هُوَ السَّبَبُ الْمَفْضِي إِلَيْهِ ظَاهِرًا إِذَا كَانَ عَلَى قَصْدِ الْقِتَالِ فَيُعْتَبَرُ حَالُ الشَّخْصِ حَالَةَ الْمُجَاوِزَةِ فَارِسًا كَانَ أَوْ رَاجِلًا

ترجمہ..... اور جو شخص دارالحرب میں سوار ہو کر (سواری کے ساتھ) داخل ہوا۔ اور وہاں اس کا گھوڑا امر گیا تو بھی (حسب سابق) سواروں کے حصہ کا مال غنیمت سے مستحق ہوگا۔ اور جو شخص وہاں پیدل ہی داخل ہوا مگر وہاں پہنچ کر کسی طرح ایک گھوڑا خرید لیا تو بھی یہ شخص (حسب سابق) پیدل کا (ایک ہی حصہ کا) مالک ہوگا۔ اور امام شافعیؒ کے نزدیک دونوں صورتوں میں مذکورہ صورتوں کے برعکس حصہ پائے گا۔ (یہی قول مالکؒ و احمدؒ کا بھی ہے) اور ابن المبارکؒ نے امام ابو حنیفہؒ سے دوسری صورت میں یہی روایت کی ہے یعنی پیادہ نے دارالحرب میں داخل ہو کر گھوڑا خریدا اور اس پر سوار ہو کر قتال کیا تو یہ بھی سواروں کا حصہ پائے گا۔ (لیکن ظاہر الروایت قول اول ہے) حاصل کلام یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک سرحد پار کرتے وقت کی حالت کا اعتبار ہوگا۔ اور امام شافعیؒ کے نزدیک لڑائی ختم ہوتے وقت کی حالت کا اعتبار ہوگا۔ امام شافعیؒ کی دلیل ہے کہ غنیمت کے مستحق ہونے کا سبب قہر اور قتال ہے اس لئے ہر شخص کے اسی وقت کے حال کا اعتبار ہوگا اور سرحد سے گذر جانا اس سبب کا وسیلہ ہوتا ہے۔ جیسے گھر سے نکلنا (اور اگر یہ کیا جائے کہ قتال تو مخفی معاملہ ہوتا ہے۔ اس پر تو پوری واقفیت حاصل نہیں ہو سکتی ہے اسی لئے سرحد سے آگے چلے جانے کو اس کے قائم مقام بنایا گیا ہے۔ اس کا جواب دیا کہ) غزوہ میں قتال پر اس کے احکام متعلق کرنا قتال پر واقف ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر بالفرض اس کے قتال پر واقفیت مشکل ہو تو ان لوگوں کی گواہی سے بات معلوم ہو سکتی ہے جو اس کے ساتھ موجود ہوں کیونکہ وہ قتال میں ان سے قریب تر ہوں گے۔ (اس لئے صرف سرحد سے بڑھ جانا کافی اور مفید نہ ہوگا۔) اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اپنی سرحد سے گزر کر دشمن کی سرحد میں داخل ہو جانا ہی قتال کا ایک حصہ ہے کہ اسی سے کافروں کے دل دہل جاتے ہیں اس کے بعد ان پر یہی کیفیت طاری رہتی ہے۔ حالانکہ اس حالت کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ (چنانچہ اگر سوار کا گھوڑا امر جاتا ہے تب بھی بالاتفاق وہ سوار ہی کے حکم میں ہوتا ہے) اور اس دلیل سے کہ حقیقتاً کس حد تک جنگ ہوئی ہے اس سے واقف ہونا مشکل معاملہ ہے۔ اسی طرح میدان جنگ میں شریک لوگوں کی گواہی کا صحیح طور پر معلوم ہونا بھی بہت مشکل ہے۔ کیونکہ وہ وقت انتہائی مصروفیت اور صفوں میں گھسے رہنے اور قتال میں رہ کر دوسروں سے بے خبری کا وقت ہوتا ہے (کہ ہر شخص اپنی ہی لڑائی میں دل و جان کے ساتھ منہمک رہتا ہے۔ اور دوسرے کے پیادہ ہونے اور اس کے سوار رہنے نہ رہنے کو نہیں دیکھ پاتا ہے) اس لئے قتال کی تفصیل جاننے کے قائم مقام رکن کی سرحد میں داخل ہو جانے ہی کو سمجھ لیا گیا ہے کیونکہ بظاہر یہی سبب حقیقی قتال تک پہنچا دینے والا ہوتا ہے۔ بشرطیکہ وہ جہاد کے ارادہ سے ہی وہاں داخل ہوا ہو۔ اسی لئے مجاہد کی اسی کیفیت اور حالت کا اعتبار ہوتا ہے جو سرحد میں داخل ہونے کے وقت ہوئی ہو۔ لہذا اگر وہ اس وقت سوار ہو



گا تو بعد میں بھی سوار ہی سمجھا جائے گا اور اگر اس وقت پیادہ ہو تو بعد میں اسے پیادہ ہی کا حکم دیا جائے گا۔

ایک مجاہد گھوڑے پر دار الحرب میں داخل ہوا لیکن جگہ کی تنگی کی وجہ سے  
پیدل قتال کیا اس کو کتنا حصہ ملے گا

وَلَوْ دَخَلَ فَارِسًا وَقَاتَلَ رَاجِلًا لَصِيقُ الْمَكَانِ يَسْتَحِقُّ سَهْمَ الْفَرَسَانِ بِاتِّفَاقٍ وَلَوْ دَخَلَ فَارِسًا مَعَ فَرَسِهِ  
أَوْ وَهَبَ أَوْ اجْتَرَأَوْا رَهْنًا فَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَسْتَحِقُّ سَهْمَ الْفَرَسَانِ اِعْتِبَارًا لِلْمُجَاوِزَةِ وَفِي ظَاهِرِ  
الرِّوَايَةِ يَسْتَحِقُّ سَهْمَ الرَّجَالَةِ لِأَنَّ الْأَقْدَامَ عَلَى هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ بِالْمُجَاوِزَةِ  
الْقِتَالُ فَارِسًا وَلَوْ بَاعَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ لَمْ يَسْقُطْ سَهْمُ الْفَرَسَانِ وَكَذَا إِذَا بَاعَ فِي حَالَةِ الْقِتَالِ عِنْدَ الْبَعْضِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ  
يَسْقُطُ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَرَضَهُ التَّجَارَةَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ يَنْتَظِرُ عِزَّتَهُ

ترجمہ..... البتہ اگر سرحد میں داخل ہوتے وقت کوئی سوار ہو مگر جگہ کی تنگی یا کسی خاص وجہ سے پیدل ہی قتال کیا تو بھی وہ بالاتفاق سواروں  
کے حصہ کا مستحق ہوگا اور اگر سوار داخل ہوا پھر اس نے اپنا گھوڑا فروخت کر دیا یا کسی کو بہہ کر دیا یا اجرت پر دے دیا یا رہن کر دیا تو حسن نے  
ابو حنیفہ سے روایت کی ہے کہ وہ سواروں کے حصہ کا مستحق ہوگا اسی وجہ سے کہ وہ سرحد میں داخل ہوتے وقت سوار تھا۔ لیکن ظاہر الروایت یہ  
ہے کہ وہ پیدلوں کے حصہ کا مستحق ہوگا۔ کیونکہ بیع وغیرہ کے معاملات کرنے میں یہ دلیل موجود ہے کہ سرحد سے اترتے وقت ہی اس کا  
ارادہ قتال کرنے کا نہیں تھا۔ اور اگر اس نے لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد گھوڑا فروخت کیا ہو تو اسے سواروں کا حصہ جو ملنے والا تھا ختم نہ  
ہوگا۔ اور اگر لڑائی کی حالت میں فروخت کیا ہو تب بھی بعضوں کے نزدیک اس کا سواروں کا حصہ ختم نہ ہوگا۔ لیکن قول اصح یہ ہے کہ وہ حصہ  
ساقط ہو جائے گا۔ کیونکہ اس کا گھوڑے کو فروخت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ گھوڑے کو لانے کا مقصد تجارت کرنا تھا لیکن اس کو صرف  
اس بات کا انتظار تھا کہ قتال شروع ہو جائے تاکہ اس کی قیمت بڑھ جائے۔

غلام، عورت، بچے، مجنون، ذمی کیلئے مال غنیمت کا حکم

وَلَا يُسْهَمُ لِمَمْلُوكٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا ذِمِّيٍّ وَلَكِنْ يُرْضَخُ لَهُمْ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَى الْإِمَامُ  
لِمَا رَوَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يُسْهَمُ لِلنِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ وَالْعَبِيدِ وَلَكِنْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُمْ وَلَمَّا اسْتَعَانَ عَلَيْهِ  
السَّلَامُ بِالْيَهُودِ عَلَى الْيَهُودِ لَمْ يُعْطِهِمْ شَيْئًا مِنَ الْغَنِيمَةِ يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يُسْهَمْ لَهُمْ وَلِأَنَّ الْجِهَادَ عِبَادَةً وَالذِّمِّيَّ  
لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ وَالصَّبِيَّ وَالْمَرْأَةَ عَاجِزَانِ عَنْهُ وَلِهَذَا لَمْ يُلْحَقْهُمَا فَرَضُهُ وَالْعَبْدُ لَا يُمْكِنُهُ الْمَوْلَى وَلَهُ  
مَنْعُهُ إِلَّا أَنَّهُ يُرْضَخُ لَهُمْ تَحْرِيطًا عَلَى الْقِتَالِ مَعَ إِظْهَارِ انْحِطَاطِ رُتَبَتِهِمْ وَالْمُكَاتَبُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ لِقِيَامِ الرِّقِّ  
وَتَوَهُمِ عَجْزِهِ فَيَمْنَعُهُ الْمَوْلَى عَنِ الْخُرُوجِ إِلَى الْقِتَالِ ثُمَّ الْعَبْدُ إِنَّمَا يُرْضَخُ لَهُ إِذَا قَاتَلَ لِأَنَّهُ دَخَلَ لِيُخْدَمَةَ  
الْمَوْلَى فَصَارَ كَالْتَا جِرْوِ الْمَرْأَةِ تُرْضَخُ لَهَا إِذَا كَانَتْ تُدَاوِي الْجَرَحَ وَتَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى لِأَنَّهَا عَاجِزَةٌ عَنْ  
حَقِيقَةِ الْقِتَالِ فَتُقَامُ هَذَا النَّوعُ مِنَ الْإِعَانَةِ مَقَامَ الْقِتَالِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى حَقِيقَةِ الْقِتَالِ وَالذِّمِّيُّ  
إِنَّمَا يُرْضَخُ لَهُ إِذَا قَاتَلَ أَوْ دَلَّ عَلَى الطَّرِيقِ وَلَمْ يُقَاتِلْ لِأَنَّ فِيهِ مَنَفَعَةً لِلْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنَّهُ يَزَادُ عَلَى سَهْمِهِمْ فِي



الدَّلَالَةُ إِذَا كَانَتْ فِيهِ مَنَفَعَةٌ عَظِيمَةٌ وَلَا يُبْلَغُ بِهِ السَّهْمُ إِذَا قَاتَلَ لِأَنَّهُ جِهَادٌ وَالْأَوَّلُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِهِ وَلَا يُسَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ فِي حُكْمِ الْجِهَادِ

ترجمہ..... اور غنیمت میں سے ان لوگوں کو کوئی مقررہ حصہ نہیں دیا جائے گا یعنی غلام و عورت و بچہ اور ذمی کو البتہ کھانے کے طور پر کچھ دیدیا جائے گا جو اس وقت امام المسلمین اپنی سمجھ میں مناسب جانے۔ اس روایت کی وجہ سے کہ رسول اللہ ﷺ عورتوں اور بچوں اور غلاموں کا حصہ نہیں لگاتے تھے۔ لیکن ان کو کچھ کھانے کے طور پر دیتے تھے۔ مسلم و ابوداؤد اور ترمذی نے اس کی روایت کی ہے۔ اور جب رسول اللہ ﷺ نے خیبر کے یہودیوں پر مدینہ کے یہودیوں سے کچھ مدد لی تھی تو غنیمت میں سے ان کو کچھ بھی حصہ نہیں دیا تھا بلکہ کچھ کھانے کے طور پر دیا تھا۔ اس کی روایت شافعی بیہقی اور واقدی نے ضعیف سند سے کی ہے۔ اور اس دلیل سے بھی ان کو کچھ نہیں دیا جائے گا کہ جہاد ایک بڑی عبادت ہے اور ذمی و کافر میں عبادت کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے (مدینہ کے یہودیوں سے جو مدد لی گئی تھی شاید اس حد تک تھی کہ ان سے رہنمائی کی مدد لی گئی ہو اور شاید کہ ضرورت کی وجہ سے لڑائی میں ہو) اور بچہ اور عورت دونوں عموماً جہاد کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ اسی لئے ان دونوں پر جہاد فرض نہیں ہے اور غلام پر اس لئے فرض نہیں ہے کہ اس کا مولیٰ اجازت نہیں دے سکتا ہے اور اگر اجازت دی بھی ہو تب بھی اسے یہ حق رہتا ہے کہ جب چاہے روک دے لیکن امام المسلمین کو چاہئے کہ ان لوگوں کو بھی کچھ مال کھانے کے طور پر دیدے تاکہ ان کو بھی لڑائی پر ترغیب ہو۔ باوجودیکہ ان کو کم مرتبہ کا ظاہر کیا گیا ہے اور مکاتیب بھی غلام ہی کے حکم میں ہوگا۔ کیونکہ اس میں بھی غلامی باقی ہے۔ پھر یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی قیمت بدل کتابت ادا کرنے سے عاجز ہو جائے۔ اس وقت اس کا مولیٰ اسے قتال میں جانے سے روک دے گا اور غلام کو کھانے کے لئے بھی اسی صورت میں کچھ دیا جائے گا جبکہ اس نے واقعتاً قتال کیا ہو۔ ورنہ نہیں کیونکہ اس صورت میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ اگرچہ لشکر کے ساتھ گیا ہے مگر اپنے مولیٰ کی خدمت کی نیت سے۔ اس لئے اس کی مثال بازاری تاجر کی جیسی ہو گئی اور عورت کو اس غنیمت سے کچھ مال کھانے کے لئے اسی صورت میں دیا جائے گا جبکہ وہ زخمیوں کی دوا اور بیماروں کی دیکھ بھال کرتی ہو۔ کیونکہ حقیقت میں عورت لڑائی سے عاجز ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا اس قسم کی مدد کر دینا ہی اس کی لڑائی کے قائم مقام ہے۔ بخلاف غلام کے کہ وہ حقیقت میں قتال کر سکتا ہے۔ اور ذمی کو مال غنیمت سے کھانے کے طور پر بھی اسی صورت میں دیا جائے گا کہ واقعتاً اس نے قتال کیا ہو یا اس کے بغیر بھی اس نے صرف راستہ بتلایا ہو۔ کیونکہ اس میں مسلمانوں کو نفع ہو جاتا ہے۔ پھر معلوم ہونا چاہئے کہ اس مخبری یا رہبری میں اگر کوئی بڑا نفع ہو تو اس کو غازیوں کے حصہ سے بھی زیادہ حصہ دیا جائے گا۔ اور اگر اس نے صرف قتال کیا ہو تو جو کچھ اس کو دیا جائے وہ غازی کے حصہ سے کم ہوگا۔ اس کے برابر نہیں دینا ہوگا۔ کیونکہ صرف راہ نمائی اصل جہاد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ جہاد کے کام میں مسلمان اور کافر ذمی کے درمیان برابری نہیں کی جائے گی۔

لغوی تحقیق... ع۔ ریض، ضا اور خاء معجمہ (نقطہ والے دونوں حروف سے) رضح فلاں، کسی کو کچھ مال دینا۔ قاسمی

### خمس کی تقسیم کا طریقہ

وَأَمَّا الْخُمْسُ فَيُقَسَّمُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْهُمٍ لِلْيَتَامَى وَنَحْوِهِمْ لِبَنِي السَّبِيلِ يَدْخُلُ فَقَرَاءُ ذَوِي الْقُرْبَى فِيهِمْ وَيُقَدَّمُونَ وَلَا يُدْفَعُ إِلَى أَغْنِيَاءِهِمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَهُمْ خُمُسُ الْخُمْسِ يَسْتَوِي فِيهِ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ



وَيُقَسِّمُ بَيْنَهُمْ لِلذِّكْرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَىٰ وَيَكُونُ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ دُونَ غَيْرِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ مِنْ غَيْرِ فَصَلِّ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَلَنَا أَنَّ الْخُلَفَاءَ الْأَرْبَعَةَ الرَّاشِدِينَ قَسَمُوهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُمٍ عَلَى نَحْوِ مَا قُلْنَا لَهُ وَكَفَى بِهِمْ قُدُوءٌ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَامَعْشَرَ بَنِي هَاشِمٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ كَرِهَ لَكُمْ غُسَالَةَ النَّاسِ وَأَوْسَاحَهُمْ وَعَوَضَكُمْ مِنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ وَالْعَوَضُ إِنَّمَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ مَنْ يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ الْمَعْوَضُ وَهُمْ الْفُقَرَاءُ وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْطَاهُمْ لِلنُّصْرَةِ الْآتَرَىٰ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّلَ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَن يَزَالُوا مَعِيَ هَكَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ النَّصْرِ قُرْبُ النَّصْرَةِ لَا قُرْبُ الْقَرَابَةِ

ترجمہ..... اور غنیمت کا پانچواں حصہ جو امام نے سب سے پہلے خاص کیا تھا اسے بھی تین حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ یتیموں کے لئے دوسرا حصہ مسکینوں کے لئے اور تیسرا حصہ ابن السبیل کے لئے خاص کیا جائے گا۔ جن میں رسول اللہ ﷺ کے محتاج قرابت دار داخل ہوں گے اور ان ہی کو سب سے مقدم کیا جائے گا۔ لیکن ان میں وہ قرابت دار جو مالدار ہوں گے ان کو نہیں دیا جائے گا۔ اور امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ اہل قرابت کو غنیمت کے پانچویں حصہ سے پانچواں حصہ دیا جائے گا۔ پھر اس حصہ میں مالدار اور فقیر سب برابر ہوں گے۔ یہ مال ان سب لوگوں میں ایک عورت کے مقابلہ میں مرد کو دو گنا کے حساب سے ملے گا۔ اور رسول اللہ ﷺ کے اہل قرابت میں سے صرف بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لئے ہوگا۔ یعنی خاندان کے دوسرے لوگوں کو نہیں ملے گا یعنی بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو نہیں ملے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ولذی القربی یعنی قرابت داروں کیلئے ہے۔ یہ قرابت دار مالدار اور محتاج سب کو عام ہے کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ چاروں خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پانچواں حصہ غنیمت کو اسی طرح تین حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی بیان کیا ہے۔ ہمارے لئے ان کی پیشوائی اور قیادت ہی کافی ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے اے گروہ بنی ہاشم تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے میل کچیل کے استعمال کو مکروہ جانا ہے۔ یعنی زکوٰۃ لینے اور کھانے کو مکروہ بتایا ہے۔ اور اس کے عوض تم کو غنیمت کا خمس یعنی پانچواں حصہ دیا ہے۔ جیسا کہ صحیح میں ہے۔ اور کسی چیز کا عوض اسی کو دیا جاتا ہے جو اصل کا مستحق اور حق دار ہوتا ہے اور یہ حقیقی مستحق محتاج لوگ ہوتے ہیں۔ (یعنی اگر زکوٰۃ کا مال دیا جاتا تو وہ صرف رسول اللہ ﷺ کے ان قرابت داروں کو ملتا جو محتاج ہوتے اور اغیار کو نہ ملتا اور چونکہ زکوٰۃ مالداروں کا میل کچیل ہے البتہ مالداروں کو غنیمت سے دینے کا حق رکھا گیا اور ان کو دیا گیا اس لئے اب یہ خمس صرف محتاجوں کے لئے مخصوص ہوا) اور رسول اللہ ﷺ نے بنو ہاشم کے ساتھ بنو مطلب کو بھی اس لئے حقدار بتایا کہ انہوں نے ہمیشہ رسول اللہ ﷺ کی نصرت اور مددگاری فرمائی تھی۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے جو اس کی یہ علت بتائی ہے کہ یہ لوگ برابر میرے ساتھ زمانہ جاہلیت ہو یا زمانہ اسلام ہو میرے ساتھ برابر اس طرح رہے اور یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی انگلیاں ملا کر دکھائیں (ابوداؤد اور نسائی نے اس کی روایت کی ہے)۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آیت میں صاحب قرابت سے نسبی قرابت مراد نہیں ہے بلکہ نصرت اور مدد کی قرابت مراد ہے۔ ایک سوال۔ آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ تم لوگ جو غنیمت پاؤ اس کا پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ان کے قرابت داروں اور یتیموں، مسکینوں اور ابن السبیل کے لئے ہے۔ لیکن اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہونے کا کیا مطلب ہے۔ اور یہ کہ رسول اللہ ﷺ کے حصہ کا کیا ہوگا۔ تو مصنفؒ نے اس کا جواب دیا۔



### آیت خمس میں اللہ کے نام کی حکمت اور آپ ﷺ کے حصے کا حکم

قَالَ فَأَمَّا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْخُمْسِ فَإِنَّهُ لِفَتْحِ الْكَلَامِ تَبَرُّكَ بِأَسْمِهِ وَسَهْمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَقَطَ بِذَوْتِهِ كَمَا سَقَطَ الصَّفِيُّ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَسْتَحِقُّ بِرِسَالَتِهِ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ وَالصَّفِيُّ شَيْءٌ كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَصْطَفِيهِ لِنَفْسِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ مِثْلَ دِرْعٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ جَارِيَةٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُصْرَفُ سَهْمُ الرَّسُولِ إِلَى الْخَلِيفَةِ وَالْحُجَّةِ عَلَيْهِ مَا قَدَّمَ نَاهُ وَسَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى كَانُوا يَسْتَحِقُّونَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْفُضْرَةِ لِمَا رَوَيْنَا

ترجمہ..... مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ پانچویں حصہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر اس مبارک نام سے کلام شروع کرنے کے لئے ہے۔ یعنی اس ذات پاک کو کسی حصہ سے کوئی مقصود نہیں ہے۔ اور رسول اللہ کے نام اگرچہ حصہ ہوتا تھا مگر آپ کی وفات سے وہ حصہ اب موقوف ہو گیا جیسا کہ بالاتفاق صنفی موقوف ہو گیا ہے۔ کیونکہ رسول اکرم اپنی رسالت کی وجہ سے اس کے مستحق ہوئے تھے۔ اور آپ کے بعد کوئی دوسرا اس کا مستحق نہیں رہا اس بناء پر خلفائے راشدین میں سے کسی نے اسے نہیں لیا (صنفی، وہ شیء ہے جس کا رسول اللہ کو اختیار تھا کہ پورے مال غنیمت سے اپنی ذات مبارکہ کے لئے پسند فرمائیں۔ مثلاً زرہ، تلوار، قیدی اور باندی۔ مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ کا حصہ آپ کے خلیفہ کو دیا جائے۔ لیکن اس قول کے خلاف ہماری دلیل وہ ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یعنی یہ کہ رسول اللہ کے بعد دوسرا کوئی رسول نہیں ہے۔ اور اگر یہ جائز ہوتا تو خلفائے راشدین اسے اپنے حق کی بناء پر ضرور لیتے۔ حالانکہ ان میں سے کسی نے بھی نہیں لیا۔ بلکہ پانچویں حصہ کو تین ہی ٹکڑوں پر تقسیم کیا۔ اور رسول اللہ کے زمانہ میں آپ کے قرابت دار چونکہ ہر زمانہ دکھ اور سکھ میں آپ کی مدد کرتے آئے تھے اس لئے وہ بھی خمس میں سے حصہ کے مستحق ہوتے تھے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔

### خمس سے فقیر کو دینے کا حکم

قَالَ وَبَعْدَهُ بِالْفَقْرِ قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ عَصَمَهُ اللَّهُ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ قَوْلُ الْكَرَّخِيِّ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ سَهْمُ الْفَقِيرِ مِنْهُمْ سَاقِطٌ أَيْضًا لِمَا رَوَيْنَا مِنَ الْإِجْمَاعِ وَلِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الصَّدَقَةِ نَظَرًا إِلَى الْمَصْرَفِ فَيَحْرُمُ كَمَا يَحْرُمُ الْعُمَالَةُ وَجْهُ الْأَوَّلُ وَقِيلَ هُوَ الْأَصَحُّ مَا رَوَى أَنَّ عُمَرَ أُعْطِيَ الْفُقَرَاءَ مِنْهُمْ وَالْإِجْمَاعُ انْعَقَدَ عَلَى سُقُوطِ حَقِّ الْأَغْنِيَاءِ أَمَّا فَقَرَاؤُهُمْ يَدْخُلُونَ فِي الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ

ترجمہ..... اور قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ کی وفات شریف کے بعد وہ اپنی محتاجی کی وجہ سے مستحق ہیں اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہاں تک جو قول مذکور ہوا امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ قرابت داروں میں محتاجوں کا حصہ بھی ساقط ہو گیا ہے۔ اس اجماع کی وجہ سے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں (کہ خلفائے راشدین صرف تین ہی حلقے نکالتے تھے۔ پس ظاہر ہوا کہ ان محتاج قرابت داروں کا حصہ بھی ساقط ہو گیا تھا۔ اور اس دلیل سے بھی کہ اس حصہ میں مصرف کے اعتبار سے یہ صدقہ کے معنی میں ہے۔ یعنی ان کی احتیاج اور ضرورت دیکھ کر ان کو صدقہ کے طور پر دیا جاتا تھا۔ لہذا قرابت داروں پر وہ مال حرام ہوگا۔ جیسے کہ اگر کوئی ہاشمی عامل ہو تو اس کو اس مال سے لینا حرام ہوگا۔ لیکن کہا گیا ہے کہ قول اول اصح ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو



حضرت عمرؓ سے روایت ہوئی کہ آپ نے قرابت داروں میں سے فقراء کو حصہ دیا ہے۔ اور خلفاء کا جو اجماع ثابت ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ تو نگروں اور مالداروں کا حصہ اس میں سے ساقط ہو گیا ہے۔ لیکن ان قرابت داروں کے فقراء تو وہ بھی یتیموں، مسکینوں اور ابن السبیل میں داخل ہیں۔ بلکہ انہی کو دوسروں پر ترجیح ہوگی۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔

ایک دو آدمی دار الحرب میں داخل ہو کر لوٹ مار کر کے آئیں ان سے خمس نہیں لیا جائے گا

وَإِذَا دَخَلَ الْوَاحِدُ أَوِ الْإِثْنَانِ دَارَ الْحَرْبِ مُغِيرِينَ بَغِيرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَأَخَذُوا شَيْئًا لَمْ يُخْمَسْ لِأَنَّ الْغَنِيمَةَ هُوَ الْمَاخُوذُ قَهْرًا وَغَلَبَةً لَا اخْتِلَاسًا وَسَرَقَةً وَالْخُمْسُ وَظِيفَتُهَا وَلَوْ دَخَلَ الْوَاحِدُ أَوِ الْإِثْنَانِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَفِيهِ رَوَايَتَانِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُخْمَسُ لِأَنَّهُ لَمَّا أُذِنَ لَهُمُ الْإِمَامُ فَقَدْ التَّزَمَ نُصْرَتَهُمْ بِالْإِمْدَادِ فَصَارَ كَالْمَنْعَةِ

ترجمہ..... اگر ایک دو آدمی امام کی اجازت کے بغیر از خود لوٹ مار کی غرض سے دار الحرب میں داخل ہوں اور ان سے کچھ مال لے کر آجائیں تو ان سے پانچواں حصہ نہیں لیا جائے گا۔ کیونکہ یہ لوٹا ہوا مال غنیمت میں سے شمار نہیں ہوگا اس لئے کہ غنیمت وہ چیز ہوتی ہے جو قہر و غلبہ سے حاصل کی جائے اچک کر یا چوری سے لیا ہوا مال غنیمت نہیں ہوتا ہے۔ اور پانچواں حصہ تو مال غنیمت سے لیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ ایک دو آدمی بھی امام کی اجازت یا اس کے حکم پر جائیں تو ان کے لئے مال کے بارے میں دو روایتیں ہیں (ایک روایت میں خمس لیا جائے گا۔ اور دوسری میں نہیں لیا جائے گا۔) اگرچہ مشہور قول یہی ہے کہ اس سے بھی خمس لیا جائے گا کیونکہ جب امام نے اسے اجازت دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تمہاری پشت پر ہوں۔ بوقت ضرورت تمہاری مدد کو آنا ہماری ذمہ داری ہوگی۔ اس طرح یہ ایک یا دو آدمی بھی ایسی جماعت کے حکم میں ہوں گے جن کو اچھی طاقت مقابلہ حاصل ہو۔

اگر ایک جماعت ذی طاقت دار الحرب میں امام کی اجازت کے بغیر داخل ہو کر لوٹ مار کر کے لائی ان سے خمس لیا جائے گا

فَإِنْ دَخَلَتْ جَمَاعَةٌ لَهُا مَنَعَةٌ فَأَخَذُوا شَيْئًا خُمِسَ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُمُ الْإِمَامُ لِأَنَّهُ مَّا خُوذُ قَهْرًا وَغَلَبَةً فَكَانَ غَنِيمَةً وَ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْصُرَهُمْ إِذْ لَوْ خَذَلَهُمْ كَانَ فِيهِ وَهْنُ الْمُسْلِمِينَ بِخِلَافِ الْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ نُصْرَتُهُمْ

ترجمہ..... اور اگر ایسی جماعت دار الحرب میں داخل ہوئی جس کو مقابلہ کی طاقت حاصل ہو اور وہ لوگ وہاں سے کچھ مال لے کر آجائیں تو اس میں سے پانچواں حصہ لیا جائے گا اگرچہ امام نے ان کو اجازت نہ دی ہو کیونکہ ان لوگوں نے جو کچھ مال ان سے لیا ہے وہ زبردستی اور طاقت کے زور سے لیا ہے لہذا یہ غنیمت کا مال ہوگا اور اس لئے بھی کہ امام پر ان کی مدد کو جانا اور مدد پہنچانا واجب ہے۔ کیونکہ اگر ان کی مدد نہ کی جائے تو اس سے مسلمانوں کے حق میں کمزوری اور انتشار ہوگا۔ بخلاف اس صورت کے کہ امام کی اجازت کے بغیر صرف ایک دو آدمی گئے ہوں کہ ان لوگوں کی مدد کرنا امام پر واجب نہیں ہے۔



## فَصْلٌ فِي التَّنْفِيلِ

ترجمہ..... فصل: تنفیل کے بیان میں ہے۔

### تنفیل کا حکم

قَالَ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُنْفَلَ الْإِمَامُ فِي حَالِ الْقِتَالِ وَيُحَرِّضَ عَلَى الْقِتَالِ فَيَقُولَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ وَيَقُولَ لِلْسَّرِيَّةِ قَدْ جَعَلْتُ لَكُمْ الرُّبْعَ بَعْدَ الْخُمْسِ مَعْنَاهُ بَعْدَ مَارْفَعِ الْخُمْسِ لِأَنَّ التَّحْرِيطَ مُنْدُوبٌ إِلَيْهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ وَهَذَا نَوْعُ تَحْرِيطٍ ثُمَّ قَدْ يَكُونُ التَّنْفِيلُ بِمَا ذُكِرَ وَ قَدْ يَكُونُ بغيرِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُنْفَلَ بِكُلِّ الْمَاخُوذِ لِأَنَّ فِيهِ إِبْطَالٌ حَقِّ الْكُلِّ فَإِنْ فَعَلَهُ مَعَ السَّرِيَّةِ جَازِلًا لَأَنَّ التَّصَرُّفَ إِلَيْهِ وَ قَدْ تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ

ترجمہ..... اس بات میں کچھ حرج نہیں ہے کہ امام المسلمین کافروں سے قتال کرتے وقت تنفیل کر کے (ف) بھل بمعنی زائد اور تنفیل وہ مال جو امام کسی کو اس کے اپنے ملنے والے حصہ سے زائد دینے کو کہے (ان کو قتال پر آمادہ کرے یہ کہہ کر کہ جس نے کسی کافر کو قتل کیا تو اس مقتول کا سامان اسی کا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی چھوٹے لشکر کو بھیجے تو اس سے یوں کہے کہ غنیمت کا پانچواں حصہ نکالنے کے بعد ایک چوتھائی تہارے واسطے بطور نفل ہے۔ کیونکہ قتال پر آمادہ کرنا مستحب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ کو فرمایا ہے کہ آپ مؤمنوں کو جہاد پر آمادہ کریں اور یہ تنفیل بھی آمادہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ پھر تنفیل کبھی اسی بیان کئے ہوئے طریقہ سے ہوتی ہے اور کبھی دوسرے طریقہ سے بھی ہوتی ہے۔ بہر صورت امام کو ایسا نہیں کرنا چاہئے کہ غنیمت کے کل مال کو اسی طرح تنفیل کر دے یا انعام میں دینے کا اعلان کر دے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے دوسرے تمام غازیوں کی حق تلفی ہوگی۔ البتہ اگر چھوٹے لشکر کو یوں کہہ دے کہ جو کچھ تم حاصل کرو وہ سب تمہارا ہی ہو جائے گا تو یہ کہنا جائز ہوگا کیونکہ اس قسم کے تمام تصرفات کا حق اسی کو ہے اور کبھی ایسا کرنے میں مصلحت بھی ہوتی ہے۔

مال غنیمت جب جمع ہو کر دارالاسلام آجائے پھر تنفیل درست نہیں

وَلَا يُنْفَلُ بَعْدَ إِحْرَازِ الْغَنِيمَةِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ حَقَّ الْغَيْرِ قَدْ تَأَكَّدَ فِيهِ بِالْإِحْرَازِ

ترجمہ..... الخ امام مال غنیمت کو دارالاسلام میں لے آنے کے بعد تنفیل کا اعلان نہیں کرے گا۔ کیونکہ غنیمت کو دارالاسلام میں لا کر محفوظ کر لینے کے بعد دوسرے لوگوں کا حق قوی اور مستحکم ہو جاتا ہے۔

## خمس سے تنفیل دینے کا حکم قَالَ الْأَمِيرُ الْخُمْسِ

ترجمہ..... قَالَ الْأَمِيرُ الْخُمْسِ الخ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ سوائے خمس کے امام تنفیل کا اعلان کر سکتا ہے لیکن اسے یہ اختیار نہیں ہوتا کہ غنیمت کے پانچویں حصہ (خمس) میں سے بھی تنفیل کرے۔

## خمس تنفیل نہ دینے کی دلیل

لأنه لا حق للغائبين في الخمس وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جُملة الغنيمَةِ والقاتل وغيره في ذلك سواء وقال الشافعي السلب للقاتل إذا كان من أهل أن يسهم له وقد قتلته مُقبلاً لقوله عليه السلام من قتل قتيلاً فله سلبه والظاهر أنه نصب شرع لأنه بعث له لأن القاتل مُقبلاً أكثر غناءً فيختص بسلبه إظهاراً لل تفاوت بينه وبين غيره ولنا أنه ما خوذ بقوة الجيش فيكون غنيمَةً فيقسم قسم الغنائم كما نطق به النص وقال عليه السلام لحبيب بن أبي سلمة ليس لك من سلب قتيلىك إلا ما طابت به نفس إمامك وما رواه يَحْتَمِلُ نصب الشرع ويَحْتَمِلُ التنفيل فنحمله على الثاني لما روينا من زيادة الغناء لا يُعتبر في جنس واحد كما ذكرناه

ترجمہ..... اس پانچویں حصہ میں غازیوں کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے۔ اور جبکہ امام نے مقتول کا سامان اس کے قتل کرنے والے غازی کے لئے (اعلان عام کے) نہ کیا ہو تو اس مقتول کا سامان دوسرے تمام سامان غنیمت میں سے ہو جائے گا یعنی وہ مال اس کے قاتل اور مقتول کے درمیان استحقاق کے لحاظ سے برابر ہوگا۔ (یہی قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے) اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ابو احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر غازی قاتل اس بات کا اہل ہو کہ اسے غنیمت سے حصہ دیا جاسکے۔ اور اس نے کافر مقتول کو اس حالت میں قتل کیا ہو کہ وہ لڑنے کے لئے سامنے تیار تھا تو اس کا سامان اس کے قاتل کے لئے ہوگا۔ اس لئے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی کسی کافر کو قتل کر دے تو اس کافر کا سامان اسی قاتل کا ہوگا۔ بخاری و مسلم نے اس کی روایت کی ہے۔ اور ظاہر حدیث یہ ہے کہ آپ نے اس طرح ایک قاعدہ اور طریقہ مقرر فرمادیا ہے کیونکہ آپ کی بعثت تو اسی لئے ہوئی تھی۔ اور اس وجہ سے بھی کہ قاتل نے جب ایک ایسے کافر کو قتل کیا جو خود بھی کسی مسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا تو اس وقت اس کافر کو قتل کر کے اس قاتل نے مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ پہنچایا ہے۔ اسی لئے اس مقتول کا سامان اس کے قاتل کے لئے مخصوص ہو جائے گا۔ تاکہ قاتل اور مقتول کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے۔

اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اس کا سامان ایک لشکر کی اجتماعی قوت کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ اس لئے یہ عام غنیمت میں سے ہوگا۔ لہذا حکم نص کے مطابق غنیمت کے طور پر ہی تقسیم ہوگا۔ نیز اس لئے کہ رسول اللہ نے جب حبیب بن ابی سلمہ کو فرمایا کہ تمہارے مقتول کے سامان سے تمہارا کچھ حصہ نہیں ہے۔ البتہ صرف اتنا ہے جتنا تمہارا امام اپنی رضامندی سے تم کو دے دے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث روایت کی ہے اس میں دو باتوں کا احتمال ہے ایک یہ کہ واقعہ آپ نے یہ ایک قانون بنا دیا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ تنفیل ہو پس ہم حبیب بن ابی سلمہ کی اس حدیث کی بناء پر دوسرے احتمال پر محمول کرتے ہیں۔ اور یہ بات کہ قاتل کا سامان آنے والے کو قتل کر کے زیادہ نفع



پہنچانا تو یہ ایک ہی جنس میں مفید نہیں ہے۔ (یعنی سامنے آنے والے قاتل کو قتل کرنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک سامان دلانے کا زیادہ حقدار بناتا ہے۔ یہاں تک کہ بھاگتے ہوئے کافر کو یا کسی کام میں مشغول یا سوتے ہوئے کو قتل کرنا حق دار بننے کا سبب نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ لڑائی کے میدان میں یہ ساری صورتیں ایک ہی جیسی اور ایک ہی حکم میں آتی ہیں۔ اس بناء پر سامنے آنے والے کو قتل کرنے کا بھی اعتبار نہ ہوگا۔ لیکن یہ بات مخفی نہیں رہنی چاہئے کہ حبیب بن ابی مسلمہ کی حدیث اگرچہ طبرانی وابن مردویہ نے کئی سندوں سے روایت کی ہے۔ لیکن یہ ساری روایتیں ہی ضعیف ہیں اور شیخ ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ طرق مختلف ہو جانے سے اس میں قوت آگئی ہے۔ اسی بناء پر ہم نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کو تنفیل پر محمول کیا ہے۔ لیکن بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد رسول اللہ نے یہ حکم فرمادیا تھا کہ مقتول کا اسباب اس کے قاتل کا ہوگا اور اسی پر حکم طے پاچکا ہے۔ فافہم۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### سلب کی تعریف اور اس کا حکم

وَالسَّلْبُ مَا عَلَى الْمَقْتُولِ مِنْ ثِيَابِهِ وَسِلَاحِهِ وَمَرْكَبِهِ وَكَذَآ مَا كَانَ عَلَى مَرْكَبِهِ مِنَ السَّرَجِ وَالْأَلَةِ وَكَذَآ مَا مَعَهُ عَلَى الدَّابَّةِ مِنْ مَالِهِ فِي حَقِيبَتِهِ أَوْ عَلَى وَسْطِهِ وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَلَيْسَ بِسَلْبٍ وَمَا كَانَ مَعَ غُلَامِهِ عَلَى دَابَّةٍ أُخْرَى فَلَيْسَ بِسَلْبِهِ ثُمَّ حُكْمُ التَّنْفِيلِ قَطْعُ حَقِّ الْبَاقِينَ فَأَمَّا الْمَلِكُ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ بَعْدَ الْإِخْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ لِمَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ

ترجمہ..... اور سلب مقتول یعنی اس کا سامان وہی سامان کہلاتا ہے جو اس کے بدن پر ہو مثلاً کپڑے، ہتھیار اور اس کا گھوڑا، سواری اور وہ چیزیں جو اس سواری پر ہوں مثلاً زین، لگام وغیرہ۔ اور جو کچھ مال اس کے جانور کی حورجی (بڑے تھیلے یا اس کی کمر میں ہو)۔ یہی سب مقتول کا سامان ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہو وہ مقتول کا سامان نہیں ہے۔ اور جو چیز کہ اس کے غلام کے ساتھ دوسرے جانور پر ہو وہ بھی مقتول کے سامان میں شامل نہ ہوگی (کہ وہ تو غنیمت میں شمار ہوگی)۔ واضح ہو کہ تنفیل کے حکم سے جو کچھ حاصل ہو اس سے باقی غازیوں کا کوئی حصہ نہ ہوگا کیونکہ ان کا حق اس مال سے بالکل ختم ہو گیا ہے۔ مگر قاتل کی اس مالی نفل پر ملکیت اسی وقت ثابت ہوگی جبکہ یہ مال دار الحرب سے نکل کر دارالاسلام میں آ کر محفوظ ہو گیا ہو۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی یہ بات بیان کر چکے ہیں۔

امام نے یہ کہا کہ جس نے باندی پائی اسی کی ہے غازی نے مسلمان

### باندی پائی اس سے وطی کا حکم

حَتَّى لَوْ قَالَ الْإِمَامُ مَنْ أَصَابَ جَارِيَةً فَهِيَ لَهُ فَأَصَابَهَا مُسْلِمٌ وَاسْتَبْرَأَهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطُيْهَا وَكَذَآ لَا يَبِيعُهَا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَهُ أَنْ يَطَّأَهَا وَيَبِيعُهَا لِأَنَّ التَّنْفِيلَ يَثْبُتُ بِهِ الْمَلِكُ عِنْدَهُ كَمَا يَثْبُتُ بِالْقِسْمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَبِالشِّرَاءِ مِنَ الْحَرْبِيِّ وَوُجُوبُ الضَّمَانِ بِالْإِتْلَافِ قَدْ قِيلَ عَلَى هَذَا الْإِخْتِلَافِ

ترجمہ..... اسی لئے اگر امام نے یہ اعلان کیا کہ جس غازی نے جو لڑکی پائی وہ اسی کی ہے۔ اس کے بعد کسی غازی نے کوئی لڑکی پکڑ لی اور اسی عرصہ میں اس کا حیض ختم ہونے سے اس غازی کو اس عورت کا حمل سے پاک ہونا معلوم ہو گیا اس لئے اگر اس کے ساتھ وطی کرنی چاہے یا نہ۔ یہ فرہ خست کر دینا چاہئے تو اس کے لئے یہ جائز نہ ہوگا۔ یہ حکم امام ابو حنیفہ و ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے لیکن امام محمد (اور



امام مالک و شافعی اور احمد رحمہم اللہ علیہم نزدیک اس مرد غازی کے لئے اس عورت سے وطی کرنا یا اسے فروخت کرنا سب جائز ہوگا۔ کیونکہ ان کے نزدیک امام کے تنفیل کے اعلان کے بعد قبضہ کرنے سے اس کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ امام کے دار الحرب میں رہتے ہوئے تقسیم کر دینے سے اور حربی کافر سے خرید لینے سے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کے پاس سے کسی نے نفل مال کو ضائع کر دیا تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس میں بھی یہی اختلاف ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک ضامن نہ ہوگا۔ مگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضامن ہوگا (کیونکہ یہ غازی اس عورت کا مالک بن چکا تھا)۔

## بَابُ اسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ

ترجمہ..... باب، کافروں کے غالب ہونے کے بیان میں

### استیلاء الکفار کا حکم

وَإِذَا غَلَبَ التَّوَكُّ عَلَى الرُّومِ فَسَبُّهُمْ وَأَخْذُ أَمْوَالِهِمْ مَلَكَوْهَا لِأَنَّ اسْتِيلَاءَ قَدْ تَحَقَّقَ فِي مَالٍ مَبَاحٍ وَهُوَ السَّبُّ عَلَى مَا يُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ غَلَبْنَا عَلَى التَّوَكُّ حَلَّ لَنَا مَا نَجِدُهُ مِنْ ذَلِكَ اِعْتِبَارًا بِسَائِرِ أُمَلَّاكِهِمْ

ترجمہ..... اگر تاتاری کافروں نے ملک روم کے نصاریٰ پر غلبہ پا کر ان کو قید کر لیا۔ اور ان کے اموال چھین لئے تو (ان کا قبضہ تسلیم ہوگا اور) تاتاری ان مالوں کے مالک ہو جائیں گے۔ کیونکہ انہوں نے مال مباح پر غالب آ کر ان پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور سبب ملک بھی یہی ہوتا ہے۔ (انشاء اللہ یہ بحث ہم آئندہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ ان تاتاریوں پر غالب ہو جائیں تو ان تاتاریوں نے جو کچھ بھی رومیوں سے لیا اور قبضہ کیا ہے اسے ان تاتاریوں سے چھین لینا جائز ہے۔

کفار مسلمانوں کے جانوروں پر غالب آ گئے اور دار الحرب لے کر چلے گئے مال کے مالک بنیں گے یا نہیں

وَإِذَا غَلَبُوا عَلَى أَمْوَالِنَا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَأُحْزِرُ وَهَابِدَارِهِمْ مَلَكَوْهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَمْلِكُونَهَا لِأَنَّ اسْتِيلَاءَ مَحْظُورٌ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً وَالْمَحْظُورُ لَا يَنْتَهِضُ سَبًّا لِلْمَلِكِ عَلَى مَا عَرِفَ مِنْ قَاعِدَةِ الْخَصْمِ وَلَنَا أَنْ اسْتِيلَاءَ وَرَدَ عَلَى مَالٍ مَبَاحٍ فَيَنْعَقِدُ سَبًّا لِلْمَلِكِ دَفْعًا لِحَاجَةِ الْمُكَلَّفِ كَاسْتِيلَانَا عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَهَذَا لِأَنَّ الْعِصْمَةَ تَبَتُّ عَلَى مُنَافَاةِ الدَّلِيلِ ضَرُورَةَ تَمَكُّنِ الْمَالِكِ مِنَ الْإِنْتِفَاءِ فَإِذَا زَالَتِ الْمَكْنَةُ عَادَ مُبَاحًا كَمَا كَانَ غَيْرَ أَنْ اسْتِيلَاءَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالْأَحْزَارِ بِالْأَدَارِ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِقْتِدَارِ عَلَى الْمَحَلِّ حَالًا وَمَالًا وَالْمَحْظُورُ لغيرِهِ إِذَا صَلَحَ سَبًّا لِكِرَامَةِ تَفُوقِ الْمَلِكِ وَهُوَ الثَّوَابُ الْأَجَلُ فَمَا ظَنُّكَ بِالْمَلِكِ الْعَاجِلِ

ترجمہ..... اور اگر خدا نخواستہ ونعوذ باللہ من ذالک کبھی کفار ہمارے مالوں پر غالب آ جائیں اور ان کو اپنے ساتھ اپنے ملک لے جائیں تو وہ بھی ان مالوں کے مالک ہو جائیں گے۔ (امام مالک و احمد رحمہما علیہما کا بھی یہی قول ہے۔) لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وہ



کفار ان مالوں کے مالک نہیں ہوں گے۔ کیونکہ یہ بات ممنوع ناقابل قبول ہے کہ وہ کفار ہمارے مالوں کے مالک بن جائیں۔ خواہ ہمارے ملک میں رہتے ہوئے مالک بنیں یا انتہاء میں یعنی اپنے ملک لے جا کر مالک بنیں۔ اور جو بات ممنوع ہو وہ ملکیت کا سبب نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ علم الاصول میں ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے۔

ہماری دلیل..... یہ ہے کہ مال مباح پر غلبہ پایا گیا ہے اس لئے یہ ملک کا سبب ہو جائے گا۔ تاکہ حاجت مند مکلف کی حاجت ختم ہو جائے۔ جیسا کہ ہم لوگ ان کے مالوں پر غالب ہو کر ان کے مالک ہو جاتے ہیں۔ اس جگہ ہمارا یہ کہنا کہ وہ لوگ مباح مال پر غالب ہوتے ہیں اس لئے ہے کہ مال کا قابل احترام ہونا اس ضرورت سے ثابت ہو جاتا ہے کہ مالک کو اس سے نفع حاصل کرنے پر قدرت ہو۔ حالانکہ فرمان باری تعالیٰ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ..... الخ (البقرة: ۲۹۱) اس بات کے لئے مفید ہے کہ زمین کی ہر چیز پر مالک کی قدرت باقی نہ رہی تو وہ مال حسب دستور سابق مباح ہو گیا۔ لیکن اس مال پر غلبہ ہونا اسی وقت ثابت ہوگا کہ پورے طور پر اس شئی کو اپنے قبضہ میں لے کر محفوظ کر لے۔ کیونکہ غلبہ پانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر غلبہ پایا جائے اسے اسی وقت بھی اور آخر میں اپنے مصرف میں لانے کا اسے پورا اختیار ہو۔ اور جو چیز کسی دوسرے سبب سے ممنوع ہو مگر جب وہ اس لائق ہو کہ اس کا استعمال بڑے ہی کرامت اور بزرگی کا باعث ہو یعنی اس کے ذریعہ آخرت میں ثواب حاصل ہوتا ہو (پھر بھی اس کا استعمال ممنوع ہو) تو ایسی کسی چیز کے استعمال کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہوگا جو صرف چند دنوں کے لئے ہی ملک میں آئے۔ اس کی توضیح اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِیْنَ الَّذِیْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ..... الاية (الحشر: ۸)۔ یعنی یہ مال ان مہاجر فقیروں کے لئے ہے جو اپنے گھر بار اور مالوں سے نکال دیئے گئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مہاجرین صحابہ کے اموال جو مکہ میں تھے جب وہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو ان کی اس ہجرت کی وجہ سے وہاں کے کافروں نے ان کے مالوں پر غلبہ کر لیا اور ان کے اس غلبہ کی وجہ سے ان صحابہ کی ملکیت سے وہ سب مال نکل گئے۔ جس کے نتیجہ میں وہ فقیر ہو گئے۔ حالانکہ ایسا شخص فقیر نہیں ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو اگرچہ فی الحال اس کے قبضہ میں نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے مالوں پر کافروں کے غلبہ کر لینے سے ان مسلمانوں کی ملکیت سے ان کے مال نکل گئے۔ اور وہ کفار ان مالوں کے مالک بن گئے۔ اس کے علاوہ مذکورہ بالا آیت خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ..... الخ (البقرة: ۲۹۱) یعنی زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی لئے پیدا کیا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چیز سے نفع حاصل کرنا مباح ہے۔ لیکن اگر ایک ہی چیز پر ہزار آدمی اپنا قبضہ کر لیں اور اس سے ایک ہی وقت میں نفع حاصل کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ لہذا جو مال شرعی طریقہ سے جس کے قبضہ میں ہو وہ اسی کا مال محترم ہوگا۔ یعنی دوسروں کو اس سے تعرض کرنا حرام ہوگا۔ اور یہ حکم اس لئے دیا گیا ہے تاکہ مالک کو اس مال سے پورا نفع حاصل کرنے کا موقع ملے۔ پھر جب کافروں نے اس پر غلبہ کر لیا اور مالک کو اس سے نفع حاصل کرنے کی قدرت نہیں رہی تو اصلی حالت کی مانند وہ مال مباح ہو گیا۔ اور بات مسلم ہے کہ مباح شئی پر قبضہ کر لینے سے ملکیت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کا غلبہ اور قبضہ اسی صورت میں پورا ہوگا کہ کفار مال اپنے ملک میں لے جائیں۔ لہذا اگر ان کے لئے جانے سے پہلے مسلمانوں نے پھر ان پر غالب ہو کر مال چھین لیا تو یہ مال غنیمت کا نہیں ہوگا بلکہ جس جس سے وہ چھینا گیا ہو اسی کا رہے گا اور اسی کو واپس کر دیا جائے گا۔ اب یہ بات کہ جو کام حرام ہو وہ ملک کا سبب نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ کافروں کا غلبہ بھی ملکیت کا سبب نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے یہ مان لیا کہ کافروں کا مسلمانوں کے مال پر غلبہ کرنا حرام ہے۔ مگر اس وجہ سے حرام ہے کہ وہ مسلمانوں کے مال پر غلبہ ہے۔ اور جو چیز کسی دوسری وجہ سے حرام



ہوتی ہے وہ تو ملک کا سبب ہو سکتی ہے۔ خصوصاً اس صورت میں جبکہ اس میں نفع زیادہ ہو۔ جیسے کسی نے کسی کا گھر غصب کر لیا پھر بھی اس میں نماز پڑھنا نہیں چھوڑے گا کیونکہ فعل غصب اگرچہ حرام ہے لیکن نماز کا ثواب اس سے زیادہ اس کو حاصل ہوگا۔ پس جب غصبی زمین کی نماز ثواب جمیل کی مستحق ہوئی تو دنیاوی ملکیت کا سبب ہونا بدرجہ اولیٰ ثابت ہوگا۔ لہذا اگر مسلمان کو اپنی چیز جانے سے آخرت کا ثواب حاصل ہو تو کفار کو دنیا میں ملک حاصل ہو جانا کچھ بعید نہیں بلکہ قرین قیاس ہے۔

مسلمان دوبارہ انہی چھینے ہوئے مال پر غالب آگئے تو تقسیم سے قبل پہلے مالکوں کیلئے بغیر کسی عوض کے لینے کا حق ہے

فَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَوَجَدَهَا الْمَالِكُونَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهِيَ لَهُمْ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدُوهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذُوهَا بِالْقِيَمَةِ إِنْ أَحْبَبُوا الْقَوْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِ إِنْ وَجَدْتَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْتَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَكَ بِالْقِيَمَةِ وَلَئِنْ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ زَالَ مِلْكُهُ بِغَيْرِ رِضَاةٍ فَكَانَ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ نَظَرًا لَهُ إِلَّا أَنْ فِي الْأَخْذِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ ضَرَرٌ أَوْ مَخَافَةٌ مِنْهُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ الْخَاصِّ فَيَأْخُذُهُ بِالْقِيَمَةِ لِيَعْتَدِلَ النَّظَرُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَالشَّرْكَاءُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَامَّةً فَيَقْلُ الضَّرَرُ فَيَأْخُذُهُ بِغَيْرِ قِيَمَةٍ

ترجمہ..... پھر اگر مسلمان ان مالوں پر غالب آگئے (جو کفار مسلمانوں سے زبردستی لے گئے تھے) اور ان کے مالکوں نے ان کی تقسیم سے پہلے ہی اپنا اپنا مال پالیا تو وہ لوگ کچھ بھی بدلہ دیئے بغیر یعنی مفت میں لے جائیں گے۔ اور اگر ان کی تقسیم کے بعد وہ مالکان پہنچے تو اب ان کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ اگر ان کا جی چاہے تو مال کی قیمت دے کر لے لیں۔ رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کی وجہ سے جو اس بارے میں فرمایا ہے کہ اگر تم نے تقسیم سے پہلے اس کو پالیا تو وہ کسی عوض کے بغیر ہی تمہارا ہوگا۔ اس کی روایت بیہقی، دارقطنی، طبرانی اور طحاوی نے ضعیف سندوں سے کی ہے۔ اور ابو داؤد نے جید سند سے مرسل اس کی روایت کی ہے۔ اور اس دلیل سے بھی کہ اس مال کے پرانے مالک کی ملکیت اس کی رضا مندی کے بغیر کفار کے غلبہ سے ناحق ختم ہوئی ہے۔ تو اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے اس مالک کو لینے کا حق حاصل ہے۔ لیکن مال کی تقسیم ہو جانے کے بعد لے لینے سے جس غازی کے حصہ سے لیا جائے گا اس کا زبردست نقصان ہوگا کیونکہ تقسیم کے بعد وہ مال خاص اسی غازی کا حصہ بن چکا ہے۔ اسی لئے اگر اپنا مال واپس لینا ہی چاہتا ہے تو قیمت دے کر لینے کی اسے اجازت ہوگی تاکہ دونوں شخصوں (پرانے اور نئے مالکان) کے لحاظ میں انصاف رہ جائے۔ اور مال تقسیم ہونے سے پہلے اس مال میں تمام غازیوں کا مشترک حصہ ہوتا ہے۔ اس لئے سبھوں کا صرف تھوڑا تھوڑا سا نقصان ہوگا۔ اسی لئے بغیر قیمت کے لے سکتا ہے۔

اگر تاجر دار الحرب میں گیا اور وہی مال خرید کر لے آیا تو سابقہ مالک

تاجر سے اتنے میں خرید لیں جتنے میں اس نے خریدا

وَإِنْ دَخَلَ دَارُ الْحَرْبِ تَاجِرٌ فَاشْتَرَى ذَالِكَ وَأَخْرَجَهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَمَالِكُهُ الْأَوَّلُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخْذَهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ لِأَنَّهُ يَتَضَرَّرُ بِالْأَخْذِ مَجَانًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ الْعَوَضَ بِمُقَابَلَتِهِ فَكَانَ اعْتِدَالُ النَّظَرِ فِيمَا قُلْنَا وَلَوْ اشْتَرَاهُ بَعْرَضٍ يَأْخُذُ بِقِيَمَةِ الْعَرْضِ وَلَوْ وَهَبُوهُ لِمُسْلِمٍ يَأْخُذُهُ بِقِيَمَتِهِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ مِلْكٌ



خَاصُّ فَلَا يَزَالُ إِلَّا بِالْقِيَمَةِ وَلَوْ كَانَ مَغْنُومًا وَهُوَ مِثْلِي يَأْخُذُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَلَا يَأْخُذُهُ بَعْدَ هَذَا لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالْمِثْلِ غَيْرُ مُفِيدٍ وَكَذَا إِذَا كَانَ مَوْهُوبًا لَا يَأْخُذُهُ لِمَا بَيْنَنَا وَكَذَا إِذَا كَانَ مُشْتَرَى بِمِثْلِهِ قَدْرًا وَوَصْفًا

ترجمہ..... اور اگر کسی مسلمان تاجر نے دار الحرب میں جا کر اس مال کو خرید لیا جس کو دار الحرب کے لوگ مسلمانوں سے چھین اور لوٹ کر لے گئے تھے تو اس کے پرانے مالک کو اب بھی یہ اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو اتنی قیمت دے کر لے لے۔ جتنی میں اس نے وہ چیز خریدی تھی۔ اور اگر چاہے تو اس شخص کے پاس رہنے دے۔ کیونکہ بغیر قیمت (مفت میں) لینے سے تاجر کا نقصان ہوگا۔ کیونکہ یقیناً اس نے عوض دے کر ہی خریدا ہے اس لئے انصاف کا انتہائی تقاضا یہی ہے کہ خریدی ہوئی قیمت پر چاہے تو خرید لے اور اگر اس تاجر نے اس مال کو کسی سامان یا مال کے عوض خریدا ہو (نقد دے کر نہیں) تو بھی پہلے مالک کو اختیار ہوگا کہ اسی سامان و اسباب کی قیمت دے کر خریدے اور اگر حربیوں نے وہ مال اسے فروخت نہیں کیا ہو بلکہ تعلقات کی بناء پر یوں ہی بہہ کر دیا ہو تو بھی مالک اول کو اختیار ہوگا کہ فی الحال قیمت طے کر کے قیمت دے کر خرید لے۔ کیونکہ اس دوسرے مالک مسلمان کو اس مال پر خاص ملکیت حاصل ہو چکی ہے تو مفت میں اس کی ملکیت ختم نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی قیمت دینی ہوگی اور اگر مسلمانوں نے اس مال کو دوسرے مالوں کے ساتھ بطور غنیمت حاصل کیا ہو اور وہ مال مثلی ہو (جیسے سونا، چاندی اور گہوؤں وغیرہ) تو مالک اول اس مال کو غنیمت کی تقسیم سے پہلے ہی کہہ کر مفت میں لے لے لیکن تقسیم کے بعد نہیں لے سکتا ہے کیونکہ (مثلی چیز ہونے کی وجہ سے عوض بھی مثل ہی دینی ہوگی جس سے) اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اور اگر اس مسلمان تاجر نے اس مثلی کے عوض اس کی مثل چیز جو مقدار اور وصف میں اس کے برابر ہو خریدی ہو تو بھی پہلا مالک اسے نہیں لے سکتا ہے۔

کفار کسی مسلمان کے غلام کو گرفتار کر کے لے گئے اور اسے دوسرا مسلمان خرید کر دارالاسلام لے آیا اور کسی نے اس کی آنکھ پھوڑ دی اس کی دیت وصول کر لی گئی پہلے مالک کیلئے خریدنے کا حکم

قَالَ فَإِنْ أَسْرَوْا عَبْدًا فَأَشْتَرَاهُ رَجُلٌ وَأَخْرَجَهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَفَقِئَتْ عَيْنُهُ وَأَخَذَتْ رَشَهَا فَإِنَّ الْمَوْلَى يَأْخُذُهُ بِالشَّمَنِ الَّذِي أَخَذَ بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ أَمَّا إِلَّا خَذَ بِالشَّمَنِ فَلَمَّا قُلْنَا وَلَا يَأْخُذُ الْأَرْضَ لِأَنَّ الْمَلِكَ فِيهِ صَحِيحٌ فَلَوْ أَخَذَهُ أَخَذَهُ بِمِثْلِهِ وَهُوَ لَا يُفِيدُ وَلَا يُحِطُّ شَيْءٌ مِّنَ الشَّمَنِ لِأَنَّ الْأَوْصَافَ لَا يَقَابِلُهَا شَيْءٌ مِّنَ الشَّمَنِ بِخِلَافِ الشُّفْعَةِ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ لَمَّا تَحَوَّلَتْ إِلَى الشَّفِيعِ صَارَ الْمُشْتَرَى فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِمَنْزِلَةِ الْمُشْتَرَى شِرَاءً فَاسِدًا وَالْأَوْصَافُ تُضْمَنُ فِيهِ كَمَا فِي الْغَصْبِ أَمَّا هَهُنَا الْمَلِكُ صَحِيحٌ فَافْتَرَقَا

ترجمہ..... امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کفار نے کسی مسلم کے غلام کو گرفتار کر لیا اور اس سے دوسرے شخص نے خرید لیا اور اسے لے کر دارالاسلام آ گیا یہاں پہنچ کر اس غلام کی آنکھ کسی نے پھوڑ دی اس بناء پر اس خریدار نے اس مجرم سے اس کی آنکھ کی دیت (تاوان) وصول کر لی۔ اب اگر اس کا اصل (پہلا) مالک اس غلام کو لینا چاہتا ہو تو اسی قیمت پر واپس لے گا جس قیمت پر اس نے دشمن



سے خریدا تھا۔ یہ پہلا اور اصل مالک اس غلام کی قیمت اس لئے دے گا کہ مفت میں لینے سے دوسرے مالک (خریدار) کا نقصان لازم آئے گا لیکن اس نے غلام کی آنکھ کے نقصان کے عوض جو کچھ پایا ہے اس کا مطالبہ وہ پہلا شخص (مالک) نہیں کر سکے گا۔ کیونکہ جس وقت اس کی آنکھ پھوڑی گئی تھی اس وقت اس غلام پر اس خریدار کی ملکیت صحیح تھی (یعنی اس نے اپنے مملوک اور جائز غلام سے یہ نفع حاصل کیا ہے) اب اگر پہلا مالک اس خریدار سے اس دیت کو بھی لینا چاہتا ہو تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ دوسرے مالک یعنی مشتری کو اس غلام کی اصل قیمت کے ساتھ اس کا جرمانہ بھی ادا کر دے۔ لیکن ایسا کرنے سے اس کا کوئی مالی فائدہ بھی نہ ہوگا (کہ جتنا وصول کرے گا اتنا ہی اسے ادا بھی کرنا ہوگا)۔ اب یہ بات بھی معلوم ہونی چاہئے کہ اس غلام کی آنکھ ضائع ہو جانے سے اس میں جو کچھ کمی ہوئی ہے وہ اصل قیمت سے کم نہیں ہوگی۔ پھر واضح ہو کہ آنکھ پھوٹنے کی وجہ سے اس غلام کی قیمت ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ اوصاف کے مقابلہ میں کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے اور یہ صورت شفعہ (فقہاء کے نزدیک زمین یا مکان میں ہمسائیگی یا شرکت کی وجہ سے خریداری کا حق، تفصیل کتاب الشفعہ میں آئے گی) سے خلاف ہے اس لئے کہ صفحہ (ہاتھ کی تھکی لگانا، فروخت میں ہاتھ پر ہاتھ مار کر معاملہ کو یقینی بنانا، عقد بیع، مزید تفصیل کتاب البیع میں آئے گی)۔ انوار الحق قاسمی ۹۲/۱۱ ع) بدل کر جب شفعہ کے پاس گیا تو مشتری کے پاس وہ خریدی ہوئی چیز خرید فاسد کے حکم میں ہوگئی۔ حالانکہ خرید فاسد میں اوصاف کی ضمان واجب ہوتی ہے جیسے غصب میں واجب ہوا کرتی ہے (کیونکہ ملکیت مکمل نہیں ہے) اور یہاں جاری مسئلہ میں وہ ملکیت صحیح ہے اس لئے ان صورتوں میں فرق ہو گیا۔

کفار نے کسی مسلمان کے غلام کو قید کیا پھر دوسرے مسلمان نے اسے خرید لیا پھر دوبارہ

اسے گرفتار کر لیا گیا اور دوبارہ خرید لیا گیا مالک اول کیلئے واپس لینے کا حکم

وَإِنْ أَسْرَوْا عَبْدًا فَأَشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِالْفِ دِرْهَمٍ فَأَسْرَوْهُ ثَانِيَةً وَأَدْخَلُوهُ دَارَ الْحَرْبِ فَأَشْتَرَاهُ رَجُلٌ آخَرُ بِالْفِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لِلْمَوْلَى الْأَوَّلِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنَ الثَّانِي بِالْثَمَنِ لِأَنَّ الْأَسْرَ مَا وَرَدَ عَلَى مِلْكِهِ وَلِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الثَّانِي بِالْثَمَنِ لِأَنَّ الْأَسْرَ وَرَدَ عَلَى مِلْكِهِ ثُمَّ يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ بِالْفَيْنِ إِنْ شَاءَ لِأَنَّهُ قَامَ عَلَيْهِ بِالْثَمَنِ فَيَأْخُذُهُ بِهِمَا وَكَذَا إِذَا كَانَ الْمَأْسُورُ مِنْهُ الثَّانِي غَائِبًا لَيْسَ لِلأَوَّلِ أَنْ يَأْخُذَهُ اعْتِبَارًا بِحَالِ حَضَرَتِهِ

ترجمہ..... اگر کافروں نے کسی مسلمان کے غلام کو قید کیا۔ پھر اس غلام کو کسی مسلمان نے ہزار روپے دے کر خرید لیا۔ اور دارالاسلام لے آیا۔ پھر کافروں نے دوبارہ اس غلام کو قید کر لیا اور وہ اسے دارالحرب لے کر چلے گئے۔ پھر کسی دوسرے مسلمان نے اس کو ایک ہزار روپے میں خرید لیا تو پرانے اور اصلی مولیٰ کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ اس دوسرے خریدار سے اس غلام کی قیمت دے کر خرید لے کیونکہ وہ غلام اس کی ملکیت میں قید نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ پہلے خریدار کو یہ اختیار ہے کہ اس دوسرے خریدار سے اس کی قیمت دے کر غلام کو خرید لے کیونکہ اس پہلے خریدار کی ملکیت میں رہتے ہوئے وہ قید کیا گیا ہے۔ پھر اصل مالک کو یہ اختیار ہوگا کہ اگر چاہے اس پہلے خریدار سے دو ہزار سے خرید لے کیونکہ پہلے خریدار نے اس غلام کو دوبار ایک ایک ہزار دے کر مجموعہ ہزار میں خریدا ہے۔ الحاصل اگر پہلا مالک پسند کرتا ہو تو دو ہزار دے کر خرید لے ورنہ نہیں اور اگر پہلا خریدار اس وقت موجود نہ ہو کہیں اور چلا گیا ہو تو اس پہلے مالک کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ دوسرے خریدار وغیرہ سے لے۔ جیسے کہ پہلے خریدار کی موجودگی میں دوسرے خریدار سے نہیں لے سکتا ہے۔



اہل الحرب ہم پر غالب آجائیں تو ہمارے مدبر امہات الولد، مکاتب  
اور آزاد کے مالک نہیں بنیں گے

وَلَا يَمْلِكُ عَلَيْنَا أَهْلُ الْحَرْبِ بِالْغَلْبَةِ مُدَبِّرِينَ وَأُمَهَاتٍ أَوْلَادِنَا وَمُكَاتِبِينَ وَأَحْرَارَنَا وَنَمْلِكُ عَلَيْهِمْ جَمِيعَ  
ذَلِكَ لِأَنَّ السَّبَبَ إِنَّمَا يُفِيدُ الْمَلِكَ فِي مَحَلِّهِ وَالْمَحَلُّ الْمَالُ الْمُبَاحُ وَالْحُرُّ مَعْصُومٌ بِنَفْسِهِ وَكَذَلِكَ مِنْ سِوَاهُ  
لِأَنَّهُ تَثَبَّتِ الْحُرِّيَّةُ فِيهِ مِنْ وَجْهِ بَخْلَافٍ رِقَابِهِمْ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَسْقَطَ عَصَمَتَهُمْ جَزَاءً عَلَى جَنَائِتِهِمْ وَجَعَلَهُمْ أَرْقَاءَ  
وَلَا جَنَايَةَ مِنْ هَؤُلَاءِ

ترجمہ..... کفار ہم پر غلبہ کر کے ہمارے مدبر اور ام ولد و مکاتب اور آزاد لوگوں کے مالک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور ہم ان پر غالب ہو کر ان  
کے مدبر و غیرہ سب کے مالک ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ سب ملکیت کا (غالب ہو کر قابض ہو جانا) اسی وقت فائدہ دیتا ہے جبکہ اس کا محل بھی ہو  
(یعنی غیر محل پر قبضہ سے فائدہ نہیں ہوتا ہے) جبکہ اس کا محل مال مباح ہے۔ اور آزاد شخص خود ہی محترم اور معصوم ہوتا ہے۔ اسی طرح اس  
کے ماسوا ام ولد مدبر و مکاتب بھی معصوم ہیں کیونکہ ان میں ایک وجہ سے یا ایک حد تک آزادی ثابت ہو چکی ہے۔ بخلاف رقبہ کفار کے  
کیونکہ ان کے کفر کی سزا میں شریعت نے ان کی عظمت اور عصمت ختم کر کے ان کو رقیق (غلام) بنا دیا ہے۔ اور ہمارے مؤمنین کا ایسا کوئی  
حرم نہیں ہے کہ ان کو بھی رقیق بنایا جاسکے۔

کسی مسلمان کا مسلمان غلام دار الحرب میں بھاگ گیا اور انہوں نے پکڑ لیا تو وہ اس کے  
مالک بنیں گے یا نہیں، اقوال فقہاء

وَإِذَا أَبَقَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ لِمُسْلِمٍ فَدَخَلَ إِلَيْهِمْ فَأَخَذُوهُ لَمْ يَمْلِكُوهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ لَا يَمْلِكُونَهُ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ لِحَقِّ  
الْمَالِكِ لِقِيَامِ يَدِهِ وَقَدْ زَالَتْ وَلِهَذَا لَوْ أَخَذُوهُ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ مَلَكُوهُ وَلَهُ أَنَّهُ ظَهَرَتْ يَدُهُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْخُرُوجِ  
مِنْ دَارِنَا لِأَنَّ سُقُوطَ اعْتِبَارِ هَاتِلِ تَحْقِيقِ يَدِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ تَمَكُّينُهُ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ وَقَدْ زَالَتْ يَدُ الْمَوْلَى فَظَهَرَتْ يَدُهُ  
عَلَى نَفْسِهِ وَصَارَ مَعْصُومًا بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَبْقَ مَحَلًّا لِلْمَلِكِ بِخِلَافِ الْمُتَرَدِّدِ لِأَنَّ يَدَ الْمَوْلَى بَاقِيَةٌ لِقِيَامِ يَدِ أَهْلِ  
الدَّارِ فَمَنْعَ ظُهُورِ يَدِهِ وَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْمَلِكُ لَهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ بِغَيْرِ شَيْءٍ مَوْهُوبًا كَانَ  
أَوْ مُشْتَرًى أَوْ مَغْنُومًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ يُؤْذَى عَوَضُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ إِعَادَةَ الْقِسْمَةِ لِتَفَرُّقِ  
الْغَنَائِمِينَ وَتَعَذُّرِ اجْتِمَاعِهِمْ وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْمَالِكِ جُعْلٌ الْأَبْقَى لِأَنَّهُ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ إِذْ فُي زَعَمَ أَنَّهُ مَلَكُهُ

ترجمہ..... اگر کسی مسلمان کا کوئی مسلمان غلام بھاگ کر دار الحرب میں داخل ہوا اور اسے کافروں نے پکڑ لیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ  
کے نزدیک وہ اس کے مالک نہیں ہوں گے۔ لیکن صاحبین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وہ اس کے بھی مالک ہو جائیں گے۔ کیونکہ غلام  
معصوم ہوتا ہے کہ اس کے مالک کا اس پر قبضہ ہوتا ہے تو اپنے مالک کے حق کی وجہ سے وہ معصوم ہوا کیونکہ مالک کا قبضہ اس پر قائم ہوتا ہے۔  
حالانکہ گرفتار کر کے لے جانے کی موجودہ صورت میں مالک کا قبضہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی لئے اگر وہ لوگ دارالاسلام سے بھی غلام کو پکڑ کر

لے جائیں جب بھی وہ اس کے مالک ہو جائیں گے اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ دارالاسلام سے اس غلام کے نکل جانے کی وجہ سے غلام کو اس کا (چھینا ہوا) اپنا ذاتی اختیار حاصل ہو گیا ہے۔ کیونکہ اس کا ذاتی اختیار اس سبب سے ساقط ہوا تھا کہ اس پر اس کے مولیٰ کا حق ثابت اور متحقق تھا۔ تاکہ اس کا مولیٰ اس سے پورا نفع حاصل کر سکے۔ مگر موجودہ صورت میں مولیٰ کا حق اس سے ختم ہو چکا ہے۔ لہذا غلام کا اپنا ذاتی اختیار ظاہر ہو گیا یعنی اپنی ذات میں وہ معصوم اور محترم ہو گیا۔ اس لئے وہ کسی مملوک بننے کا محل باقی نہیں رہا۔ برخلاف اس غلام کے جو دارالاسلام میں بھی مارا مارا پھرتا ہو تو وہ اب خود مختار نہ ہوگا۔ کیونکہ مولیٰ کا قبضہ اس پر باقی ہے۔ اس لئے کہ دارالاسلام والوں کا اس پر قبضہ موجود ہے جس نے غلام کے اختیار کو ظاہر ہونے سے روک دیا ہے۔ پھر جبکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس غلام پر کافروں کی ملکیت ثابت نہ ہو سکی تو اس کا پرانا مالک ہر صورت میں اس غلام کو مفت میں لے لے گا۔ یعنی خواہ کافروں سے اس کو کوئی ہبہ اور ہدیہ کے طور پر یا خرید کر یا غنیمت میں تقسیم سے پہلے ہو یا تقسیم کے بعد ہو مفت ہی لے لے گا۔ مگر جس کے حصہ سے لیا ہے اسے اس کا عوض بیت المال سے دیا جائے گا۔ کیونکہ پوری تقسیم از سر نو دہرانا ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس کے غازیوں کا اکٹھا اور جمع ہونا اب مشکل ہوگا عموماً سب منتشر ہو جایا کرتے ہیں۔ اور جو شخص اس غلام کو دارالحرب سے پکڑ کر لایا ہے وہ اپنا حق اس غلام کے پرانے مالک پر نہیں جتائے گا کیونکہ حقیقت میں اس نے یہ کام تو صرف اپنی ذات کے لئے کیا تھا۔ اس لئے کہ وہ اپنی سمجھ میں اسے اپنا مملوک ہی سمجھ رہا تھا اور اگر کسی ذمی کا غلام اس طرح بھاگے تو بھی یہی حکم ہوگا۔

مسلمانوں کا کوئی جانور بدک کر چلا جائے اور وہ اسے پکڑ لیں تو جانور

کے مالک بن جائیں گے

وَإِنْ نَدَّ بَعِيرُهُمْ فَأَخَذُوهُ مَلَكُوهُ لِيَتَحَقَّقَ الْإِسْتِيلَاءُ إِذْ لَا يَدَّ لِلْعَجَمَاءِ لِيَتَّظَهَرَ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ دَارِنَا بِخِلَافِ الْعَبْدِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَإِنْ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ وَأَدْخَلَهُ دَارَ الْإِسْلَامِ فَصَاحِبُهُ يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ لِمَا بَيَّنَّا

ترجمہ..... اگر ہمارا کوئی اونٹ (جانور) بدک کر کافروں کے ہاں چلا جائے۔ اور وہ اسے پکڑ کر رکھ لیں تو وہ کفار اس جانور کے مالک ہو جائیں گے کیونکہ مباح مال پر ان کا غلبہ پایا گیا ہے۔ اس لئے کہ ان جانوروں کا ذاتی کوئی اختیار نہیں ہے جو ہماری ملکیت سے نکلنے کے وقت ظاہر ہو جائے۔ بخلاف غلام کے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر اس جانور کو حربیوں سے خرید کر کوئی دارالاسلام لے آیا تو اس کا پرانا اور اصل مالک اگر اسے واپس لینا چاہے تو اس کی وہ قیمت اس خریدار کو ادا کر کے لے جو اس نے ادا کی تھی۔ کیونکہ بلا قیمت اور مفت میں لینے سے خرید کر لانے والے کا سراسر نقصان ہے۔

غلام اپنا ساز و سامان لے کر حربیوں کی طرف بھاگ گیا حربیوں نے گرفتار کیا اور ایک

مسلمان غلام کو بمع سامان خرید کر لے آیا مولیٰ غلام کو بغیر کسی عوض کے لے لے اور گھوڑے

اور سامان کو ثمن کے بدلے خرید لے

فَإِنْ أَبَقَ عَبْدُ إِلَيْهِمْ وَذَهَبَ مَعَهُ بِفَرَسٍ وَمَتَاعٍ فَأَخَذَ الْمُشْرِ كُونِ ذَلِكَ كُتْلَهُ رَاشْتَرَى رَجُلٌ ذَلِكَ كُتْلَهُ وَأُخْرِجَهُ



إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّ الْمَوْلَى يَأْخُذُ الْعَبْدَ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَالْفُرْسَ وَالْمَتَاعَ بِالشَّمَنِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ لَا يَأْخُذُ الْعَبْدَ وَمَا مَعَهُ بِالشَّمَنِ إِنْ شَاءَ اعْتِبَارُ الْحَالَةِ الْاجْتِمَاعِ بِحَالَةِ الْإِنْفِرَادِ وَقَدْ بَيَّنَّا الْحُكْمَ فِي كُلِّ فَرْدٍ

ترجمہ..... اور اگر ہمارا کوئی غلام اپنے ساتھ گھوڑا اور کچھ اسباب بھی لے کر ان مشرکوں کے پاس پہنچا اور ان لوگوں نے اس غلام کو اس کے جانور اور سامان کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ پھر کسی مسلمان نے ان تمام چیزوں غلام، جانور اور سامان کو ایک ساتھ خرید لیا اور دارالاسلام لے آیا۔ تو اس صورت میں اس کا پرانا مالک غلام کو تو مفت میں یعنی کسی قیمت کی ادائیگی کے بغیر واپس لے لے گا۔ البتہ اس گھوڑے اور اس کے سامان کو ان کی قیمت دے کر لے سکتا ہے۔ یہ قول امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ لیکن صاحبین رحمۃ اللہ علیہا نے کہا ہے کہ اگر چاہے تو گھوڑے اور سامان کے ساتھ غلام کو بھی ان کی قیمت ادا کر کے واپس لے سکتا ہے۔ یہ حکم دراصل ان چیزوں کو ایک ساتھ کر کے ایک ایک چیز پر قیاس ہے۔ جبکہ ہم نے پہلے ہی ایک ایک مسئلہ کا حکم بیان کر دیا ہے۔ (یعنی تنہا غلام کے بھاگنے میں یہی حکم ہے تو گھوڑا اور اسباب کے ساتھ بھاگنے کا بھی یہی حکم ہے۔)

حربی امان لے کر دارالاسلام میں داخل ہوا اور مسلمان غلام کو خرید کر

دارالحرب لے گیا وہ غلام آزاد ہو گا یا نہیں، اقوال فقہاء

وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ دَارَ نَابِئِمْانٍ وَاشْتَرَى عَبْدًا مُسْلِمًا وَأَدْخَلَهُ دَارَ الْحَرْبِ عَتَقَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ لَا يَعْتِقُ لِأَنَّ الْإِزَالَهَ كَانَتْ مُسْتَحَقَّةً بِطَرِيقِ مُعَيَّنٍ وَهُوَ الْبَيْعُ وَقَدْ انْقَطَعَتْ وَلَا يَهُدِي الْجَبْرُ عَلَيْهِ فَبَقِيَ فِي يَدِهِ عَبْدًا وَلَا يَحْنِفُ أَنْ تَخْلِيَصَ الْمُسْلِمُ عَنْ ذَلِّ الْكَافِرِ وَاجِبٌ فَيُقَامُ الشَّرْطُ وَهُوَ تَبَايُنُ الدَّارَيْنِ مَقَامَ الْعِلَّةِ وَهُوَ الْإِعْتَاقُ تَخْلِيصًا لَهُ كَمَا يُقَامُ مُضَى ثَلَاثِ حَيْضٍ مَقَامَ التَّفْرِيقِ فِيمَا إِذَا أُسْلِمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ

ترجمہ... پورا اگر کوئی حربی اجازت اور امان لے کر ہمارے دارالاسلام میں آیا اور وہ یہاں سے کسی مسلمان یا ذمی غلام کو خرید کر اپنے ساتھ دارالحرب لے گیا۔ تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وہ غلام وہاں جاتے ہی آزاد ہو جائے گا۔ لیکن صاحبین رحمۃ اللہ علیہا نے فرمایا ہے کہ وہ آزاد نہیں ہوگا۔ کیونکہ حربی کافر کی ملکیت کو ایک خاص طور پر یعنی بطور بیع کے دور کرنا واجب تھا۔ (یعنی اس حربی کافر کو اس بات پر مجبور کیا جاتا کہ مسلمان غلام کو وہ فروخت کر دے۔ پھر اگر وہ انکار کرتا تو قاضی جبراً اس غلام کو فروخت کر کے اس کی قیمت اس حربی کو دے دیتا) لیکن موجودہ صورت میں اس حربی پر جبر کرنے کا اختیار باقی نہ رہا۔ اس لئے یہ غلام اس کے پاس غلام ہی کے حکم میں رہ گیا اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ایک مسلمان کو کافر کی غلامی کی ذلت سے نکالنا واجب ہے۔ اس لئے شرط یعنی دونوں ملکوں کی جدائی کو علت کے قائم مقام قرار دیا جائے گا۔ یعنی آزاد کرنا۔ تاکہ وہ غلام اپنی ذات کی زندگی سے چھوٹ جائے۔ جیسے اس صورت میں کہ عورت یا اس کا شوہر دارالحرب میں مسلمان ہو گیا تو تین حیض گزر جانے کو ہی طلاق دینے کے قائم مقام کر دیا جائے گا لہذا کہ مسلمان بیوی اپنے کافر شوہر یا مسلمان شوہر اپنی کافر بیوی کے ساتھ ناپاکی کی زندگی سے نجات پالے۔



حربی کا غلام مسلمان ہو گیا پھر دارالاسلام آ گیا تو وہ آزاد ہے

وَ إِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الْحَرْبِيِّ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا أَوْ ظَهَرَ عَلَى الدَّارِ فَهُوَ حُرٌّ وَكَذَلِكَ إِذَا خَرَجَ عَبْدُهُمْ إِلَى عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ فَهُمْ أَحْرَارٌ لِمَا رَوَى أَنَّ عَبِيدَ مَنْ أَسْلَمُوا أَوْ خَرَجُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَضَى بِعِتْقِهِمْ وَقَالَ هُمْ عِتْقَاءُ اللَّهِ وَلِأَنَّهُ أَحْرَزَ نَفْسَهُ بِالْخُرُوجِ إِلَيْنَا مُرَاعِمًا لِمَوْلَاهُ أَوْ بِالِالْتِحَاقِ بِمَنْعَةِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى الدَّارِ وَاعْتَبَارُ يَدِهِ أَوْلَى مِنْ اعْتِبَارِ يَدِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهَا أَسْبَقُ ثُبُوتًا عَلَى نَفْسِهِ فَالْحَاجَةُ فِي حَقِّهِ إِلَى زِيَادَةِ تَوْكِيدٍ وَفِي حَقِّهِمْ إِلَى اثْبَاتِ الْيَدِ ابْتِدَاءً فَكَانَ أَوْلَى

ترجمہ..... اور اگر کافر حربی کا غلام مسلمان ہو کر ہمارے پاس دارالاسلام میں پہنچ گیا یا وہ وہیں تھا کہ مسلمانوں نے دارالحرب پر غلبہ پالیا تو وہ آزاد مانا جائے گا۔ اسی طرح اگر حربیوں کے غلام ان کے پاس سے نکل کر مسلمانوں کے لشکر میں آ گئے تو وہ سب آزاد ہو جائیں گے۔ اس روایت کی وجہ سے کہ اہل طائف کے کئی غلام نکل کر رسول اللہ کے لشکر میں آ گئے تھے تو رسول اللہ نے ان سب کی آزادی کا حکم دے دیا تھا۔ یہ فرماتے ہوئے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے آزاد کئے ہوئے ہیں اس کی روایت احمد، ابن ابی شیبہ، بیہقی اور طبرانی نے کی ہے اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روایت مرسل کی ہے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ اس مسلمان غلام نے اپنے مولیٰ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ کر خود کو محفوظ کر لیا یا جب دارالحرب پر مسلمانوں کا غلبہ ہوا تو مسلمانوں کے لشکر سے مل کر محفوظ ہو گیا اور اس کا اس کی اپنی ذات پر اپنے قبضہ کا اعتبار کرنا اس بات کے مقابلہ میں زیادہ بہتر اور اولیٰ ہے کہ اس پر مسلمانوں کا قبضہ ثابت کیا جائے کیونکہ اس کا اپنی ذات پر قبضہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اور اس قبضہ کو صرف زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کے قبضہ کو تسلیم کرنے سے اس کی ضرورت ہو جائے گی کہ کب سے ان کا اس پر قبضہ ثابت ہے۔ لہذا غلام کا اپنا ذاتی قبضہ ہی دوسروں کی بہ نسبت اولیٰ ہوا۔

## بَابُ الْمُسْتَأْمِنِ

ترجمہ..... باب، مستامن کے بیان میں

مسلمان تاجر دارالحرب میں امان لے کر داخل ہو جائے اس کیلئے ان

کے اموال کے ساتھ تعرض کا حکم

وَ إِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ تَاجِرًا فَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ بِشَيْءٍ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ وَلَا مِنْ دِمَائِهِمْ لِأَنَّهُ ضَمِنَ أَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لَهُمْ بِالْإِسْتِئْثَانِ فَالتَّعَرُّضُ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ غَدْرًا وَالْغَدْرُ حَرَامٌ إِلَّا إِذَا غَدَرَبَهُمْ مِلْكُهُمْ فَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ أَوْ حَبَسَهُمْ أَوْ فَعَلَ غَيْرَهُ يَعْلَمُ الْمَلِكُ وَلَمْ يَمْنَعَهُ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ نَقَضُوا الْعَهْدَ بِخِلَافِ الْأَسِيرِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَأْمِنٍ فَيَبَاحُ لَهُ التَّعَرُّضُ وَإِنْ أَطْلَقُوهُ طَوْعًا

ترجمہ..... امن چاہنے والا خواہ کفار میں سے ہو یا مسلمانوں میں سے ہو۔ مستامن وہ شخص ہے جو امان لے کر آیا ہو۔ پس اگر حربیوں میں سے کوئی شخص امان لے کر ہمارے یہاں آیا یا ہمارے یہاں سے کوئی تاجر امان لے کر حربیوں کے یہاں گیا تو وہ مستامن کہلائے گا۔ اور



اس کے لئے یہ جائز نہ ہوگا کہ اس ملک میں داخل ہو کر کسی طرح سے غدر کرے یا کسی کے ساتھ خیانت کرے۔

وَإِذَا دَخَلَ الْخَالِئُ أَوْ كَوْنُ مُسْلِمٍ أَمَانَ لَمْ يَكُنْ تَجَارَتِ كَيْ نِيَّتِ سِوَا الْحَرْبِ يَهْنَأُ تَوَهُ كَافِرُونَ كَالْمَالِ أَوْ الْإِنِّ كِي جَانُونَ سِوَا كَچھ تعرض نہ کرے کہ اس کے لئے یہ حلال نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے امان لے کر یہ عہد کر لیا ہے کہ میں کافروں سے کچھ تعرض (اور چھیڑ چھاڑ) نہیں کروں گا۔ اس لئے اس کے بعد ان سے تعرض کرنا غدر ہے اور بالاجماع غداری کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر مسلمان تاجر کے ساتھ ان کفار کا بادشاہ غدر کرے کہ اس کا مال چھین لے یا اس کو قید کرے یا اس بادشاہ کے علم میں ہوتے ہوئے بھی وہاں کے کفار کسی طرح تنگ کریں اور بادشاہ اس کی حفاظت اور ان سے روک پیدا نہ کرے تب اس مسلمان پر بھی اپنے عہد پر قائم رہنا ضروری نہیں رہا کہ یہ عہد ہی ختم ہو چکا ہے۔ اس لئے کہ کافروں نے خود ہی اپنا عہد توڑ دیا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کفار کسی مسلمان کو قید کر کے لے جائیں تو وہ جو مناسب سمجھے اپنے لئے کرے کیونکہ اس نے امان کا عہد نامہ ان سے نہیں لیا ہے۔ اس لئے اسے ہر طرح ان سے تعرض کرنا مباح ہوگا۔ اگرچہ کافروں نے اپنی خوشی سے ہی اسے رہا بھی کر دیا ہو۔

مسلمان تاجر ممانعت کے باوجود غدر کر کے کوئی چیز دارالاسلام لے کر آ

جائے تو وہ اس کا مالک ہوگا یا نہیں

فَإِنْ غَدَرَ بِهِمُ الْتَّاجِرُ فَأَخَذَ شَيْئًا وَخَرَجَ بِهِ مَلَكُهُ مَلَكًا مَحْظُورًا لِّوُجُوْدِ الْإِسْتِیْلَاءِ عَلَى مَالٍ مُّبَاحٍ إِلَّا أَنَّهُ حَصَلَ بِسَبَبِ الْغَدْرِ فَأَوْجَبَ ذَلِكَ حُبْثًا فِيهِ فَيُؤْمَرُ بِالتَّصَدُّقِ بِهِ وَهَذَا لِأَنَّ الْحَظَرَ لَغَيْرِهِ لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ السَّبَبِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ

ترجمہ..... فَإِنْ غَدَرَ بِهِمُ الْتَّاجِرُ اور اگر مسلمان تاجر ممانعت کے باوجود کافروں کے ساتھ اپنی طرف سے غدر کر کے ان کی کوئی چیز لے لے اور وہاں سے نکال کر دارالاسلام آ جائے تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا مگر ایسی ملکیت ممنوع سمجھی جائے گی۔ اس لئے کہ اگرچہ مباح مال پر اس نے قبضہ کیا اور اس کی ملکیت ہوئی لیکن اس کے حاصل کرتے ہوئے اس نے ان کے ساتھ فعل حرام یعنی غداری کی ہے۔ اس طرح اس نے اس مال میں ایک خبث اور خرابی پیدا کر دی ہے۔ لہذا اس مال کو صدقہ کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اس لئے کہ کسی خارجی وجہ سے حرمت کا آجانا سبب پیدا ہو جانے کو منع نہیں کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم باب استیلاء الکفار کے شروع ہی میں بیان کر چکے ہیں۔

مسلمان دارالحرب میں امان لے کر داخل ہوا اور کسی نے اسے مال بطور قرض دیا یا اس نے

بطور قرض دیا یا مسلمان نے یا حربی نے ایک دوسرے کا مال غصب کیا پھر وہ مسلمان

دارالاسلام سے نکل آیا اور وہ حربی بھی دارالاسلام امان لے کر آ گیا ایک دوسرے کو مال

واپس کریں گے یا نہیں

وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَأَدَانَهُ حَرْبِيٌّ أَوْ أَدَانَهُ هُوَ حَرْبِيًّا أَوْ غَصَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَاسْتَأْمَنَ الْحَرْبِيُّ لَمْ يُقْضَ لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ أَمَّا الْإِدَانَةُ فَلِأَنَّ الْقَضَاءَ يَعْتَمِدُ الْوِلَايَةَ وَلَا وَِلَايَةَ



وَقَتَّ إِلَّا دَانَةً أَصْلًا وَلَا وَقَتَّ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُسْتَأْمِنِ لِأَنَّهُ مَا التَّزَمَ حُكْمَ الْإِسْلَامِ فِيمَا مَضَى مِنْ أَفْعَالِهِ وَإِنَّمَا التَّزَمَ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَأَمَّا الْغَضَبُ فَلِأَنَّهُ صَارَ مِلْكًا لِلدِّي غَضَبُهُ وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ لِمُصَادَفَتِهِ مَا لَا غَيْرَ مَعْصُومٌ عَلَى مَا بَيْنَاهُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ حَرْبِيَيْنِ فَعَلَا ذَلِكَ ثُمَّ خَرَجَا مُسْتَأْمِنَيْنِ لِمَا قُلْنَا

ترجمہ..... اگر کوئی مسلمان امان لے کر دارالحرب میں داخل ہوا اور وہاں کسی نے اسے کچھ مال قرض کے طور پر دیا یا اسی نے وہاں کے کسی شخص کو قرض دیا یا اس مسلمان نے یا وہاں کے حربی نے ایک دوسرے کا مال غصب کر لیا۔ پھر وہاں سے وہ مسلمان دارالاسلام نکل آیا اور وہی حربی بھی امان لے کر دارالاسلام میں آ گیا تو ان دونوں میں سے دوسرے کے لئے حکم کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ ادھار کی صورت میں اس لئے حکم نہ ہوگا (فیصلہ سنانے سے بھی قاضی کا فیصلہ نافذ نہ ہوگا) کیونکہ قاضی کا فیصلہ اسی صورت میں نافذ ہوتا ہے جبکہ قاضی کو اس پر فیصلہ کرنے کا کچھ اختیار بھی ہو۔ حالانکہ ادھار لین دین کرنے کے وقت قاضی کو کسی قسم کا حق اس پر نہ تھا۔ اسی طرح اس وقت بھی یعنی اپنا فیصلہ دیتے وقت قاضی کو اس حربی جو کہ امان لے کر آیا ہوا ہے کسی قسم کا فیصلہ سنانے کا حق نہیں ہے۔ کیونکہ آنے والے حربی نے اپنے پچھلے دنوں کے افعال کے متعلق خود پر اسلام کے حکم کو لازم نہیں کیا بلکہ صرف آئندہ محدود دنوں کے لئے اپنے افعال کے متعلق کچھ باتوں کا التزام کیا ہے اور غصب کی صورت میں تو غصب کی ہوئی چیز اسی وقت غاصب کی ملک ہوگئی جبکہ وہ اس پر غالب ہو گیا ہے۔ کیونکہ اس نے ایسے مال کو غصب کیا ہے جو محترم مال نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ (یعنی دارالحرب کے لوگ اور ان کا مال اور وہ جگہ سب ملکیت میں آنے کے قابل اور غیر محترم ہیں) اسی طرح اگر دو حربیوں نے آپس میں ایسا کیا ہو پھر امان لے کر ہمارے یہاں آئے (اور ہمارے قاضی کے پاس آ کر اپنا پرانا مقدمہ پیش کیا) تو ان کے درمیان بھی قاضی کچھ فیصلہ نہ کرے گا۔ کیونکہ قاضی کا فیصلہ اپنے اختیار پر اعتماد کر کے اور اسی بنیاد پر ہوتا ہے۔ (یعنی قاضی کو یہ اختیار ہو کہ اس کا حکم ان لوگوں پر بھی نافذ ہو۔ حالانکہ ان حربیوں نے جس جگہ یہ معاملہ کیا ہے وہ دارالحرب ہے جہاں اس قاضی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ حکم اس صورت میں ہے جب کہ مسلمان کا ساتھی حربی یا دونوں حربی مسلمان ہو کر نہیں آئے بلکہ صرف امان لے کر آئے ہوں۔

اگر دونوں حربی مسلمان ہو کر دارالاسلام آگئے قرض ادا کرنے کا حکم دیا جائے گا

وَلَوْ خَرَجَا مُسْلِمَيْنِ قَضَى بِاللَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يُقْضَ بِالْغَضَبِ أَمَّا الْمَدَايِنَةُ فَلِأَنَّهَا وَقَعَتْ صَحِيحَةً لَوْ قُوَّعَهَا بِالتَّرَاضَى وَالْوَلَايَةُ ثَابِتَةٌ حَالَةَ الْقَضَاءِ لِإِتِّزَامِهِمَا الْأَحْكَامَ بِالْإِسْلَامِ وَأَمَّا الْغَضَبُ فَلِمَا بَيْنَا أَنَّهُ مِلْكُهُ وَلَا خُبَّتَ رَفِي مِلْكِ الْحَرْبِيِّ حَتَّى يُؤْمَرَ بِالرَّدِّ

ترجمہ..... وَلَوْ خَرَجَا مُسْلِمَيْنِ الخ اور اگر دونوں حربی مسلمان ہو کر دارالاسلام چلے آئے تو ان کے درمیان (مطالبہ کرنے کی صورت میں) قرضہ کا حکم کیا جائے گا۔ یعنی جو قرض دار ہو وہ اپنا قرض ادا کر دے۔ لیکن غصب کی صورت میں کوئی حکم نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرضہ کا لین دین تو صحیح طور پر ہوا تھا کیونکہ دونوں کی رضامندی سے ہوا تھا۔ اور قاضی کو اپنے فیصلہ سنانے کے وقت ان دونوں پر اختیار حاصل ہے۔ کیونکہ ان دونوں نے اسلام قبول کر کے اسلام کے احکام کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اور غصب کی صورت میں فیصلہ نہ کرنا اوپر بتائی ہوئی وجہ سے ہے۔ یعنی اس حالت میں غصب کرنے والا حربی دوسرے حربی کے مال مغصوب کا مالک ہو چکا ہے اور حربی



کی ملکیت میں کوئی ناپاکی نہیں ہے۔ کہ اسے واپس کرنے کا حکم دیا جائے۔

مسلمان امان لیکر دارالحرب میں داخل ہوا اور حربی کی کوئی چیز غصب کر لی پھر حربی مسلمان ہو کر اس مسلمان کے ساتھ دارالاسلام آیا اسے واپسی کا حکم دیا جائے

وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَغَصَبَ حَرْبِيًّا ثُمَّ خَرَجَا مُسْلِمَيْنِ أَمْرٌ بِرَدِّ الْغَصَبِ وَلَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ أَمَّا عَدَمُ الْقَضَاءِ فَلِمَّا بَيَّنَّا أَنَّهُ مَلَكُهُ وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالرَّدِّ وَمُرَادُهُ الْفَتْوَى بِهِ فَلِأَنَّهُ فَسَدَ الْمَلِكُ لِمَا يُقَارِنُهُ مِنَ الْمُحَرَّمَ وَهُوَ نَقْضُ الْعَهْدِ

ترجمہ..... اور اگر کوئی مسلمان امان لے کر دارالحرب میں گیا اور اس نے وہاں کسی حربی کا کوئی مال غصب کر لیا پھر وہ حربی مسلمان ہو گیا اور مسلمان کے ساتھ ہو کر دونوں دارالاسلام آ گئے۔ تو دیانت داری کے طور پر اس سے کہا جائے گا کہ اس کا مال مغضوب واپس کر دے۔ مگر قاضی اس کا حکم نہیں کرے گا۔ اور یہ اسی وجہ سے حکم نہیں کرے گا جو اوپر بیان کی جا چکی ہے کہ مسلمان اس محترم مال کا مالک ہوا ہے۔ پھر بھی اس مسلمان کو واپس کرنے کے لئے کہنے اور فتویٰ دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ غلط اور فاسد طریقہ سے اس مال کا مالک ہوا ہے۔ یعنی اس نے عہد کے خلاف اور غداری کے ساتھ غصب کیا ہے جو ایک حرام کام ہے۔ جس کا تقاضا یہ ہے کہ اصل مالک کو اس کا مال واپس کر دیا جائے۔

دو مسلمان امان لیکر دارالحرب میں داخل ہوئے پھر ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا خطا ہو یا عمد اتو قاتل پر مقتول کی دیت لازم ہوگی اور یہ دیت عاقلہ پر لازم نہیں ہوگی

وَإِذَا دَخَلَ مُسْلِمَانِ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَاً فَعَلَى الْقَاتِلِ الدِّيَّةُ فِي مَالِهِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي الْخَطَا أَمَّا الْكَفَّارَةُ فَلِلْإِطْلَاقِ الْكِتَابِ وَالِدِّيَّةُ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ الثَّابِتَةَ بِالْأَحْرَارِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ لَا تَبْطُلُ بِعَارِضِ الدُّخُولِ بِالْأَمَانِ وَإِنَّمَا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ إِلَّا بِمَنْعَةٍ وَلَا مَنَعَةَ بَدُونِ الْإِمَامِ وَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَّةُ فِي مَالِهِ فِي الْعَمْدِ لِأَنَّ الْعَوَاقِلَ لَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ وَفِي الْخَطَا لِأَنَّهُ لَا قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى الصِّيَانَةِ مَعَ تَبَايُنِ الدَّارَيْنِ وَالْوُجُوبِ عَلَيْهِمْ عَلَى اعْتِبَارِ تَرْكِهَا

ترجمہ..... وَإِذَا دَخَلَ مُسْلِمَانِ..... الخ اور اگر دو مسلمان امان لے کر دارالحرب میں گئے اور وہاں ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا خواہ عمدہ ہو یا خطا تو قاتل پر مقتول کی دیت لازم آئے گی لیکن یہ دیت خاص قاتل کے اپنے مال پر واجب ہوگی یعنی اس کی برادری اس میں شریک نہیں ہوگی۔ اور خطا کی صورت میں اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا۔ (یعنی عمدہ قتل کرنے کی صورت میں بھی قتل (قصاص) لازم نہیں آئے گا) بلکہ صرف دیت لازم آئے گی۔ اور قتل خطا میں کفارہ اس لئے واجب ہوگا کہ کتاب اللہ میں حکم مطلق ہے (یعنی کتاب اللہ قرآن مجید میں قتل خطا کی صورت میں مطلقاً کفارہ کا حکم ہے یعنی اس میں اس کی تفصیل نہیں ہے کہ یہ قتل دارالاسلام میں ہو یا دارالحرب میں ہو۔ پس دارالاسلام ہونے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ



الایسہ یعنی جس نے کسی مومن غلام کو آزاد کرنا لازم ہوگا الخ اب یہ قتل خواہ دارالاسلام میں ہوا ہو یا دار الحرب میں بہر حال اس پر ایک مومن غلام کو آزاد کرنا لازم ہوگا) اور اب قصاص کے حکم کو ختم کر کے دیت لازم کرنے کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ مقتول کو دارالاسلام میں رہنے کی وجہ سے اس کی جان کی جو عصمت اور محافظت تھی وہ امان لے کر دارالحرب میں جانے سے ختم نہ ہوئی لہذا اس کا خون یوں ہی ضائع نہیں ہوگا بلکہ اس کا بدل یعنی مال لازم ہوگا۔ اور خون کا بدلہ خون (قصاص) اس لئے لازم نہ ہوگا کہ قصاص لینے کے لئے طاقتور حکومت اور قدرت کا ہونا ضروری ہے اس کے بغیر یہ ممکن نہ ہوگا (ہونے سے بھی زبردست فتنہ پھیل جائے گا) اور طاقتور حکومت کے لئے امام المؤمنین اور جماعت مسلمین کا ہونا ضروری ہے۔ جبکہ دارالحرب میں اس کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ (قاضی خان نے ذکر کیا ہے کہ یہ قول امام ابوحنیفہؒ کا ہے اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما نے کہا ہے کہ عدا ہونے کی صورت میں قاتل پر قصاص لازم ہوگی۔ یہی قول امام مالک و شافعی و احمد رحمہم اللہ علیہم کا بھی ہے) اس سے پہلے یہی کہا گیا ہے کہ قتل عدا ہونے کی صورت میں جو دیت لازم ہوگی وہ خاص اسی قاتل کے مال سے لازم ہوگی۔ اس لئے کہ عاقلہ یعنی مددگار برادری قتل عدا کا جرمانہ اپنے اوپر برداشت نہیں کرتی ہے۔ وہ تو قتل خطاء میں برداشت کرتی ہے وہ بھی دیت یہاں ان پر لازم نہ ہوگی کیونکہ ان پر دیت اس بناء پر لازم ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس خطا وار کو یوں ہی آزاد نہ چھوڑیں بلکہ اس پر نظر رکھیں اور اس کی حفاظت کرتے رہیں۔ مگر یہاں تو ملک بدلا ہوا ہے یعنی وہ تو دارالحرب ہے جہاں کس طرح بھی اس کی حفاظت ممکن نہیں ہے۔ لہذا ان پر دیت بھی لازم نہ ہوگی۔

اگر مسلمان قیدی دارالحرب میں ایک دوسرے کو قتل کر دیں تو دیت قاتل پر لازم ہوگی یا نہیں

وَإِنْ كَانَا أُسِيرَيْنِ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَوْ قَتَلَ مُسْلِمٌ تَاجِرًا أُسِيرًا فَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاتِلِ إِلَّا الْكَفَّارَةُ فِي الْخَطَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ فِي الْأُسِيرَيْنِ الدِّيَّةُ فِي الْخَطَا وَالْعَمْدِ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ لَا تَبْطُلُ بِعَارِضِ الْأُسْرِ كَمَا لَا تَبْطُلُ بِعَارِضِ الْأَسْتِثْمَانِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَامْتِنَاعُ الْقِصَاصِ لِعَدَمِ الْمَنَعَةِ وَيَجِبُ الدِّيَّةُ فِي مَالِهِ لِمَا قُلْنَا وَلَا يُبَى حَنِيفَةَ أَنَّ بِالْأُسْرِ صَارَ تَبَعًا لَهُمْ بِصَيْرُ وَرَثَتِهِ مَقْهُورًا فِي أَيْدِيهِمْ وَلِهَذَا يَصِيرُ مُقِيمًا بِأَقَامَتِهِمْ وَمُسَافِرًا بِسَفَرِهِمْ فَيَبْطُلُ بِهِ الْاُخْرَازُ أَصْلًا وَصَارَ كَالْمُسْلِمِ الَّذِي لَمْ يَهَا جُرْإِلَيْنَا وَخَصَّ الْخَطَا بِالْكَفَّارَةِ لِأَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِي الْعَمْدِ عِنْدَنَا

ترجمہ..... اور اگر دو مسلمان دارالحرب میں داخل ہوئے جو قیدی تھے ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا یا ان میں سے ایک مسلم تاجر نے مسلمان قیدی کو قتل کر دیا تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قاتل پر کچھ بھی لازم نہ ہوگا۔ البتہ اگر خطاء قتل ہوا ہو تو کفارہ واجب ہوگا اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما نے کہا ہے کہ دونوں قیدیوں کی صورت میں دیت واجب ہوگی۔ خواہ خطاء قتل ہوا ہو یا عدا کیونکہ قید میں ہونے کی وجہ سے اس کی عصمت ختم نہ ہوگی۔ جیسے کہ امان لے کر جانے سے وہ معصوم ہی رہتا ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے اور قصاص لازم ہونے سے اس لئے انکار کیا گیا ہے کہ وہاں اپنی طاقت اور اپنا اختیار نہیں ہے اور دیت صرف قاتل کے مال میں اس لئے لازم ہوگی کہ اس کے مددگار برادری (عاقلہ) عدا قتل کرنے میں کوئی مدد نہیں کرتے ہیں اور نہ اس کا نقصان برداشت کرتے ہیں اور قتل خطا ہونے کی صورت میں وہاں اس کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ وہ قیدی اپنے مقید ہونے کی وجہ سے اہل حرب کے تابع ہو گیا ہے۔ کیونکہ وہ ان لوگوں سے مغلوب ہے۔ اس لئے وہ حربی جہاں بھی اقامت کریں گے وہیں وہ بھی



اقامت کرنے پر مجبور ہوگا۔ اور جب بھی وہ لوگ سفر کریں گے یہ بھی ان کے ساتھ مسافر ہو جائے گا۔ اس طرح وہ ان لوگوں سے اپنے نفس کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ اور وہ ایسے مسلمان کے مثل ہو گیا جو دارالحرب میں اسلام لایا مگر وہاں سے ہجرت کر کے ہمارے یہاں نہیں آیا۔ پھر کفارہ صرف قتل خطا کی صورت میں لازم کیا گیا ہے۔ کیونکہ ہمارے نزدیک قتل عمد میں کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ (واضح ہو کہ گزشتہ مسئلہ میں قاضی خان صاحبین رحمۃ اللہ علیہما سے جو نقل کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں دونوں قیدیوں کی صورت میں بھی قتل عمد میں قصاص ہی واجب ہو۔ جیسا کہ فتح القدیر میں ہے۔ حالانکہ نص میں قصاص نہیں بلکہ دیت کا ذکر ہے۔ اس لئے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی لئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان نہیں کیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

## فصل فی استیمان الکافر

ترجمہ..... فصل حربی متامن کے احکام کا بیان

حربی کے لئے دارالاسلام میں امان لیکر کتنی مدت ٹھہرنے کی اجازت ہے

قَالَ وَإِذَا دَخَلَ الْحَرَبِيُّ إِلَيْنَا مُسْتَأْمِنًا لَمْ يُمْكَنْ أَنْ يُقِيمَ فِي دَارِنَا سَنَةً وَيَقُولَ لَهُ الْإِمَامُ إِنْ أَقَمْتَ تَمَامَ السَّنَةِ وَضَعْتُ عَلَيْكَ الْجِزْيَةَ وَالْأَصْلُ أَنَّ الْحَرَبِيَّ لَا يُمْكَنْ مِنْ إِقَامَةٍ دَائِمَةٍ فِي دَارِنَا إِلَّا بِالِاسْتِرْقَاقِ أَوْ الْجِزْيَةِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ عَيْنًا لَهُمْ وَعَوْنًا عَلَيْنَا فَيَلْتَحِقُ الْمَضَرَّةُ بِالْمُسْلِمِينَ وَيُمْكَنْ مِنَ الْإِقَامَةِ الْيَسِيرَةِ لِأَنَّ فِي مَنَعِهَا قَطْعُ الْمِيرَةِ وَالْجَلْبِ وَسَدُّ بَابِ التَّجَارَةِ فَفَصَّلْنَا بَيْنَهُمَا بِسَنَةٍ لِأَنَّهُمَا مَدَّةٌ تَجِبُ فِيهَا الْجِزْيَةُ فَيَكُونُ الْإِقَامَةُ لِمَصْلَحَةِ الْجِزْيَةِ ثُمَّ إِنْ رَجَعَ بَعْدَ مَقَالَةِ الْإِمَامِ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ إِلَى وَطَنِهِ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ وَإِذَا مَكَثَ سَنَةً فَهُوَ ذِمِّي لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَامَ سَنَةً بَعْدَ تَقَدُّمِ الْإِمَامِ إِلَيْهِ صَارَ مُلْتَزِمًا لِلْجِزْيَةِ فَيَصِيرُ ذِمِّيًّا وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُوقِفَ فِي ذَلِكَ مَا دُونَ السَّنَةِ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرَيْنِ

ترجمہ..... کہا جب کوئی حربی امن لے کر ہمارے ہاں آئے تو اس کو اتنا موقع نہ دیا جائے کہ وہ ہمارے یہاں ایک سال ٹھہرے۔ ایسی صورت میں امام اس سے یہ کہے کہ اگر تم پورے ایک سال ہمارے یہاں رہ جاؤ گے تو میں تم پر جزیہ مقرر کر دوں گا۔ اس باب میں اصل یہ ہے کہ کسی حربی کو دارالاسلام میں ہمیشہ رہنے کا موقع اور اختیار نہیں دیا جائے گا۔ البتہ اسی صورت میں موقع مل سکتا ہے جبکہ اسے غلام بنالینا ہو یا اس پر جزیہ مقرر کیا گیا ہو۔ کیونکہ اجازت دینے کی صورت میں وہ شخص جاسوس اور ہمارے خلاف اپنے ملک دارالحرب کا مددگار ہو جائے گا۔ جس سے عام مسلمانوں کو سخت نقصان ہوگا۔ البتہ تھوڑے دن رہنے کی اسے اجازت دی جاسکے گی کیونکہ اس کا بھی انکار کر دینے سے غلہ اور دوسری ضروری چیزوں کی درآمد اور رسد ختم ہو جائے گی۔ اس طرح تجارت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لہذا ہم نے تھوڑی اور زیادہ مدت کے درمیان فرق کرنے کے لئے ایک سال کا عرصہ مقرر کیا ہے۔ کیونکہ یہ ایسی مدت ہے جس میں جزیہ واجب ہوتا ہے۔ اور اس کو اقامت کی اجازت دینے میں جزیہ وصول کرنے کی مصلحت ہوگی۔ پھر امام کے کہنے کے بعد اگر وہ ایک سال سے پہلے اپنے وطن کو چلا گیا تو اس پر جزیہ لازم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کہنے کے بعد بھی وہ ایک سال تک یہاں رہ گیا تو وہ ذمی بن جائے



گا۔ یعنی آئندہ وہ اپنے وطن نہیں جاسکے گا۔ کیونکہ امام نے تو اس کو پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ جب یہاں مقیم رہ گیا تو گویا اس نے خود ہی اپنے اوپر جزیہ لازم کر لیا اور اب وہ ذمی ہو گیا۔ اور امام کو اختیار ہے کہ سال سے کم مدت میں کوئی خاص وقت مثلاً ایک دو مہینے مقرر کر کے اسے مہلت دے دے۔

امام کے کہنے کے باوجود وہ ایک سال ٹھہرا رہا تو وہ ذمی ہو گا

وَإِذَا أَقَامَهَا بَعْدَ مَقَالِ الْإِمَامِ يَصِيرُ ذِمِّيًّا لِمَا قُلْنَا ثُمَّ لَا يُتْرَكُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ لَا يَنْقُضُ كَيْفَ وَإِنْ فِيهِ قَطْعُ الْجِزْيَةِ وَجَعَلَ وَلَدِهِ حَرْبًا عَلَيْنَا وَفِيهِ مَضَرَّةٌ بِالْمُسْلِمِينَ

ترجمہ..... وَإِذَا أَقَامَهَا الخ اور جب امام کے کہنے اور مہلت دینے کے بعد بھی وہ سال بھر (مجموعاً) رہ گیا تو وہ ذمی ہو جائے گا۔ جس کی دلیل بیان کی جا چکی ہے۔ کہ اس نے امام کی حکم عدولی کر کے خود پر جزیہ لازم کر لیا ہے۔ پھر اسے دار الحرب واپس جانے کے لئے نہیں چھوڑا جائے گا۔ کیونکہ ایک مرتبہ اسے ذمی بنا کر اس کا ذمہ لے کر اس کے خلاف نہیں کیا جاسکتا ہے۔ پھر اسے چھوڑ دینے سے جزیہ کم ہو جائے گا۔ اور اس کی اولاد ہمارے خلاف لڑنے کے لئے تیار ہو جائے گی۔ جس سے مسلمانوں کا سخت نقصان ہو گا۔

حربی دار الاسلام میں امان لیکر داخل ہو اس نے خراجی زمین خریدی اس

پر خراج لگایا گیا تو وہ ذمی ہے

فَإِنْ دَخَلَ الْحَرْبِي دَارَنَا بِأَمَانٍ فَاشْتَرَى أَرْضَ خِرَاجٍ فَإِذَا وَضَعَ عَلَيْهِ الْخِرَاجُ فَهُوَ ذِمِّيٌّ لِأَنَّ خِرَاجَ الْأَرْضِ بِمَنْزِلَةِ خِرَاجِ الرَّأْسِ وَإِذَا تَزَمَّ صَارَ مُتَزَمًّا بِالمَقَامِ فِي دَارِنَا أَمَّا بِمَجَرَّدِ الشِّرَاءِ لَا يَصِيرُ ذِمِّيًّا لِأَنَّهُ قَدْ اشْتَرَاهَا لِلتَّجَارَةِ وَإِذَا لَزِمَهُ خِرَاجُ الْأَرْضِ فَبَعْدَ ذَلِكَ تَلَزَمُهُ الْجِزْيَةُ لِسَنَةِ مُسْتَقْبَلَةٍ لِأَنَّهُ يَصِيرُ ذِمِّيًّا بِلُزُومِ الْخِرَاجِ فَتُعْتَبَرُ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ وَجُوبِهِ وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ فَإِذَا وَضَعَ عَلَيْهِ الْخِرَاجُ فَهُوَ ذِمِّيٌّ تَصْرِيحٌ بِشَرْطِ الْوَضْعِ فَيُخْرِجُ عَلَيْهِ أَحْكَامَ جُمَّةٍ فَلَا يُغْفَلُ عَنْهُ

ترجمہ..... اگر کوئی حربی ہمارے ملک دار الاسلام میں امان لے کر آیا یا اس نے یہاں کوئی خراجی زمین خریدی۔ اس بناء پر جب بھی اس زمین پر خراج لازم کیا جائے گا تو وہ ذمی ہو جائے گا۔ کیونکہ زمین پر خراج لازم کرنا آدمی پر جزیہ لازم کرنے کے مانند ہوتا ہے۔ پس جب کہ اس حربی نے خود پر خراج کو لازم کر لیا تو گویا اس نے دار الاسلام میں خود رہنے کو لازم کر لیا۔ مگر صرف زمین خرید لینے سے وہ ذمی نہیں ہو جائے گا کیونکہ زمین کبھی تجارت کے لئے بھی خریدی جاتی ہے۔ جب زمین پر خراج لازم کر دیا گیا تو اس کے بعد آئندہ سال کے لئے اس کی ذات پر جزیہ لازم کر دیا جائے گا۔ کیونکہ زمین پر خراج لازم ہونے سے ہی وہ ذمی ہو جائے گا۔ اس طرح جب سے اس پر جزیہ لازم ہو گا اسی وقت سے اس کی مدت شروع ہو جائے گی۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع صغیر میں جو یہ فرمایا ہے کہ جس وقت بھی اس پر خراج مقرر کیا جائے گا اسی وقت سے وہ ذمی ہو جائے گا۔ تو اس کلام میں صراحت کے ساتھ یہ شرط بنادی گئی کہ جزیہ مقرر کرنے پر ہی وہ ذمی ہو جائے گا یعنی اس سے پہلے تک اس پر ذمی ہو جانے کا حکم نہیں لگایا جائے گا پس اسی کہنے پر اس سے بہت سے احکام نکل آتے



ہیں۔ اس لئے اس شرط کو کبھی نہیں بھولنا چاہئے۔

حربہ امان لیکر داخل ہو اور ذمی سے نکاح کر لے تو وہ ذمیہ ہوگی یہی حکم مرد کا ہے

وَإِذَا دَخَلَتْ حَرْبِيَّةٌ بِأَمَانٍ فَتَزَوَّجَتْ ذِمِّيًّا صَارَتْ ذِمِّيَّةً لِأَنَّهَا التَّزَمَتْ الْمَقَامَ تَبَعًا لِلزَّوْجِ وَإِذَا دَخَلَ حَرْبِيٌّ بِأَمَانٍ فَتَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً لَمْ يَصِرْ ذِمِّيًّا لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَطْلُقَهَا فَيَرْجِعُ إِلَى بَلَدِهِ فَلَمْ يَكُنْ مُلتَزِمًا بِالْمَقَامِ

ترجمہ..... وَإِذَا دَخَلَتْ حَرْبِيَّةٌ..... الخ اور اگر کوئی حربیہ عورت امان لے کر ہمارے دارالاسلام میں داخل ہوئی اور اس نے ہمارے یہاں کے کسی ذمی مرد سے نکاح کر لیا تو وہ ذمیہ ہوگئی۔ کیونکہ نکاح کر لینے سے اس نے اپنے شوہر کے تابع ہو کر یہیں رہنے کو لازم کر لیا ہے یعنی اب وہ ذمیہ ہوگئی ہے، اور اگر کوئی حربی مرد امان لے کر ہمارے ملک دارالاسلام میں داخل ہو اور ملکی ذمیوں میں سے کسی ذمیہ عورت سے اس نے نکاح کر لیا تو وہ ذمی نہیں بنے گا کیونکہ اسے اس بات کا اختیار رہتا ہے کہ بیوی کو طلاق دے کر اپنے ملک میں واپس چلا جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس نے یہاں رہنے کو خود پر لازم نہیں کیا ہے۔

حربی امان لیکر دارالاسلام میں داخل ہوا پھر دارالحرب لوٹ گیا اور کسی مسلمان یا ذمی کے

پاس امانت یا دین چھوڑ کر گیا پھر لوٹ کر دارالاسلام آیا تو وہ مباح الدم ہے

وَلَوْ أَنَّ حَرْبِيًّا دَخَلَ دَارَنَا بِأَمَانٍ ثُمَّ عَادَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ وَتَرَكَ وَدِيعَةً عِنْدَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ دِينَارِيٍّ ذِمَّتِهِمْ فَقَدْ صَارَ دَمُهُ مُبَاحًا بِالْعَوْدِ لِأَنَّهُ أَبْطَلَ أَمَانَهُ وَمَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مِنْ مَالِهِ عَلَى خَطَرٍ فَإِنْ أُسِرَ أَوْ ظَهَرَ عَلَى الدَّارِ فَقُتِلَ سَقَطَتْ دِيُونُهُ وَصَارَتْ الْوَدِيعَةُ فَيْئًا أَمَّا الْوَدِيعَةُ فَلِأَنَّهَا فِي يَدِهِ تَقْدِيرًا لِأَنَّ يَدَ الْمُؤَدَّعِ كَيْدِهِ فَيَصِيرُ فَيْئًا تَبَعًا لِنَفْسِهِ وَأَمَّا الدِّينُ فَلِإَنَّ اثْبَاتَ الْيَدِ عَلَيْهِ بِوَاسِطَةِ الْمُطَالَبَةِ وَقَدْ سَقَطَتْ وَيَدُ مَنْ عَلَيْهِ أَسْبَقُ إِلَيْهِ مِنْ يَدِ الْعَامَّةِ فَيَخْتَصُّ بِهِ

ترجمہ..... اور اگر کوئی حربی ہمارے ملک میں امان و اجازت کے ساتھ داخل ہوا۔ پھر وہ اپنے ملک دارالحرب لوٹ گیا۔ اور چلتے ہوئے یہاں کسی مسلم کے پاس اپنی کوئی امانت یا ان کے ذمہ کچھ قرض چھوڑ کر گیا۔ تو (اس کے واپس چلے جانے سے اس کا امان نامہ ختم ہو کر وہ حسب سابق ہو گیا کہ لوٹ کر آنے سے) اس کا خون مسلمانوں کے لئے مباح ہو گیا۔ اور دارالاسلام میں وہ جو کچھ مال چھوڑ کر گیا تھا وہ سب خطرہ میں ہے (یعنی اس کا یہ مال امان سابق باقی رکھنے اور حق جتانے کے لائق نہیں رہا) چنانچہ اگر وہ آنے کے بعد قید کر لیا جائے یا دارالحرب میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے دارالحرب پر غالب ہونے کی صورت میں قتل کر دیا جائے تو اس کی پہلے کی رکھی ہوئی امانت مال غنیمت ہو جائے گی اور چھوڑا ہوا قرضہ ختم اور ساقط ہو جائے گا۔ کیونکہ امانت تو معنی اس کے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ دارالاسلام میں جس کے پاس رکھ کر گیا تھا اس کا قبضہ خود اس حربی کے قبضہ کی طرح ہے تو اب جیسے وہ خود غنیمت کے حکم میں (اور مباح الدم) ہو گیا اسی کے تابع ہو کر اس کی رکھی ہوئی امانت بھی غنیمت ہوگئی۔ اور وہ قرض جو کسی پر چھوڑ کر گیا تھا یعنی کسی قرضدار پر جو اس کا قرض باقی ہے وہ اس لئے ساقط ہو جائے گا کہ اس کا مطالبہ کرنے کے بعد ہی اس پر قبضہ ثابت ہوگا۔ اور حربی کے واپس چلے جانے کی وجہ سے اس کے مطالبہ کا حق ساقط ہو گیا ہے۔ اور اس سے تمام مسلمانوں کا حق متعلق ہو گیا مگر جس شخص پر وہ حق باقی ہے چونکہ اس کا قبضہ اس مال پر دوسروں کی

بہ نسبت پہلے سے ہے اس لئے یہ حق اُسی کے قبضہ میں رہ جائے گا۔

اگر وہ حربی قتل کر دیا گیا اور مسلمان دارالحرب پر غالب نہ آ سکے تو اس کا چھوڑا ہوا قرض اور امانت اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگی

وَإِنْ قُتِلَ وَلَمْ يُظْهَرْ عَلَى الدَّارِ فَالْقَرْضُ وَالْوَدِيعَةُ لَوَرَثَتِهِ وَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَ لِأَنَّ نَفْسَهُ لَمْ تَصِرْ مَغْنُومَةً فَكَذَلِكَ مَالُهُ وَهَذَا لِأَنَّ حُكْمَ الْأَمَانِ بَاقٍ فِيْمَالِهِ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى وَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ

ترجمہ..... وَ إِنْ قُتِلَ وَلَمْ يُظْهَرْ..... الخ اگر (مسلمانوں سے مقابلہ میں) صرف وہی حربی قتل کر دیا گیا اور عام مسلمان اس دارالحرب پر غالب نہیں آ سکے تو اس کا چھوڑا ہوا قرض یا کسی شخص کے پاس رکھی ہوئی امانت جو کچھ بھی دارالاسلام میں ہے اس کے وارثوں کی میراث ہوگی۔ اسی طرح اگر وہ خود مر گیا (قتل نہیں کیا گیا) تو اس کا مال بھی غنیمت نہ ہوا۔ کیونکہ دارالاسلام میں آنے کے لئے جو اس نے امان نامہ حاصل کیا تھا وہ اس کے مال کے بارے میں باقی ہے۔ اسی لئے اس کا قرض یا امانت جو کچھ بھی ہے وہ خود اس کو یا اس کے بعد اس کے وارثوں کو واپس دی جائے گی۔

مسلمانوں نے جو اموال دھمکا کر اور بغیر قتال کے پیش قدمی کر کے حاصل کئے وہ مسلمانوں کی مصالح میں خرچ کئے جائیں گے

قَالَ وَمَا وَجَفَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ بِغَيْرِ قِتَالٍ يُضْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا يُضْرَفُ الْخِرَاجُ قَالُوا هُوَ مِثْلُ الْأَرْضِ الَّتِي أَجْلَوْا أَهْلَهَا عَنْهَا وَالْجَزِيَّةُ وَالْأُخْمُسُ فِي ذَلِكَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِيهِمَا الْخُمْسُ اِغْتِبَارًا بِالْغَنِيمَةِ وَلَنَا مَا رَوَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخَذَ الْجَزِيَّةَ وَكَذَلِكَ عُمَرُ وَمَعَاذُ وَضَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَمْ يُخْمَسْ وَلَآئِنَّ مَالًا مَأْخُودٌ بِقُوَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ بِخِلَافِ الْغَنِيمَةِ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ بِمُبَاشَرَةِ الْغَانِمِينَ وَبِقُوَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَحَقَّ الْخُمْسُ بِمَعْنَى وَاسْتَحَقَّهُ الْغَانِمُونَ بِمَعْنَى وَفِي هَذَا السَّبَبِ وَاحِدٌ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَلَا مَعْنَى لَا يُجَابِ الْخُمْسُ

ترجمہ..... قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اور مجاہدین اسلام نے اہل حرب کے جو اموال صرف ان پر پیش قدمی اور دھمکا کر یعنی قتال کے بغیر اپنے قبضہ میں لئے وہ مسلمانوں کی مصلحتوں میں خرچ کئے جائیں گے جیسے کہ مال خراج خرچ کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے مشائخ رحمۃ اللہ علیہم نے کہا ہے کہ یہ اموال ان اراضی کے مانند ہیں جہاں سے لوگوں کو نکال دیا گیا ہے۔ اور مثل جزیہ کے ہیں اور ان میں سے پانچواں حصہ نہیں لیا جائے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جزیہ و اراضی اور خراج سب سے پانچواں حصہ لیا جائے گا غنیمت پر قیاس کرتے ہوئے۔ (یعنی جس طرح غنیمت سے پانچواں حصہ لیا جائے گا۔ اسی طرح جزیہ، اراضی، خراج میں سے بھی لیا جائے گا)۔

ہماری دلیل..... یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مقام ہجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا اور حضرت عمرؓ نے سواد والوں سے اور حضرت معاویہؓ نے یمن والوں سے جزیہ لیا۔ اور یہ سب مال بیت المال میں رکھا گیا تھا۔ اور اس میں سے پانچواں حصہ نہیں لیا گیا۔ (ابوداؤد نے اس کی روایت کی



ہے۔ اور اس دلیل سے بھی کہ یہ ایسا مال ہے جو مسلمانوں کی قوت اور رعب سے قتل و قتل کئے بغیر حاصل ہوا ہے۔ برخلاف غنیمت کے کیونکہ غنیمت کا مال تو غازیوں اور مسلمانوں کی لڑائی سے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اس مال غنیمت سے بہ نظر رعب (بیت المال) پانچوں حصہ کا حق دار ہوتا ہے۔ اور قتال کی نوبت آنے کا خیال کر کے باقی چار حصوں کے مجاہدین مستحق ہوتے ہیں اور اس مال سے جو کہ قتال کے بغیر دشمن کے صرف مرعوب ہو جانے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اس میں صرف ایک ہی سبب (مسلمانوں کے رعب سے) ہوتا ہے اس میں پانچواں حصہ واجب کرنے کی وجہ معقول نہیں ہوتی ہے۔

تشریح..... حاصل یہ کہ وہ تمام اموال جو مسلمانوں کے لشکر نے بغیر کسی مشقت و قتال کے فقط رعب و دبدبہ کی بناء پر حاصل کئے ہوں وہ امت مسلمہ کی فلاح و ترقی میں خرچ ہوں گے۔ غرض یہ کہ ایسے اموال سے خمس نہ نکالا جائے گا اور نہ ہی ایسے اموال کو باقاعدہ طور پر لشکر اسلام میں تقسیم کیا جائے گا بلکہ یہ اموال اہل اسلام کی فلاح ان کی سرحدوں کی حفاظت آلات حرب وغیرہ کیلئے استعمال کئے جائیں گے۔

جب حربی دارالاسلام میں امان لیکر آیا اور مسلمان ہو گیا تو اسکی دارالحرب میں بیوی بچے اور مال و دولت تھی اور مسلمان دارالحرب پر غالب آگئے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائیگا

وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ دَارَنَا بِأَمَانٍ وَلَهُ امْرَأَةٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَأَوْلَادٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ وَمَالٌ أَوْ دَعَا بَعْضُهُ ذِمَّتًا وَبَعْضُهُ حَرْبِيًّا وَبَعْضُهُ مُسْلِمًا فَأَسْلَمَ هَهُنَا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى الدَّارِ فَذَلِكَ كُلُّهُ فِيءٌ أُمَّا الْمَرْأَةُ وَأَوْلَادُهُ الْكِبَارُ فَظَاهِرٌ لَّأَنَّهُمْ حَرْبِيُّونَ كِبَارٌ وَلَيْسُوا بِأَتْبَاعٍ وَكَذَلِكَ مَا فِي بَطْنِهَا لَوْ كَانَتْ حَامِلًا لِمَا قُلْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُمَّا أَوْلَادُهُ الصِّغَارُ فَلِأَنَّ الصَّغِيرَ إِنَّمَا يَصِيرُ مُسْلِمًا تَبَعًا لِإِسْلَامِ أَبِيهِ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ وَتَحْتَ وَلا يَتَّهِى وَمَعَ تَبَائِنِ الدَّارَيْنِ لَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ وَكَذَا أَمْوَالُهُ لَا تَصِيرُ مُحَرَّرَةً بِإِحْرَازِهِ نَفْسَهُ لِاخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ فَبَقِيَ الْكُلُّ فِئًا وَغَنِيمَةً

ترجمہ..... وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ دَارَنَا..... الخ اور اگر حربی امان لے کر ہمارے یہاں آیا اس حال میں کہ وہاں دارالحرب میں اس کی بیوی چھوٹی اور بڑی ہر طرح کی اولاد بھی موجود ہے اور اس کا مال بھی جس میں سے تھوڑا حصہ کسی ذمی کے پاس اور تھوڑا کسی حربی کے پاس اور کچھ مال کسی مسلمان کے پاس بطور امانت رکھا ہے پھر وہ حربی دارالاسلام میں مسلمان ہو گیا۔ پھر غازیوں نے دارالحرب کو مغلوب کر لیا تو اس حربی کا کل مال غنیمت کا مال ہو جائے گا۔ چنانچہ بیوی اور بالغ اولاد کا غنیمت ہونا تو ظاہر ہے۔ کیونکہ وہ سب حربی اور کافر اور بالغ ہیں۔ اس لئے ایک حربی کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے یہ بالغ اولاد اور اس کی بیوی اس کی تابع ہو کر مسلمان نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس حربی کی بیوی اگر حاملہ ہو تو اس کے پیٹ کا بچہ بھی غنیمت ہوگا۔ کیونکہ وہ جب تک پیدا ہو کر پیٹ سے جدا نہیں ہو جاتا تب تک اپنی ماں کا جزء ہے لیکن اس کے وہ بچے جو ابھی تک نابالغ اور چھوٹے ہیں تو وہ اپنے باپ کے تابع ہو کر اسی صورت میں مسلمان سمجھے جائیں گے جبکہ اپنے باپ کے قبضہ اور اس کی ماتحتی اور ایک ہی حکومت میں ہوں۔ حالانکہ ان کا باپ دارالاسلام میں اور وہ چھوٹے بچے دارالحرب میں ہیں۔ اس لئے دونوں حکومتوں کی جدائی کے ساتھ چھوٹے بچے اپنے باپ کے تابع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اس حربی کے خود مسلمان



ہو جانے سے اس کی جان تو محفوظ ہو جائے گی مگر اس کے محفوظ ہو جانے سے اس کے اموال محفوظ نہ ہوں گے۔ کیونکہ دونوں ملک علیحدہ ہیں۔ یعنی وہ خود دار الاسلام میں اور اس کے اموال سب دار الحرب میں ہیں اس لئے یہ سب غنیمت ہو جائیں گے۔

اگر حربی دار الحرب میں مسلمان ہو گیا پھر دار الاسلام آیا اور مسلمان دار الحرب پر غالب

آگئے تو اسکی صغیر اولاد آزاد مسلمان ہوں گے

وَإِنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ جَاءَ فَظَهَرَ عَلَى الدَّارِ فَأَوْلَادُهُ الصَّغَارُ أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ تَبَعًا لِبَيْتِهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا تَحْتَ وَلَا يَتَّبِعُهُ حِينَ أَسْلَمَ إِذِ الدَّارُ وَاحِدَةٌ وَمَا كَانَ مِنْ مَّالٍ أَوْ دَعَا مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا فَهُوَ لَهُ لِأَنَّهُ فِي يَدِ مُحْتَرَمَةٍ وَيَدُهُ كَيْدِهِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَفِيءُ أُمَّا الْمَرْأَةِ وَأَوْلَادُهَا الْكِبَارُ فَلِمَّا قُلْنَا وَأَمَّا الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الْحَرْبِيِّ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مَعْصُومًا لِأَنَّ يَدَ الْحَرْبِيِّ لَيْسَتْ يَدًا مُحْتَرَمَةً

ترجمہ..... اور اگر کوئی حربی پہلے دار الحرب میں اسلام لایا پھر دار الاسلام آ گیا۔ اس کے بعد مجاہدین نے اس کے ملک پر قبضہ کر لیا تو اس کے چھوٹے بچے اپنے باپ کے تابع ہو کر آزاد مسلمان ہیں۔ کیونکہ اسلام آنے کے وقت وہ بچے اسی کی ماتحتی اور اختیار میں تھے اس لئے کہ اس وقت وہ سب ایک ہی ملک یعنی دار الحرب میں تھے۔ اور اس کے مال میں سے اس نے جو کچھ کسی مسلمان یا ذمی کے پاس امانت رکھا تھا تو وہ اسی کا رہے گا۔ کیونکہ وہ محترم قبضہ میں ہے اور قابض نے جو قبضہ کیا ہے وہ اس کے اپنے قبضہ کے حکم میں ہے۔ اور ان مذکورہ افراد اور اموال کے سوا اس کا جو کچھ بھی کہیں ہے وہ سب مال غنیمت ہے۔ کیونکہ بیوی اور بڑے بالغ اولاد کا مملوک ہونا تو اس لئے ہے کہ یہ لوگ بالغ حربی ہیں اور اب اس حربی کے تابع نہیں ہیں۔ اسی طرح اس کا وہ مال جو کسی حربی کے قبضہ میں ہے وہ اس لئے غنیمت کا مال سمجھا جائے گا کہ وہ مال محترم نہیں ہے۔ کیونکہ حربی کا قبضہ محترم نہیں ہوتا ہے۔

تشریح..... صاحب ہدایہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دار الحرب میں اسلام قبول کر کے دار الاسلام کی طرف آئے اور اسی اثناء میں دار الکفر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے اب اس شخص کی نابالغ اولاد اور اسی طرح وہ مال جو کسی مسلمان کے پاس ہو یا ذمی کے پاس بطور امانت رکھا ہو یا بطور مضاربت وغیرہ رکھا ہو یہ سب چیزیں اصل مالک کی ملکیت میں ہوں گی۔ اس لئے کہ ان اشیاء میں قبضہ محترمہ پایا گیا اور نابالغ اولاد باپ کے تابع ہے باقی اولاد کبیر اور بیوی یا وہ مال جو کسی حربی کے قبضہ میں تھا یہ اشیاء اصل مالک کی ملکیت میں نہ آئیں گی کہ بیوی اور اولاد کبیر اس کے تابع نہیں اور مال ید محترمہ میں نہیں۔

جب حربی دار الحرب میں مسلمان ہو گیا مسلمان نے اسے عمدًا یا خطاء قتل کر لیا اور مقتول کے

ورثاء دار الحرب میں موجود ہیں نہ قصاص لازم ہے نہ دیت

وَإِذَا أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَتَلَهُ مُسْلِمٌ عَمْدًا أَوْ خَطَاً وَلَهُ وَرَثَةٌ مُسْلِمُونَ هُنَالِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا الْكَفَّارَةُ فِي الْخَطَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجِبُ الدِّيَّةُ فِي الْخَطَا وَالْقَصَاصُ فِي الْعَمْدِ لِأَنَّهُ أَرَأَقَ دَمًا مَعْصُومًا لَوْ جُودَ الْعَاصِمِ وَهُوَ إِلَّا سَلَامٌ لِكُونِهِ مُسْتَجِلِبًا لِلْكَرَامَةِ وَهَذَا لِأَنَّ الْعِصْمَةَ أَصْلُهَا الْمُؤْتِمَةُ لِحُصُولِ أَصْلِ الزَّجْرِ بِهَا



وہی ثابتۃ اجماعاً والمقومۃ کمال فیہ لکمال الامتناع بہ فیکون وصفاً فیہ فیتعلق بما علق بہ الاصل ولنا قولہ تعالیٰ فان کان من قوم عدولکم وهو مؤمن فتحریر رقبۃ مؤمنۃ الایۃ جعل التحریر کلّ الموجب رجوعاً الی حرف الفاء اوالی کونہ کلّ المذکور فینتفی غیرہ ولان العصمۃ المؤتمۃ بالادمیۃ لانّ الاذمی خلق متحملاً اعباء التکلیف والقیام بہا بحرمة التعرض والاموال تابعۃ لہا اما المقومۃ فالاصل فیہا الاموال لانّ التقوم یؤذن بجبر الفائت وذلک فی الاموال دون النفوس لانّ من شرطہ التماثل وهو فی المال دون النفس فكانت النفوس تابعۃ ثمّ العصمۃ المقومۃ فی الاموال بالاحراز بالدار لانّ العزۃ بالمنعۃ فکذلک فی النفوس الا انّ الشرع اسقط اعتبار منعۃ الکفرۃ لمانہ اوجب ابطالہا والمرتدو المستامن فی دارنا اهل دارہم حکماً لقصد ہما الانتقال الیہا

ترجمہ..... واذا اسلم الحربی..... الخ اگر کوئی حربی دار الحرب ہی میں اسلام لایا پھر کسی مسلمان نے اسے عمد یا خطا قتل کر دیا۔ اس حال میں کہ اس مقتول کے مسلمان وارث دار الحرب میں موجود ہوں تو اس قاتل پر نہ قصاص لازم آئے گا اور نہ دیت لازم ہوگی۔ البتہ قتل خطا ہونے کی صورت میں کفارہ لازم آئے گا اور دیانت داری کے طور پر اس پر توبہ واستغفار کرنا فرض ہوگا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قتل خطا میں قاتل پر دیت واجب ہوگی اور قتل عمد میں قصاص واجب ہوگا۔ کیونکہ قاتل نے ایک بے قصور اور معصوم شخص کو قتل کر دیا ہے۔ اس لئے کہ اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے اس کی جان محفوظ ہو چکی اور اس کا محافظ موجود ہے۔ کیونکہ اسلام اپنے ساتھ کرامت اور بزرگی لاتا ہے ایسا اس لئے ہے کہ قاتل کو گنہگار کرنے والی بات دراصل مقتول کے اندر کی عصمت ہوتی ہے (یعنی جس نفس کے بارے میں معصوم ہونا معلوم ہوگا تو اس کے قاتل کو اس بات کا یقین ہوگا کہ اس کو قتل کر دینے سے یقیناً میں گنہگار ہوں گا۔ اس لئے اس کے قتل سے وہ پرہیز کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔) اور ایسی عصمت بالاجماع موجودہ صورت میں ثابت ہے۔ اور اس بناء پر دیت کا لازم آنا اس عصمت میں کمال کا درجہ ہے۔ کیونکہ اس سے مکمل طور پر قاتل پرہیز کرے گا۔ (یعنی جب کسی کی عصمت ثابت ہوگئی تو اس کے قتل کرنے سے زبردست خوف پیدا ہوگا۔ پھر اصل عصمت کی وجہ سے قاتل پرہیز کرے گا۔ اور جب اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ اس قتل کرنے کی بناء پر دیت کا مال بھی دینا ہوگا پھر تو وہ مکمل طور پر پرہیز کرے گا۔) اس طرح دیت کا لازم آ جانا اس میں ایک وصف ہو گیا۔ یعنی اصل کے ساتھ ایک وصف ہے تو جیسے اصل عصمت کا تعلق اسلام سے ہے اسی طرح اس کمال دیت کا تعلق بھی اسلام کے ساتھ ہوا۔ (اس لئے اگر عمد قتل ہوا تو گناہ اور قصاص لازم ہوگا اور اگر خطا قتل ہوا تو اسلام کی وجہ سے دیت لازم آئے گی۔ یہ تقریر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے

ہماری دلیل..... یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فان کان من قوم عدولکم وهو مؤمن فتحریر رقبۃ مؤمنۃ..... الایۃ (النساء ۹۲)۔ یعنی اگر مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہارے دشمن ہیں حالانکہ مقتول خود مومن ہے تو ایک غلام آزاد کرنا واجب ہے)۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے غلام آزاد کرنا پوری سزا واجب قرار دی ہے۔ یعنی لازم آیا کہ اس قتل کی جزویہی ہے کہ ایک غلام آزاد کر دے۔ اس بناء پر کہ آیت میں فاء جزاء مذکور ہے یا اس اعتبار سے کہ اس کی جزاء جو کچھ بھی ہے وہی ہے جس کا ذکر ہوا۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عصمت جو گنہگار کرنے والی ہے وہ آدمی ہونے کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ آدمی اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ احکام شرع کو بجا



لائے اور ان پر قائم رہے۔ جس کی صورت یہ ہو کہ انسانی جان سے تعرض کرنے کو اپنے اوپر حرام جانے۔ اور اب دیت کے اموال تو وہ انسانی نفس کے تابع ہوتے ہیں (کہ ان کی اصل کچھ نہیں ہے) اور وہ قیمتی اس بناء پر ہوتے ہیں کہ اس میں اموال اصل ہیں۔ کیونکہ کسی چیز کی قیمت مقرر کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو چیز جاتی رہے اسے پورا کیا جائے۔ اور یہ بات مالوں میں تو ہو سکتی ہے لیکن جانوں میں نہیں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جانے والی چیز پورا کرنا اور اس کی کمی کو دور کرنا اس طرح ہوا کہ آنے والی چیز جانے والی کی جیسی ہی ہو ورنہ وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات مال میں تو ہو سکتی ہے لیکن جان میں اس کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لئے جان کے بدلہ مال (دیت) میں اصل مال ہے اور جان اس کی تابع ہے۔ پھر جس محترم جان کا خون بہا مال سے دیا جاتا ہے یہ وہی نفس ہے جو دارالاسلام میں محفوظ کی گئی ہو کیونکہ عزت اسی وقت ہوگی کہ اسے مسلمانوں سے قوت اور طاقت حاصل ہو۔ اور یہی بات جانوں میں بھی ہے۔ لیکن شرع نے کافروں سے طاقت ہونے کے اعتبار کو ختم کر دیا ہے کیونکہ کافروں کی مددگاری اور قوت کو باطل کر دیا ہے (اور اس طرح اگر دارالاسلام میں امن پانے والے حربی یا مرتد کو قتل کر دیا جائے تو بھی قصاص اور خون بہا ساقط نہ ہوگا) کیونکہ مرتد اور مستامن جو ہمارے ملک میں ہے وہ حربیوں کے حکم میں ہے۔ کیونکہ وہ دونوں دارالحرب واپس چلے جانے کا ہی ارادہ رکھتے ہیں۔

جس نے مسلمان کو خطا قتل کر دیا یا ایسے حربی کو قتل کیا جو دارالاسلام میں

مسلمان ہو چکا تھا دیت کس پر لازم ہے

وَمَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا خَطَاً لَّا وِلِيَّ لَهُ أَوْ قَتَلَ حَرْبِيًّا دَخَلَ إِلَيْنَا بِأَمَانٍ فَأَسْلَمَ فَالِدِّيَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِلْإِمَامِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهُ قَتَلَ نَفْسًا مَعْصُومَةً خَطَاً فَيَعْتَبَرُ بِسَائِرِ النَّفُوسِ الْمَعْصُومَةِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ لِلْإِمَامِ أَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لَهُ لِأَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ

ترجمہ..... اور اگر کسی نے ایسے مسلمان کو خطا قتل کر دیا جس کا کوئی وارث نہیں ہے یا ایسے حربی کو قتل کر دیا جو امان لے کر ہمارے یہاں داخل ہو کر مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اس قاتل کے عاقلہ (قاتل کی مددگار برادری) پر واجب ہوگا کہ اس مقتول کی دیت امام المسلمین کو ادا کر دے اور اس قاتل پر کفارہ واجب ہوگا۔ کیونکہ اس نے ایک بے گناہ کو خطا قتل کیا ہے اس لئے اس کا قیاس ہر ایسے شخص پر ہوگا جو معصوم اور بے گناہ ہو یعنی شرعاً قتل سے محفوظ ہو۔ اس میں امام کے پاس جمع کرنے کا جو حکم دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دیت کے وصول کرنے کا حق صرف امام کو ہوگا کیونکہ اس مقتول کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اور یہ حکم صرف اسی صورت میں ہوگا جبکہ اس نے خطا قتل کیا ہو۔

اگر عدا قتل کر دیا امام کو قتل اور دیت کا اختیار ہے

وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ قَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَّةَ لِأَنَّ النَّفْسَ مَعْصُومَةً وَالْقَتْلُ عَمْدٌ وَالْوَلِيُّ مَعْلُومٌ وَهُوَ الْعَامَّةُ أَوِ السُّلْطَانُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وِلِيَّ لَهُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَّةَ مَعْنَاهُ بِطَرِيقِ الصُّلْحِ لِأَنَّ مُوجِبَ الْعَمْدِ هُوَ الْقَوْدُ عَيْنًا وَهَذَا لِأَنَّ الدِّيَّةَ تُنْفَعُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الْقَوْدِ فَلِهَذَا كَانَتْ لَهُ وَلَايَةُ الصُّلْحِ عَلَى الْمَالِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْفِرَ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْعَامَّةِ وَوَلَايَتُهُ نَظَرِيَّةٌ وَلَيْسَ مِنَ النَّظَرِ إسْقَاطُ حَقِّهِمْ مِنْ غَيْرِ عَوَضٍ



ترجمہ..... وَإِنْ كَانَ عَمْدًا..... الخ اور اگر عدا کیا ہو تو امام کو اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو اس قاتل کو قصاصاً قتل کر دے یا اگر مناسب سمجھے تو طے اور صلح کر کے اس قاتل سے دیت لے لے۔ کیونکہ مقتول بے گناہ اور معصوم آدمی تھا۔ اور قاتل بھی خاص ارادہ کے ساتھ ہوا ہے اور اس کے ولی کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اس کا اپنا کوئی رشتہ دار ولی نہیں ہے اس لئے دوسرے عام مسلمان ہیں یا امام وقت ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے سلطان اس کا ولی ہے۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اگر چاہے تو قاتل سے دیت لے لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صلح کے طور پر دیت لے کیونکہ قتل عمد میں قصاص لینے ہی کا فیصلہ متعین ہے۔ اس کے باوجود دیت لینا اس لئے جائز ہوا ہے کہ اس مسئلہ میں قصاص کے مقابلہ میں دیت لینے ہی میں زیادہ نفع ہے۔ اسی لئے امام کو یہ اختیار ہے کہ قاتل سے مال پر صلح کر لے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام کے لئے تیسری صورت یعنی بالکل معاف کر دینے کا حق نہیں ہے کیونکہ یہ حق تو اصل میں تمام مسلمانوں کا ہے۔ لیکن یہ سلطان اور امام ان سبھوں کا والی ہے اور اس کا حق ولایت کسی خاص مصلحت کی بناء پر ہے اور مفت میں ان کے حق کو ساقط کرنے میں کوئی مصلحت بھی نہیں ہے۔ اس بیان سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ مقتول کا ولی معلوم ہونے میں کچھ تردد نہیں ہے۔ بلکہ سارے مسلمان اس کے ولی ہیں۔ اور سلطان سب کی طرف سے نمائندہ ہو کر اس کا ولی طے پایا ہے۔

## بَابُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ

ترجمہ..... باب عشر اور خراج کے بیان میں

مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ذمی ہو جانے کے اسباب بیان کر کے ذمی پر وظائف مالیہ بیان فرمائے۔ یعنی اس کی زمین اور اس کی ذات پر خراج مقرر کرنا ہے۔ اور خراج کس اصول کے ساتھ مقرر ہوتا ہے آئندہ ذکر کیا جائے گا۔ اور یہ زمین کا لگان محصول گھروارہ ہے اور اس زمانہ میں جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ عشر اور خراج دونوں سے علیحدہ ہے۔ عشر میں صرف پیداوار کا دسواں حصہ ہے۔ چونکہ اس عشر میں عبادت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اسی لئے عشر کو پہلے بیان کیا ہے۔ مگر جس زمین پر عشر اور جن لوگوں پر خراج لازم ہوتا ہے اسے پہلے جاننا ضروری ہے۔ اسی لئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ بَابُ الْعُشْرِ الخ

### عشری اور خراجی زمین کی تعیین

قَالَ أَرْضُ الْعَرَبِ كُلُّهَا أَرْضُ عُشْرٍ وَهِيَ مَبَيَّنَ الْعَذِيبِ إِلَى أَقْصَى حَجَرٍ بِالْيَمَنِ بِمَهْرَةٍ إِلَى حَدِّ الشَّامِ وَالسَّوَادِ أَرْضُ خَرَاجٍ وَهُوَ مَبَيَّنَ الْعَذِيبِ إِلَى عَقَبَةِ حُلُوانٍ وَمِنَ الثَّغْلَبَةِ وَيُقَالُ مِنَ الْعَلْتِ إِلَى عَبَادَانَ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ لَمْ يَأْخُذُوا بِالْخَرَاجِ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ وَلِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْفَيْءِ فَلَا يَشْتُرُ فِي أَرْضِهِمْ كَمَا لَا يَشْتُرُ فِي رِقَابِهِمْ وَهَذَا لِأَنَّ وَضْعَ الْخَرَاجِ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يُقَرَّ أَهْلُهَا عَلَى الْكُفْرِ كَمَا فِي سَوَادِ الْعِرَاقِ وَمُشْرِ كُوءِ الْعَرَبِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْإِسْلَامُ وَالسَّيْفُ وَعُمَرُ حِينَ فَتَحَ السَّوَادَ وَضَعَ الْخَرَاجَ عَلَيْهَا بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَوَضَعَ عَلَى مِصْرَ حِينَ أَفْتَحَهَا عُمَرُ وَبُنُ الْعَاصِ وَكَذَا اجْتَمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى وَضْعِ الْخَرَاجِ عَلَى الشَّامِ



ترجمہ..... عرب کی پوری زمین عشری ہے۔ جو عذیب سے لے کر یمن میں مہرہ کے پتھر تک ہے۔ (یہ اس کی لمبائی کی حد ہے۔ اور چوڑائی میں ریگ رواں سے لے کر) شام کی حد تک ہے۔ اور سواد عراق کی زمین خراجی ہے جو عقبہ حلوان تک (چوڑائی) میں ہے۔ اور ثعلبہ سے لے کر اور کہا جاتا ہے کہ عث سے لے کر عبادان تک (لمبائی میں) ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہؐ اور خلفاء راشدین نے عرب کی زمین سے خراج نہیں لیا ہے۔ اور اس لئے بھی کہ وہ فنی وغنیمت کے حکم میں ہے۔ لہذا عرب کی زمینوں میں خراج ثابت نہ ہوگا۔ جیسے عرب والوں کی ذات اور گردن میں جزیہ لازم نہیں ہوتا ہے کیونکہ خراج مقرر کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس ملک والوں کو ان کے اپنے ملک میں حسب سابق چھوڑ دیا گیا ہو۔ جیسے کہ سواد عراق میں ہوا۔ مگر مشرکین عرب سے اسلام یا تلوار سے فیصلہ ہوگا اس کے علاوہ تیسری صورت نہ ہوگی اور حضرت عمرؓ نے جب سواد عراق کو فتح کیا تو صحابہ کرامؓ کی موجودگی میں اس ملک پر خراج مقرر کر دیا۔ اور جب حضرت عمرو بن العاصؓ نے مصر فتح کیا تو اس پر خراج مقرر کیا۔ اسی طرح ملک شام پر خراج لازم کرنے میں صحابہ کرامؓ نے اجماع کیا ہے۔

### سواد عراق کی زمینوں کا حکم

قَالَ وَ أَرْضُ السَّوَادِ مَمْلُوكَةٌ لِأَهْلِهَا. يَجُوزُ بَيْعُهُمْ لَهَا وَتَصَرُّفُهُمْ فِيهَا لِأَنَّ الْإِمَامَ إِذَا فَتَحَ أَرْضًا غَنُوءَةً وَ قَهْرًا أَلَهُ أَنْ يُقِرَّ أَهْلَهَا عَلَيْهَا وَيَضَعَ عَلَيْهَا وَعَلَى رُؤُسِهِمُ الْخَرَاجَ فَتَبْقَى الْأَرْضُ مَمْلُوكَةً لِأَهْلِهَا وَقَدْ قَدْ مُنَاهُ مِنْ قَبْلُ

ترجمہ.... قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ سواد عراق کی زمین وہاں کے لوگوں کی مملوکہ ہے۔ یہاں تک کہ ان کا اس زمین کو بیچنا اور اس میں تصرف کرنا بھی جائز ہے۔ کیونکہ امام نے جب کسی زمین کو قہر اور طاقت سے فتح کیا تو اسے اختیار ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اسی زمین پر باقی رکھے اور ان پر اور ان کی زمین پر خراج مقرر کرے اس طرح وہاں کی زمین وہاں کے باشندوں کی مملوکہ رہے گی۔ اس مسئلہ کو ہم باب قسمۃ الغنائم میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔

### عشری زمین کی تعریف

قَالَ وَ كُلُّ أَرْضٍ أَسْلَمَ أَهْلُهَا أَوْ فَتَحَتْ غَنُوءَةً وَ قَسِمَتْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ فَهِيَ أَرْضٌ عُشْرِيَّةٌ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى ابْتِدَاءِ التَّوْظِيفِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَالْعُشْرُ الْيَقِينُ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْعِبَادَةِ وَ كَذَا هُوَ أَخْفُ حَيْثُ يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِ الْخَارِجِ

ترجمہ.... اور قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ہر وہ زمین جس کے رہنے والے اسلام لے آئے یا وہ قہراً فتح کر کے مجاہدین میں تقسیم کر دی گئی تو وہ عشری زمین ہے۔ کیونکہ وہاں لگان مقرر کرتے وقت سب سے پہلے مسلمان پر لازم کیا گیا ہے۔ اور اس لگان کے لئے مسلمان کے بارے میں عشر ہی زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس میں عبادت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ اور وہ آسان بھی ہے کیونکہ اس کا تعلق صرف پیداوار سے ہوتا ہے۔

### خراجی زمین کی تعریف

وَ كُلُّ أَرْضٍ فَتَحَتْ غَنُوءَةً فَأَقِرَّ أَهْلُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ أَرْضٌ خَرَاجِيَّةٌ وَ كَذَا إِذَا صَالَحَهُمْ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى ابْتِدَاءِ التَّوْظِيفِ عَلَى الْكَافِرِ وَالْخَرَاجُ الْيَقِينُ بِهِ وَ مَكَّةُ مَخْصُوصَةٌ مِنْ هَذَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتَحَهَا غَنُوءَةً



وَتَرَ كَهَا لِأَهْلِهَا وَلَمْ يُوظَّفِ الْخَرَاجَ

ترجمہ..... وَكُلُّ أَرْضٍ فَتَحَتْ عَنْوَةً..... الخ اور وہ زمین جو قہر اور غلبہ سے فتح کی گئی پھر وہاں کے باشندے ہی وہاں باقی رہ گئے تو وہ خراجی زمین ہے۔ اسی طرح اگر ان لوگوں سے صلح کر لی گئی ہو تو بھی وہ زمین خراجی ہوگی۔ کیونکہ سب سے پہلے وہاں کافر پر ہی نگان مقرر کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اور کافر کے ساتھ خراج ہی زیادہ مناسب ہے۔ اور ایسی زمینوں سے مکہ مکرمہ کو خاص کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہؐ نے مکہ مکرمہ کو اپنی طاقت سے فتح کر کے وہاں کے لوگوں کو ان کی جگہ پر ہی باقی رکھا۔ اور ان پر خراج مقرر نہیں کیا۔

وہ زمین جو قہر اور طاقت سے حاصل کی گئی اور نہروں کے پانی سے سیرجی گئی وہ خراجی ہے

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ كُلُّ أَرْضٍ فَتَحَتْ عَنْوَةً فَوَصَلَ إِلَيْهَا مَاءٌ الْأَنْهَارِ فَهِيَ أَرْضُ خَرَاجٍ وَمَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا مَاءٌ الْأَنْهَارِ وَاسْتُخْرِجَ مِنْهَا عَيْنٌ فَهِيَ أَرْضٌ عَشْرٍ لِأَنَّ الْعَشْرَ يَتَعَلَّقُ بِالْأَرْضِ النَّامِيَةِ وَنَمَاؤُهَا بِمَائِهَا فَيُعْتَبَرُ السَّقْيُ بِمَاءِ الْعَشْرِ أَوْ بِمَاءِ الْخَرَاجِ

ترجمہ..... وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ..... الخ اور جامع صغیر میں ہے کہ جو زمین قہر اور طاقت سے فتح کی گئی ہو پھر اس زمین میں نہروں کا پانی پہنچا تو وہ زمین خراجی ہے۔ اور جس میں نہروں کا پانی نہیں پہنچا بلکہ وہیں کوئی چشمہ یا کنواں نکالا گیا تو وہ زمین عشری ہے۔ کیونکہ عشری کا تعلق زمین کی پیداوار سے ہوتا ہے اور اس کی پیداوار پانی سے ہوتی ہے لہذا اعتبار عشری پانی یا خراجی پانی سے سیراب کرنے پر موقوف ہو گا۔ یعنی جیسے پانی سے اس کی سیرابی ہوگی اسی کا حکم دیا جائے گا۔

ارض موات کب خراجی ہوتی ہے

قَالَ وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ مُعْتَبَرَةٌ بِحَيِّزِهَا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ حَيْزِ أَرْضِ الْخَرَاجِ وَمَعْنَاهُ يَقْرِبُ فِيهَا خَرَجًا حَيْثُ كَانَتْ مِنْ حَيْزِ أَرْضِ الْعَشْرِ فَهِيَ عَشْرِيَّةٌ وَالْبَصْرَةُ عِنْدَهُ كُلُّهَا عَشْرِيَّةٌ بِاجْتِمَاعِ الصَّحَابَةِ لِأَنَّ حَيْزَ الشَّيْءِ يُعْطَى لَهُ حُكْمُهُ كَفَنَاءِ الدَّارِ يُعْطَى لَهُ حُكْمُ الدَّارِ حَتَّى يَجُوزَ لِصَاحِبِهَا الْإِنْتِفَاعُ بِهِ وَكَذَا لَا يَجُوزُ اخْذُ مَا قَرُبَ مِنَ الْعَامِرِ وَكَانَ الْقِيَاسُ فِي الْبَصْرَةِ أَنْ تَكُونَ خَرَجِيَّةً لِأَنَّهَا مِنْ حَيْزِ أَرْضِ الْخَرَاجِ إِلَّا أَنْ الصَّحَابَةُ وَظَفَوْا عَلَيْهَا الْعَشْرَ فَتَرَكُوا الْقِيَاسَ لِاجْتِمَاعِهِمْ

ترجمہ..... اور جس نے کسی مردہ زمین کو زندہ کیا۔ یعنی جنگل کی غیر مزرعہ زمین (غیر آباد) کو مزرعہ (آباد) کیا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا محل وقوع (کہ کیسی جگہ میں ہے) دیکھا جائے گا۔ کہ اگر وہ زمین خراجی زمین کے قریب ہو تو وہ زمین بھی خراجی زمین ہوگی اور اگر عشری زمین کے قریب ہو تو وہ بھی عشری زمین ہوگی۔ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بصرہ کی زمین سب عشری ہے کیونکہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے۔ رواہ ابن عبد البر۔ کیونکہ جو چیز جس موقع پر ہو اسی کا حکم پاتی ہے۔ جیسے کہ فناء دار کو اسی دار کا حکم دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس دار کے مالک کو فناء دار سے فائدہ اٹھانے کی پوری اجازت ہوتی ہے۔ اسی طرح آبادی کے قریب جو زمین ہوتی ہے اس کو لینا جائز نہیں ہوتا ہے۔ بصرہ کے بارے میں ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ بھی خراجی ہو کیونکہ وہ

خراجی زمین کے قریب ہے۔ لیکن صحابہ کرامؓ نے اس پر عشر مقرر کیا تھا ان کے اس اجماع کی وجہ سے قیاس کو چھوڑنا پڑا ہے۔

تشریح..... صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بنجر زمین کو قابل کاشت کیا تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک قرب و جوار کے مطابق اس پر حکم نافذ کیا جائے گا۔ یعنی اگر قرب و جوار کی زمینیں عشری ہوں تو بنجر سے قابل کاشت ہونے والی زمین پر بھی عشری زمین کا اطلاق ہوگا۔ اگر آس پاس کی اراضی خراجی ہو تو پہلے غیر آباد بعد ازاں قابل کاشت زمین خراجیہ متصور ہوگی۔

جاننا چاہئے کہ مذکورہ زیر بحث مسئلہ میں پانچ امور کو واضح کیا گیا ہے۔

۱۔ ارض موات، ۲۔ ارض موات کا عشری و خراجی ہونے کا حکم، ۳۔ بصرہ کی اراضی کا حکم، ۴۔ اجماع صحابہ، ۵۔ قیاس

### ارض موات

اردو زبان میں غیر آباد اور بنجر زمین کہا جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں ارض موات کہتے ہیں۔ ارض موات (غیر آباد، بنجر زمین) کو ارض خالصہ بھی کہتے ہیں۔ ظاہر روایت کے مطابق ارض موات ایسی زمین کو کہا جاتا ہے جو کسی کی ملکیت نہ ہو۔ نہ ہی کسی کا مخصوص حق ہو۔ قابل منفعت نہ ہو۔ امام طحاویؒ کے نزدیک ارض موات ایسی زمین کو کہتے ہیں جو آبادی کے قریب نہ ہو۔ امام ابو یوسفؒ کا قول ہے کہ ارض موات پر زمین کے ایسے قطعہ کا تحقق ہوتا ہے۔ جو آبادی سے اتنا دور ہو کہ بلند آواز سے پکارنے سے آواز سنائی نہ دے۔ ظاہر روایت میں امام طحاویؒ، امام ابو یوسفؒ کے موقف کی شرط نہیں ہے۔ ظاہر روایت کے اعتبار سے وہ زمین جو سمندر کے ہٹ جانے سے خالی ہو جائے تو وہ بھی ارض موات کا حکم رکھتی ہے۔ قطع نظر اس سے کہ وہ (ارض موات) شہر کے قریب ہو یا دور غیر مملوکہ بڑا جنگل بھی ارض موات کے زمرے میں آتا ہے۔ بقول صاحب بدائع الصنائع صحیح قول ظاہر روایت کا ہے۔ روایات و احادیث کی رو سے بنجر و غیر آباد اراضی کی تین اقسام ہیں۔

۱۔ دائمی طور پر ناقابل کاشت اراضی

۲۔ افتادہ زمین

۳۔ خالصہ زمین

چنانچہ ان تینوں اقسام کی اراضی کی تفصیل ملاحظہ ہو۔ وباللہ التوفیق

۱۔ دائمی ناقابل کاشت زمین

ایسی بنجر زمین جو ہمیشہ سے غیر آباد چلی آرہی ہو اور اس کی ویرانی و سختی کے پیش نظر عام لوگ اسے قابل کاشت کرنے سے گھبراتے اور پہلو تہی کرتے ہوں۔ نفع میں حضرت زبیرؓ کو ایسی ہی زمین دی گئی تھی۔

۲۔ افتادہ زمین

وہ زمین جو کاشت کے قابل ہونے کے باوجود اس میں کسی وجہ سے ناقابل کاشت ہو۔ مثال کے طور پر،



- ۱۔ ایسی اراضی جو بستیاں اجڑنے کے بعد بے کار پڑی رہتی ہو اور انہیں قابل کاشت بنانے والا کوئی نہ ہو۔
- ۲۔ ایسی زمینیں جو آبپاشی کی دشواری کے باعث کاشت کے قابل نہ ہو سکے۔ جیسا کہ مدینہ کی یہ زمینیں اہل مدینہ نے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حوالے کر دی تھیں۔ وادی عقیق میں حضرت ہلال بن حارث کو آپ ﷺ نے ایسی زمین عطا فرمائی تھی۔

### ۳۔ خالصہ زمین

مفتوحہ علاقوں کی ان تمام زمینوں پر ”خالصہ زمین“ کا اطلاق و تحقق ہوتا تھا جو اسلامی حکومت کیلئے ”خالصہ“ قرار دی جاتی تھیں۔ ایسی اراضی چھ اقسام پر مبنی ہے۔

پہلی قسم..... جن زمینوں کے مالک جنگ میں قتل ہو جاتے تھے وہ خالصہ زمین متصور ہوتی تھی۔

دوسری قسم..... جس اراضی کے مالکان اپنی زمینیں چھوڑ کر فرار ہو جاتے تھے ان پر خالصہ زمین کا اطلاق ہوتا تھا۔

تیسری قسم..... وہ زمینیں جو صرف بادشاہ کے اخراجات کی تکمیل کیلئے مختص ہوتی تھیں وہ خالصہ زمینیں کہلاتی تھیں۔

چوتھی قسم..... ایسی زمینیں جو شاہی خاندان اور افسران کی جاگیریں ہوتی تھیں وہ خالصہ زمینیں تھیں۔

پانچویں قسم..... وہ زمین جو ترائی، جھیلیں اور جھاڑیوں وغیرہ کی حامل ہوتی تھیں ان پر خالصہ زمین کا تحقق ہوتا تھا۔

چھٹی قسم..... وہ اراضی جو چند افراد کے قبضے میں عیاشی کا سامان بہم پہنچاتی تھیں اور اسلامی حکومت کے غلبہ سے ان (زمینوں) کا کوئی مالک یا آباد کار کوئی نہ ہوتا تھا۔ یہ تمام زمینیں ”خالصہ اراضی“ کو متحقق کرتی تھیں۔

### ارض موات (بنجر زمین) کے عشری و خراجی ہونے کا حکم

بنجر زمین کے عشری یا خراجی ہونے پر مبنی اصول یہ ہے کہ زمین پر عشر یا خراج باعتبار حکم کے پانی کے ساتھ منتقل ہو جائیگا۔ یعنی اگر کسی شخص نے بنجر زمین کو عشری پانی (چشمہ، کنواں، تالاب وغیرہ کا پانی) سے سیراب کیا تو وہ (بنجر زمین) عشری قرار پائے گی۔ اگر اسے (بنجر زمین کو) خراجی پانی (عجمی لوگوں کی بنائی ہوئی نہر کا پانی یا کفار کے مقبوضہ پانی پر مجاہدین کا غلبہ ہو وغیرہ) سے سیراب کیا تو وہ (بنجر زمین) قابل کاشت ہونے کے بعد خراجی متصور ہوگی۔ اس سے ہدایہ کے متن میں امام ابو یوسف کا قول صحیح معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر قرب و جوار کی اراضی عشری پانی سے سیراب ہوتی ہے تو یہ (بنجر زمین) بھی عشری ہوگی۔ خراجی کی صورت میں خراجی ہوگی۔ اعتبار قرب و جوار کی زمین کا ہوگا۔ جیسا کہ شرح وقایہ باب زکوٰۃ الخارج میں مسلمانوں پر ابتداء خراج لاگو ہونے پر مبنی اعتراض کے جواب میں کہا گیا ہے۔ یعنی بنجر زمین کو قابل کاشت کرنے کیلئے اگر خراجی پانی استعمال کیا گیا تو اس زمین پر خراج عائد ہوگا۔

یہاں اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس طرح مسلمانوں پر ابتداء خراج نافذ العمل ہوگا جبکہ فقہاء کی صراحت یہ ہے کہ مسلمانوں پر ابتداء خراج لاگو نہیں کیا گیا۔ چنانچہ ابن ہمام (صاحب فتح القدیر) کے حوالے سے یہ جواب دیا گیا ہے کہ جب ایک مسلمان خراجی پانی سے اپنی زمین سیراب کر لے تو زمین پر خراج پانی سے منتقل ہو جائے گا۔ یوں مسلمان پر ابتداء خراج لازم نہ ہوگا بلکہ جس کا حکم خراج ہے وہ اپنے حکم کے ساتھ منتقل ہوا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے اس (مسلمان) نے خراجی زمین خریدی ہو۔ واللہ اعلم بالصواب



## ارض موات کب عشری ہوتی ہے

وَقَالَ مُحَمَّدٌ إِنَّ أَحْيَاهَا بِبِيرٍ حَفَرَهَا أَوْ بَعَيْنٍ اسْتَخْرَجَهَا أَوْ مَاءٍ دَجَلَةٍ وَالْفَرَاتِ وَالْأَنْهَارِ الْعِظَامِ الَّتِي لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ فَهِيَ عُشْرِيَّةٌ وَكَذَا إِنَّ أَحْيَاهَا بِمَاءِ السَّمَاءِ وَإِنْ أَحْيَاهَا بِمَاءِ الْأَنْهَارِ الَّتِي احْتَفَرَهَا الْأَعَاجِمُ مِثْلَ نَهْرِ الْمَلِكِ وَنَهْرِيْزٍ دَجَرْدٍ فَهِيَ خَرَجِيَّةٌ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ اِعْتِبَارِ الْمَاءِ إِذْ هُوَ السَّبَبُ لِلنَّمَاءِ وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَوْظِيفُ الْخَرَاجِ ابْتِدَاءً عَلَى الْمُسْلِمِ كُرْهَا فَيُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ الْمَاءِ لِأَنَّ السَّقْيَ بِمَاءِ الْخَرَاجِ دَلَالَةٌ لِلتَّزَامِيَّةِ

ترجمہ..... اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر اس نے وہاں کنواں کھود کر یا چشمہ نکال کر اس زمین کو اس کے پانی سے سیراب کیا یا قدرتی دریاؤں مثل دجلہ و فرات کے پانی سے سیراب کیا۔ جبکہ ان دریاؤں کا کوئی مالک نہیں ہے تو یہ زمین عشری ہوگی۔ اسی طرح اگر زمین کو بارش کے پانی سے سیراب کیا تب بھی وہ زمین عشری ہوگی۔ اور اگر ایسی نہروں کے پانی سے سیراب کیا جن کو بادشاہوں اور عجم کے امیروں نے کھودا ہے جیسے نہر نوشہرواں اور نہر یزدگرد تو یہ خراجی زمین ہوگی کیونکہ ہم نے پہلے بتا دیا ہے کہ اس موقع میں پانی کا اعتبار ہوتا ہے۔ کیونکہ پیداوار کا اصل سبب پانی ہی ہوتا ہے۔ اور اس لئے بھی کہ مسلمان پر شروع سے ہی زبردستی کر کے خراج لازم کرنا ممکن نہیں ہے اسی لئے اس میں پانی کا اعتبار کیا جائے کیونکہ جب اس نے خراجی پانی سے سیراب کیا تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اپنے اوپر خراج دینے کو لازم کر لیا ہے۔ اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کی خراجی زمین خریدی تو حسب سابق اس پر خراج باقی رہے گا۔

## زمین میں خراج مقرر کرنے کا معیار

قَالَ وَالْخَرَاجُ الَّذِي وَضَعَهُ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ مِنْ كُلِّ جَرِيْبٍ يَبْلُغُهُ الْمَاءُ قَفِيْزًا هَاشِمِيٌّ وَهُوَ الصَّاعُ وَدِرْهَمٌ وَمِنْ جَرِيْبِ الرُّطْبَةِ خُمْسَةٌ دَرَاهِمٌ وَمِنْ جَرِيْبِ الْكُرْمِ الْمُتَّصِلِ وَالنَّخِيلِ الْمُتَّصِلِ عَشْرَةٌ دَرَاهِمٌ وَهَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ عُمَرَ فَإِنَّهُ بَعَثَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ حَتَّى يَمْسَحَ سَوَادَ الْعِرَاقِ وَجَعَلَ حَذِيْفَةَ مُشْرِفًا فَمَسَحَ فَلَبِغَ سِتًّاوَلْتَلِيْنِ أَلْفَ أَلْفِ جَرِيْبٍ وَوَضَعَ عَلَى ذَلِكَ مَا قُلْنَا وَكَانَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ فَكَانَ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ وَلِأَنَّ الْمُؤْنِ مُتَّفَاوِتَةً فَالْكُرْمُ أَحْفَهَا مُؤْنَةً وَالْمَزَارِعُ أَكْثَرُهَا مُؤْنَةً وَالرِّطَابُ بَيْنَهُمَا وَالْوُظَيْفَةُ تَتَفَاوَتْ بِتَفَاوُتِهَا فَجُعِلَ الْوَاجِبُ فِي الْكُرْمِ أَغْلَاهَا وَفِي الزَّرْعِ أَذْنَاهَا وَفِي الرُّطْبَةِ أَوْسَطُهَا

ترجمہ..... کہا اور وہ خراج جو حضرت عمرؓ نے عراق والوں پر مقرر کیا تھا وہ اس حساب سے تھا کہ ہر ایک جریب (اتنی زمین جس کی لائباہی ملک کسریٰ کے ذراع سے، ساٹھ ذراع لائباہی ہو یہ ذراع عام ذراع سے کچھ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ عام ذراع چھ قبضوں کا اور ملک کسریٰ کا سات قبضوں کا ہوتا تھا اور اس کی چوڑائی بھی ساٹھ ذراع ہو)۔ ایسی زمین جس کو پانی ملا ہو اس پر ایک ہاشمی قفیز۔ یعنی اس کی پیداوار سے ایک صاع اور ایک درہم ہے۔ اور ہر جریب رطبہ (فتح راء کے ساتھ اس کی جمع رطاب اور ارطاب ہے۔ انوار الحق قاسمی)۔ (سبزی، ترکاری، بیگن، خربوزہ، لکڑی وغیرہ) پر پانچ درہم ہیں۔ اور ہر جریب انگور پر جس کی بلیں ایک ساتھ ہوں یعنی درمیان میں کوئی کھیتی وغیرہ نہ ہو اس میں دس درہم ہیں۔ اسی طرح ہر ایک جریب خرما پر جو ایک ساتھ ہوں دس درہم ہیں۔ حضرت عمرؓ سے اسی طرح منقول ہے۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن ابی شیبہ نے روایت کی ہے کہ آپؐ نے عثمان بن حنیف کو بھیجا اور انہوں نے سواد عراق کی پیمائش کی اور حضرت حذیفہ کو



مقرر کیا۔ چنانچہ وہ تین کروڑ ساٹھ لاکھ جریب رقبہ ہوا۔ اور آپ نے اس پر اسی طرح محصول مقرر کیا جس طرح ہم نے بیان کر دیا اور یہ کام تمام صحابہ کرام کے مجمع میں کسی انکار و اعتراض کے بغیر ہوا لہذا اس پر تمام صحابہ کا اجماع ثابت ہو گیا۔ اور اس وجہ سے بھی کہ کھیتی اور باغبانی وغیرہ کے کام میں خرچ اور محنت میں کافی فرق ہوتا ہے اسی لئے انگور کے باغ میں خرچ اور محنت کم ہوتا ہے اور ایک مرتبہ لگا دینے کے بعد اس کی بیلیں بہت دنوں تک باقی رہتی ہیں اور غلہ کے کھیتوں میں خرچ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور ان دونوں کے درمیان رطاب یعنی کھیرے و لکڑی و بیگن و خر بوز وغیرہ ہیں۔ اور ان کے خرچ کے فرق اور کم و بیش ہونے کی وجہ سے ان کا محصول بھی کم و بیش اور ان کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ اسی لئے انگور کے باغ میں سب سے زیادہ محصول مقرر کیا۔ اور کھیتی میں سب سے کم اور رطبہ یعنی لکڑی وغیرہ میں درمیانی درجہ کا لگایا ہے۔

### کھیت اور باغ کے خراج مقرر کرنے کا معیار

قَالَ وَمَا سَوَى ذَٰلِكَ مِنَ الْأَصْنَافِ كَالزَّعْفَرَانِ وَالْبُسْتَانِ وَغَيْرِهِ يُوَضَّعُ عَلَيْهَا بِحَسَبِ الطَّاقَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَوْظِيفٌ عُمَرُ وَقَدْ اُعْتَبَرَ الطَّاقَةُ فِي ذَٰلِكَ فَتُعْتَبَرُهَا فِيمَا لَا تَوْظِيفَ فِيهِ قَالُوا وَنَهَايَةُ الطَّاقَةِ أَنْ يَبْلُغَ الْوَاجِبُ نِصْفَ الْخَارِجِ لَا يُزَادُ عَلَيْهِ لِأَنَّ التَّصْنِيفَ عَيْنُ الْإِنْصَافِ لِمَا كَانَ لَنَا أَنْ نُقَسِّمَ الْكُلَّ بَيْنَ الْعَالِمِينَ وَالْبُسْتَانِ كُلُّ أَرْضٍ يَحُوطُهَا حَائِطٌ وَفِيهَا نَخِيلٌ مُتَفَرِّقَةٌ وَأَشْجَارٌ أُخْرَى فِي دِيَارِنَا وَظَفُوهَا مِنَ الدَّرَاهِمِ فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا وَتُرِكَ كَذَٰلِكَ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ مِنْ أَيْ شَيْءٍ كَانَ

ترجمہ..... قَالَ وَمَا سَوَى ذَٰلِكَ..... الخ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ان چیزوں کے ماسوا دوسری قسموں مثلاً زعفران کے کھیت اور باغ وغیرہ میں ان پر طاقت اور حیثیت کے مطابق محصول لازم کیا جائے گا۔ کیونکہ ان کے بارے میں حضرت عمرؓ سے کوئی مقدار مقرر نہیں ہوئی ہے اور خود حضرت عمرؓ نے محصول لگانے میں زمین کی طاقت کا بھی خیال رکھا ہے۔ تو جن چیزوں میں آپ کی طرف سے کوئی محصول مقرر کیا ہوا نہیں ہے ان میں ہم بھی زمین کی طاقت کا خیال رکھیں گے۔ ہمارے مشائخ رحمۃ اللہ علیہم نے فرمایا ہے کہ انتہائے طاقت یہ ہے کہ جو کچھ محصول مقرر کیا جائے وہ اس کی پیداوار کے نصف تک ہو اس سے زیادہ نہ ہو۔ کیونکہ آدھا مقرر کرنا ہی اصل انصاف ہے کیونکہ ہمیں یہ اختیار تھا کہ اس کی پوری زمین ہی ہم مجاہدین اور اپنے لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ بستان ہر ایسی زمین اور باغ کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف چہار دیواری ہو اور اس کے اندر مختلف قسم کے درخت اور پودے لگے ہوئے ہوں مثلاً خرما اور دوسرے درخت۔ ہمارے علاقوں میں تو تمام زمینوں پر روپے سے محصول مقرر کیا جاتا ہے کیونکہ محصول کی مقدار کے بارے میں یہ واجب ہے کہ وہ طاقت کے مطابق مقرر کیا جائے خواہ کسی چیز سے مقرر ہو۔

### محصول کی مقدار پیداوار برداشت نہ کر سکے تو امام محصول میں کمی کر سکتا ہے

قَالَ فَإِنْ لَمْ تُطِيقْ مَا وَضَعَ عَلَيْهَا نَقْصَهُمُ الْإِمَامُ وَالنَّقْصَانُ عِنْدَ قِلَّةِ الرَّبْعِ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ عُمَرَ لَعَلَّكُمْ حَمَلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ فَقَالَا لَا بَلْ حَمَلْنَا مَا مَنُطِيقٌ وَلَوْ دَنَاهَا لَا طَاقَتُ وَهَذَا يُدَلُّ عَلَى جَوَازِ النَّقْصَانِ وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عِنْدَ زِيَادَةِ الرَّبْعِ يَجُوزُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ إِعْتِبَارًا بِالنَّقْصَانِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ عُمَرَ لَمْ



ترجمہ..... قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہو کہ جو محصول کسی زمین پر لگایا گیا اگر وہ زمین اس کو برداشت نہ کر سکتی ہو یعنی پیداوار سے محصول نکالنے کے بعد نصف سے بھی کم بچتا ہو تو امام کو چاہئے کہ اس محصول کو کم کر دے۔ اور پیداوار کے کم ہونے کی صورت میں محصول کم کر دینا بالاجماع جائز ہے۔ اسی لئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے حضرت حذیفہ و ابن حنیفؓ سے فرمایا تھا کہ کہیں ایسا تو تم نے نہیں کیا کہ اتنا محصول مقرر کر دیا ہو جسے وہ زمین برداشت نہ کر سکتی ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے ایسا ہرگز نہیں کیا ہے ہم نے اتنا ہی لگایا ہے جسے وہ برداشت کر سکتی ہو بلکہ اگر ہم کچھ بھی لگانا چاہتے تو وہ زمین اسے بھی برداشت کر لیتی۔ (کیونکہ اس کی پیداوار بہت زیادہ ہے)۔ (رواہ البخاری)

اس گفتگو سے یہ بھی معلوم ہوا کہ محصول کم مقرر کرنا بھی صحیح ہے۔ اور یہ بات کہ پیداوار اگر اندازہ سے بہت زیادہ ہو جائے تو محصول کو بڑھانا بھی جائز ہے یا نہیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس طرح مقرر کئے ہوئے محصول کو گھٹانا جائز ہے اسی طرح اسے بڑھادینا بھی جائز ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بڑھانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت عمرؓ کو یہ خبر دی گئی تھی کہ وہ لگائے ہوئے محصول سے بھی زیادہ محصول برداشت کر سکتی ہے پھر بھی آپ نے محصول نہیں بڑھایا۔

خراجی زمین پر سیلاب آگیا یا قحط سالی ہوگئی یا پانی ختم ہوگیا یا کھیت پر آفت آگئی خراج ساقط ہو جائے گا

وَإِنْ غَلَبَ عَلَى أَرْضِ الْخَرَاجِ الْمَاءُ أَوْ انْقَطَعَ الْمَاءُ عَنْهَا أَوْ اضْطَلَمَ الزَّرْعُ أَفَةً فَلَا خَرَاجَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فَاتٌ التَّمَكُّنُ مِنَ الزَّرَاعَةِ وَهُوَ النَّمَاءُ التَّقْدِيرُ الْمُعْتَبَرُ فِي الْخَرَاجِ وَفِيمَا إِذَا اضْطَلَمَ الزَّرْعُ أَفَةً فَاتٌ النَّمَاءُ التَّقْدِيرُ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ وَكَوْنُهُ نَامِيًا فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ شَرْطٌ كَمَا فِي مَالِ الزَّكَاةِ أَوْ يُدَارُ الْحُكْمُ عَلَى الْحَقِيقَةِ عِنْدَ خُرُوجِ الْخَرَاجِ

ترجمہ..... وَإِنْ غَلَبَ عَلَى أَرْضِ الْخَرَاجِ..... الخ اور اگر خراجی زمین میں پانی بہت زیادہ آگیا یا اس کا پانی بالکل خشک ہوگیا یا اس کھیتی کو ایسی کوئی آفت لگ گئی جس سے وہ کھیتی برباد ہوگئی تو اس پر خراج لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس میں کھیتی باقی ہی نہیں رہی۔ اور خراج میں اس بات کو بہت دخل ہے کہ اس زمین میں تقدیری طور پر اضافہ ہوتا ہو۔ یعنی اس میں کھیتی باقی رہ سکتی ہو۔ اور جب کبھی کھیتی میں ایسی کوئی آفت آجائے تو سال کے کسی بھی حصہ اور وقت میں نمو تقدیری ختم ہوگئی۔ حالانکہ خراج وصول کرنے کے لئے شرط ہے کہ وہ تمام سال قابل کاشت (نمو تقدیری) رہے جیسا کہ زکوٰۃ کے مال میں شرط ہے یا یوں کہا جائے کہ جب کھیتی ظاہر ہوگئی تو اس کا حقیقی طور پر بڑھنا ہی حکم کا مدار ہوگیا۔ زیادتی اور اضافہ حقیقی طور پر ہونا ہی اصل تھا مگر حکمی اضافہ اس حقیقی اضافہ کا قائم مقام تھا۔ اور جب کھیتی نظر آنے لگی تو حقیقی اضافہ موجود ہوگیا۔ پس خراج کا تعلق اسی حقیقی اضافہ سے ہوا۔ پھر یہ بھی آفت کے آجانے سے ختم ہوگئی لہذا خراج بھی ختم ہوگیا۔ اور اب فتویٰ یہ ہے کہ اگر کھیتی ایک سال میں تین مہینے بھی پانی گئی تو خراج ساقط نہ ہوگا۔ لیکن وجہ وہی ہے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔



مالک زمین نے اسے بے کار چھوڑ دیا تو خراج ساقط نہ ہوگا

قَالَ وَإِنْ عَطَّلَهَا صَاحِبُهَا فَعَلَيْهِ الْخَرَجُ لِأَنَّ التَّمَكُّنَ كَانَ ثَابِتًا وَهُوَ الَّذِي قَوَّتَهُ قَالُوا مَنِ انْتَقَلَ إِلَى أَحْسَنِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ غَيْرِ عَذْرٍ فَعَلَيْهِ الْخَرَجُ الْأَعْلَى لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي صَبَّحَ الزِّيَادَةَ وَهَذَا يُعْرَفُ وَلَا يُفْتَى بِهِ كَيْلًا يَتَجَرَّءُ الظَّلْمَةُ عَلَى أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ

ترجمہ..... قَالَ وَإِنْ عَطَّلَهَا..... الخ اور اگر مالک زمین نے کھیتی کو یوں ہی بے کار چھوڑ دیا تو اس پر خراج لازم آجائے گا۔ اس لئے کہ اسے کھیتی کرنے کی پوری قدرت موجود تھی پھر بھی اس نے جان بوجھ کر وہ ضائع کر دیا۔ مشائخ رحمۃ اللہ علیہم نے کہا ہے کہ اگر کسی زمین میں قیمتی چیز مثلاً زعفران وغیرہ پیدا ہوتی ہو پھر بھی مالک نے کسی عذر کے بغیر معمولی سی چیز مثلاً جوار وغیرہ کی کھیتی کر لی تو اس پر اعلیٰ چیز کا ہی حسب سابق لگان لگایا جائے گا۔ کیونکہ اس نے قصد اعلیٰ مقدار ضائع کر دی ہے۔ مگر یہ بات صرف معلوم ہونی چاہئے۔ اور اس کا فتویٰ نہیں دینا چاہئے تاکہ ظالم حکام رعایا کے مال میں جرات نہ کریں۔

اہل خراج میں سے جو مسلمان ہو گیا اس سے خراج لیا جائے گا

وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْخَرَجِ أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَجُ عَلَى حَالِهِ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْمُؤْنَةِ فَيُعْتَبَرُ مُؤْنَةٌ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ فَأَمَّا مَعْنَى إِبْقَاؤِهِ عَلَى الْمُسْلِمِ

ترجمہ..... اور جن لوگوں پر خراج واجب ہوا اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہو گیا تو اس سے بدستور سابق خراج لیا جائے گا۔ کیونکہ خراج کے معنی (محصول اور لگان کے علاوہ) اخراجات اور خرچ کے بھی ہوتے ہیں۔ اس لئے بعد میں یعنی حالت بقاء میں بھی اس میں خراج اور مؤنت ہی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس لئے کسی مسلمان پر اس حالت کو باقی رکھنا ممکن ہے (یعنی مسلمان پر ابتداءً تو خراج لازم نہیں کیا جاسکتا ہے مگر خراجی زمین ہو جانے کے بعد اس کو خراجی کہنا ممکن ہو جائے گا)۔

مسلمان ذمی سے ارض خراج خرید سکتا ہے یا نہیں

وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُسْلِمُ أَرْضَ الْخَرَجِ مِنَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ الْخَرَجُ لِمَا قُلْنَا وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَةَ اشْتَرَوْا أَرْضَ الْخَرَجِ وَكَانُوا يُؤَدُّونَ خَرَجَهَا فَذَلَّ عَلَى جَوَازِ الشِّرَاءِ وَأَخْذِ الْخَرَجِ وَأَدَائِهِ لِلْمُسْلِمِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ

ترجمہ..... اور یہ بات جائز ہوگی مسلمان خراجی زمین کو ذمی سے خرید لے اور اس سے خراج لیا جائے اوپر میں بیان کی ہوئی دلیل کی وجہ سے۔ یعنی اس مؤنت کو باقی رکھنا ممکن ہے۔ اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ صحابہ کرامؓ نے بھی خراجی زمینیں خریدی اور وہ ان کا خراج دیا کرتے تھے۔ اس سے اس بات کی دلیل پائی جاتی ہے کہ اس زمین کا خریدنا جائز اور خراج لینا اور مسلمان کو خراج دینا بلا کراہت جائز ہے۔

خراجی زمین کی پیداوار میں عشر نہیں

وَلَا عُشْرَ فِي الْخَارِجِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَجِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مُخْتَلِفَانِ وَجَبَا فِي مَحَلِّينِ



بَسْبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا يَتَنَا فَيَانِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَجْتَمِعُ عَشْرٌ وَخَرَجٌ فِي أَرْضِ مُسْلِمٍ وَلَا يَنْ أَحَدًا مِنْ أَيْمَةِ الْعَدْلِ وَالْجَوْرِ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا وَكَفَى بِاجْتِمَاعِهِمْ حُجَّةً وَلَئِنْ الْخَرَجُ يَجِبُ فِي أَرْضٍ فَتَحَتْ عَنْوَةً وَقَهْرًا وَالْعَشْرُ فِي أَرْضٍ أَسْلَمَ أَهْلُهَا طَوْعًا وَالْوَصْفَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَسَبَبُ الْحَقِّينِ وَاحِدٌ وَهُوَ الْأَرْضُ النَّامِيَةُ إِلَّا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْعُشْرِ تَحْقِيقًا وَفِي الْخَرَجِ تَقْدِيرًا وَلِهَذَا يُضَافُ فَيَانِ إِلَى الْأَرْضِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الزَّكَاةُ مَعَ أَحَدِهِمَا

ترجمہ..... وَلَا عَشْرُ فِي الْخَرَجِ..... الخ اور خراجی زمین کی پیداوار میں عشر نہیں ہے۔ یعنی اس میں فقط خراج لازم آئے گا۔ اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس میں سے عشر اور خراج دونوں لئے جائیں گے۔ کیونکہ یہ دو مختلف حقوق ہیں جو دو موقعوں میں دو مختلف سبب سے واجب ہوتے ہیں اس لئے ان کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے (کہ ایک کے ہونے سے دوسرا نہ ہو) کیونکہ خراج تو مالک کے ذمہ زمین کی قوت پیدائش کے سبب سے ہے اور عشر پیداوار پر حقیقی پیدائش کے سبب سے ہے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مسلمان کی زمین میں عشر و خراج دونوں جمع نہیں ہوں گے۔ ابن عدی نے ضعیف سند سے اس کی روایت کی ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں کے اماموں میں سے وہ خواہ ظالم ہو یا عادل ہو کسی نے بھی عشر و خراج کو جمع نہیں کیا ہے۔ اس طرح ان کا متفقہ عمل بھی ایک دلیل ہوئی اور اس دلیل سے بھی کہ خراج تو ایسی زمین میں واجب ہوتا ہے جو تلواریں کے زور سے قہراً فتح کی گئی ہو۔ اور عشر ایسی زمین میں واجب ہوتا ہے جہاں کے لوگ اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے ہوں اور یہ دونوں باتیں ایک ہی زمین میں ایک ساتھ نہیں پائی جاسکتی ہیں۔ (اسی لئے صحابہ کرامؓ سے بھی دونوں کو جمع کرنا منقول نہیں ہے) اور عشر و خراج دونوں کا سبب ایک ہے یعنی پیداوار والی زمین ہے البتہ ان میں صرف اتنا فرق ہے کہ عشر میں حقیقی اور یقینی پیداوار کا اعتبار ہے اور خراج میں تقدیری پیداوار یعنی زراعت پر صرف قادر ہونا ہی کافی ہے لیکن حقیقتہً زمین ہی سبب ہے۔ اسی لئے دونوں کی نسبت زمین کی طرف ہوتی ہے۔ اس لئے بولتے ہیں کہ عشر زمین یا خراج زمین اور ایسا ہی اختلاف زکوٰۃ کے ساتھ عشر یا خراج جمع کرنے میں ہے۔ چنانچہ اگر عشری یا خراجی زمین تجارت کی نیت سے کسی نے خریدی تو ہمارے نزدیک اس میں تجارت کی زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ صرف عشری زمین ہونے سے عشر و نہ خراج لازم آئے گا۔

تشریح..... حاصل یہ کہ ابن عدیؒ کی مثل دیگر روایات میں بھی رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان منقول ہے کہ مسلمان کی زمین پر عشر و خراج (ایک ساتھ) جمع نہیں ہو سکتے۔ لہذا صرف یحییٰ بن عتبہ پر جرح کی وجہ سے متذکرہ روایت کو باطل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ لہذا احناف کے موقف (عشر و خراج جمع نہیں ہوں گے) کو ثابت کرنے کیلئے متن ہدایہ کی مستدل روایت لَا يَجْتَمِعُ عَشْرٌ وَخَرَجٌ فِي أَرْضِ مُسْلِمٍ قابل حجت ہے۔ صاحب ہدایہ نے مسلمان کی زمین پر عشر و خراج جمع نہ ہونے کے سلسلے میں دوسری دلیل یوں پیش کی ہے کہ عادل و ظالم (مسلم) حکمرانوں نے بھی مسلمانوں سے عشر و خراج کو ایک ساتھ وصول نہیں کیا۔ عادل حکمرانوں کا عشر و خراج دونوں کو جمع کر کے وصول نہ کرنا اس بنا پر تھا کہ حق و انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ عشر و خراج کو جمع نہ کیا جائے۔ لیکن ظالم حکمرانوں کا ہر دو (عشر و خراج) کو جمع نہ کرنا یا تو شرعی نکتہ نگاہ کے پیش نظر علماء کے فتاویٰ کی بنا پر تھا کیونکہ ظالم حکمرانوں کا جبر و تشدد عموماً سیاسی اختلاف کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس کے پس منظر میں صرف اقتدار پر قابض رہنے کی تدابیر ہوا کرتی ہیں۔ نظریاتی میدان (نظریۃ اسلام) میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اور عشر و خراج لاگو کرنے کا مسئلہ خالص شرعی ہے۔ اسلئے مسلمان ظالم حاکم ہونے کے باوجود اپنے اندر کچھ نہ کچھ ایمان اور شعائر اسلام کے احترام کی رفق



ضرور رکھتا ہے۔ اسلئے مملکت اسلامیہ کے ظالم حکمران بھی عشر و خراج کو جمع نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ دریں صورت عادل و ظالم حکمران کا متفقہ فیہ ملہ (عشر و خراج کا جمع نہ ہونا) قابل حجت ہے۔ عشر کا تعلق نفس زمین کے ساتھ ہے پیداوار ضروری نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان سے ہر پیداوار پر عشر وصول کیا جاتا ہے بخلاف خراج کے کہ اس کا تعلق محض پیداوار کے ساتھ ہے اگر پیداوار موجود ہے تو خراج ہے ورنہ نہیں۔ اسی امر کو ہدایہ کے متن میں واضح کیا گیا ہے کہ عشر میں تحقیقی پیداوار معتبر ہے اور خراج میں تقدیری پیداوار کا اعتبار ہے۔ جو زمین قبر و غلبہ سے حاصل کی جائے اس پر خراج لاگو ہوتا ہے اور جس زمین کا مالک مسلمان ہو جائے تو اس پر عشر واجب ہوتا ہے ایک ہی زمین میں یہ دونوں وصف جمع نہیں ہو سکتے۔

اس توجیہ میں صاحب ہدایہ نے امام شافعیؒ کے استدلال کا جواب دیا ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ یہ دونوں حق مختلف ہیں۔ اور یہ دو محل میں مختلف سبب سے واجب ہوتے ہیں۔ لہذا عشر و خراج کا جمع ہونا منافی نہیں۔ امام شافعیؒ کے اس استدلال کے جواب میں کہا گیا ہے کہ یہ دونوں وصف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور ان دونوں کا سبب مختلف نہیں بلکہ ایک ہے اور وہ پیداوار والی زمین کا وجود ہے لہذا عشر و خراج جمع کرنے کے منافی ہونے کا تحقق ہو گیا۔ اختلاف زکوٰۃ کے حوالے سے بھی احناف کا موقف قوی ہے۔ کیونکہ جس عشری یا خراجی زمین کو تجارت کی نیت سے خریدا جاتا ہے اس پر تجارت پر مبنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر وہ (زمین) تجارت کی نیت سے نہ خریدی جائے تو اس پر زکوٰۃ تجارت واجب نہ ہوگی۔ بخلاف عشر و خراج کے کہ زمین کے عشری ہونے پر عشر واجب ہوتا ہے اور خراجی ہونے کی صورت میں اس پر خراج عائد ہوتا ہے خواہ اسے (زمین کو) مزارعت و مشارکت، مستاجری کی نیت سے خریدا جائے۔ کیونکہ عشر و خراج وجوبی و طیفہ ہیں جو زمین کی موجودگی میں کسی بھی صورت میں مالک سے ساقط نہیں ہوتے جبکہ تجارت کی نیت سے زمین نہ خریدنے کی صورت میں زکوٰۃ تجارت ساقط ہو جاتی ہے۔ لہذا اختلاف زکوٰۃ کے حوالے سے بھی امام شافعیؒ کا قول محل نظر ہے۔ چنانچہ اس پوری بحث سے باور ہوا کہ امام ابو حنیفہؒ و احناف کا قول راجح ہے اور امام شافعیؒ کا موقف مرجوح متصور ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب

پیداوار کے مکرر ہونے سے خراج مکرر نہیں ہوگا

وَلَا يَتَكَرَّرُ الْخَرَاجُ بِتَكَرُّرِ الْخَرَاجِ فِي سَنَةٍ لِأَنَّ عُمَرَ لَمْ يُوظَّفْهُ مُكَرَّرًا بِخِلَافِ الْعُشْرِ لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ عُسْرًا إِلَّا بِوُجُوبِهِ فِي كُلِّ خَرَاجٍ

ترجمہ..... وَلَا يَتَكَرَّرُ الخ اور ایک ہی سال میں زمین میں دوبارہ پیداوار ہو جانے سے دوبارہ خراج نہیں لیا جائے گا۔ کیونکہ حضرت عمرؓ نے خراج دوبارہ مقرر نہیں کیا تھا۔ برخلاف عشر کے کیونکہ عشر اسی وقت لازم آئے گا کہ اس زمین کی پیداوار سے دسواں حصہ لیا جائے۔ تاکہ زمین میں جتنی پیداوار ہوئی ہے اس میں سے دسواں حصہ لینا ثابت ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم

## بَابُ الْجَزِيَةِ

ترجمہ..... باب، جزیہ کے بیان میں

### جزیہ کی اقسام

وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ جَزِيَّةٌ تُؤْضَعُ بِالْتَرَاضِيِّ وَالصُّلْحِ فَتَقْدَرُ بِحَسَبِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِتِّفَاقُ كَمَا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفٍ وَمِائَتَيْ حُلَّةٍ وَلَآنَ الْمُوجِبُ هُوَ التَّرَاضِيُّ فَلَا يَجُوزُ التَّعَدُّ إِلَى غَيْرِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِتِّفَاقُ.

ترجمہ..... جزیہ کی دو قسمیں ہیں۔ اس جگہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں قسموں کو اس طرح بیان کیا ہے۔ وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ الخ۔ جزیہ کی دو قسمیں ہیں (۱) وہ جو آپس کی رضامندی اور صلح کے ساتھ طے پا جائے تو اس کی مقدار وہی ہوگی جس پر دونوں نے اتفاق کر لیا ہو۔ جیسا کہ رسول اللہ نے نجران والوں سے ایک ہزار دو سو (۱۲۰۰) کپڑوں کے جوڑے (ازار اور چادر) پر صلح کی تھی۔ اور اس دلیل سے بھی کہ مال کی موجب (متعینہ مقدار جس پر دونوں کا اتفاق ہوا ہے) وہ ان دونوں کی رضامندی ہے۔ اس لئے جس بات پر دونوں فریق میں رضامندی ہو چکی ہو اس سے پھر جانا اور تجاوز کرنا جائز نہ ہوگا۔

تشریح..... وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ الخ جزیہ کی دو قسمیں ہیں (۱) ایک وہ جزیہ جو مسلمین اور محاربین کے درمیان صلح و خوشی کے ساتھ طے پایا جائے۔ جیسا کہ رسول اللہ نے نجران والوں سے سالانہ بارہ سو (۱۲۰۰) کپڑوں کے جوڑوں پر طے کر لیا تھا تو اس میں مصالحت کے بعد اس کی خلاف ورزی جائز نہ ہوگی۔ اس وعدہ کو پورا کرنا ہوگا۔ واضح ہو کہ اہل نجران سے صلح کے حوالے سے ابوداؤد میں حدیث ابن عباسؓ سے اس طرح مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نجران (نون کے فتنہ اور جیم کے سکون کے ساتھ ملک یمن کا ایک علاقہ جس کے باشندے نصرانی تھے) سے دو ہزار حلوں (حاء کے ضمہ اور لام کے تشدید کے ساتھ ایک ازار اور ایک چادر کے جوڑے) پر صلح کی کہ ان میں سے نصف تو ماہ صفر میں ادا کریں اور باقی ماہ رجب میں ادا کیا کریں اور مسلمانوں کو تمیں زرہ اور تمیں گھوڑے اور تمیں اونٹ اور ہر قسم کے ہتھیاروں سے تمیں تمیں بطور رعایت دیں اور مسلمان ان ہتھیاروں کے ضامن ہوں گے (ضرورت نہ ہونے سے واپس دینے کے ذمہ دار ہوں گے۔) اس کے عوض لازمی طور سے ان کا کوئی گرجا توڑ پھوڑ نہیں کیا جائے گا اور ان کا پادری نہیں نکالا جائے گا۔ اور ان کو ان کے دین کے کسی معاملہ میں کسی طرح کے فتنہ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ جب تک خود ان کی طرف سے کوئی نئی بات نہ پیدا ہو یا سود نہ کھائیں۔ ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روایت کی ہے۔ حلہ کے معنی ایک ازار اور ایک چادر ہے۔ اس حدیث کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ سوائے اس کے کہ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے شاید ابن عباسؓ کو نہیں پایا لیکن حدیث حجت ہے۔ الحاصل یہ مال جو نجران والوں پر بطور صلح لازم ہوا وہ جزیہ ہے جو باہمی رضامندی سے طے پایا ہے اس لئے اس میں کوئی فرق نہیں آنے دیا جائے گا اور دوسری قسم جزیہ کی وہ ہے جو امام المسلمین بطور احسان ان پر لازم کر دے۔ جس کی مقدار مشہور ہے اور باقی عبارت کا مطلب ترجمہ سے واضح ہے۔



## جزیہ کی تعریف

وَجَزِيَّةٌ يُتَدَّى الْإِمَامُ وَضَعَهَا إِذَا غَلَبَ الْإِمَامُ عَلَى الْكُفَّارِ وَأَقْرَهُمْ عَلَى أُمْلَاكِهِمْ فَيَضَعُ عَلَى الْغَنِيِّ الظَّاهِرِ الْغَنِيِّ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا يَأْخُذُ مِنْهُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَعَلَى وَسْطِ الْحَالِ أَرْبَعَةً وَعَشْرِينَ دِرْهَمًا فِي كُلِّ شَهْرٍ دَرْهَمَيْنِ وَعَلَى الْفَقِيرِ الْمُعْتَمِلِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا فِي كُلِّ شَهْرٍ دَرْهَمًا وَهَذَا عِنْدَنَا

ترجمہ..... وَجَزِيَّةٌ يُتَدَّى..... الخ اور دوسری قسم وہ جزیہ ہے جو امام المسلمین کافروں پر بالکل ابتداء میں مقرر کر دے۔ اس وقت جب کہ امام ان کافروں پر غالب ہو کر بھی (انہیں قتل نہ کرے یا غلام نہ بنالے بلکہ) ان کو ان کی اپنی املاک پر باقی رہنے دے (یعنی امام نے تلوار کی طاقت سے کافروں کے کسی ملک کو فتح کر لینے کے بعد بھی ان پر احسان کرتے ہوئے ان کو ان کے اپنے گھر اور جائیداد وغیرہ پر بدستور باقی رکھا اور سمجھ کے مطابق ان پر جزیہ مقرر کر دیا۔ تو اس جزیہ کی مقدار شرع میں مشہور و معروف ہے۔ فیض یعنی امام ایسے شخص پر جس کی مال داری واضح اور ظاہر ہو سالانہ اڑتالیس (۲۸) درہم مقرر کرے گا اس تفصیل کے ساتھ کہ اس سے ہر ماہ چار درہم لئے جائیں گے۔ اور درمیانی مال دار سے سالانہ چوبیس (۲۴) درہم جس سے ماہوار دو درہم کے حساب سے اور جس کے پاس مال جمع نہ ہو مگر وہ اپنی ضرورت سے زیادہ کما لیتا ہو اس پر سالانہ بارہ (۱۲) درہم (یعنی ماہوار ایک درہم کے حساب سے) مقرر کرے گا۔ (خلاصہ یہ ہوا کہ ہر اس شخص پر جزیہ لازم کیا جائے گا جو لڑائی کے اہل ہو۔ لہذا ایسے لوگوں پر جو اپنا حج اور لنگے ہوں ان پر جزیہ مقرر نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ اور فقیہ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق مال داری کا اعتبار ہر ملک کی عادت اور عرف پر ہے۔ پس جو شخص جس شہر میں مالدار اور تو نگر شمار ہوتا ہو وہ قسم اول میں ہے۔ مع) خلاصہ یہ ہوا کہ ان تین قسموں کے اعتبار سے ہر ایک قسم پر مختلف جزیہ لازم ہوگا۔ یہ حکم ہم احناف کے نزدیک ہے۔

## امام شافعی کا نقطہ نظر

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَضَعُ عَلَى كُلِّ حَالٍ دِينَارًا أَوْ مَا يَعْدِلُ الدِّينَارَ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَعَاذِ خُذْ مِنْ كُلِّ حَالٍ وَحَالِمَةٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلُهُ مَعَافِرٍ مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ وَلِأَنَّ الْجَزِيَّةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ بَدَلًا عَنِ الْقَتْلِ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَى مَنْ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ بِسَبَبِ الْكُفْرِ كَالزَّرَارِيِّ وَالنِّسْوَانِ وَهَذَا الْمَعْنَى يُنْتَظَمُ الْفَقِيرُ وَالْغَنِيُّ وَمَذْهَبُنَا مَنْقُولٌ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَلَمْ يُنْكَزْ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَلِأَنَّهُ وَجَبَتْ نُصْرَةٌ لِلْمُقَاتِلَةِ فَتَجِبُ عَلَى التَّفَاوُتِ بِمَنْزِلَةِ خَرَاجِ الْأَرْضِ وَهَذَا لِأَنَّهُ وَجَبَتْ بَدَلًا عَنِ النُّصْرَةِ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ وَذَلِكَ يَتَّفَاوَتْ بِكَثْرَةِ الْوَفْرِ وَقِلَّتِهِ فَكَذَا مَا هُوَ بَدَلُهُ وَمَارَوَاهُ مُحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ صُلْحًا وَلِهَذَا أَمَرَهُ بِالْأَخْذِ مِنَ الْحَالِمَةِ وَإِنْ كَانَتْ لَا يَأْخُذُ مِنْهَا الْجَزِيَّةُ

ترجمہ..... اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہر بالغ پر ایک دینار یا جو اس کے مساوی ہو مقرر کر دے۔ اس معاملہ میں مالدار اور فقیر دونوں برابر ہیں۔ رسول اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے جس میں آپ نے حضرت معاذ کو حکم فرمایا تھا کہ ہر بالغ سے ایک دینار یا اس کے برابر معافروں (معاف ایک قسم کے یمنی کپڑے کو کہتے ہیں) کسی تفصیل کے بغیر یعنی اس حکم میں امیر و غریب کی کوئی تفصیل نہیں فرمائی۔



اس سے معلوم ہوا کہ اہل ذمہ میں سے ہر بالغ فقیر و امیر پر خواہ وہ مرد ہو یا عورت ایک دینار واجب ہوگا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ جزیہ تو قتل کے عوض واجب ہوتا ہے۔ اس بناء پر وہ شخص جس کا قتل جائز نہ ہو اس پر جزیہ بھی لازم نہیں ہوگا، جیسے نابالغ بچے اور عورتیں۔ اب جبکہ جزیہ قتل کا بدلہ ٹھہرا تو فقیر اور مالدار دونوں کے لئے حکم برابر ہوا۔ ہمارا مذہب حضرت عمر و عثمان اور علیؓ سے منقول ہے اور مہاجرین و انصار میں سے کسی نے ان کے خلاف اعتراض نہیں کیا ہے۔ اور اس دلیل سے بھی کہ جزیہ کو اس لئے واجب کیا گیا ہے کہ اس سے مجاہدین کی مدد کی جائے تو زمین کے اخراج کی طرح جزیہ میں بھی فرق رکھا جائے گا اور یہ اس واسطے ہے کہ جزیہ تو جان و مال کی مدد کے بدلے واجب ہوا ہے۔ اور اس میں مال کی زیادتی اور کمی کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے۔ لہذا اس کے بدلہ جو چیز واجب ہوگی اس میں بھی فرق ہوگا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث روایت کی ہے وہ صلح کرنے پر محمول ہے۔ یعنی اسی طرح صلح واقعی ہوئی تھی۔ اسی لئے بالغہ عورت سے بھی جزیہ لینے کا حکم دیا حالانکہ عورت سے جزیہ نہیں لیا جاتا ہے۔ ابوداؤد و ترمذی اور نسائی کی روایتوں میں ہر بالغ کا لفظ ہے اور عبدالرزاق و ابن مردویہ اور مرسل ابوداؤد میں ہر بالغ و بالغہ دونوں کے الفاظ مذکور ہیں۔ لیکن عبدالرزاق نے کہا ہے کہ معمر کہا کرتے تھے کہ بالغہ کا لفظ غلط ہے کیونکہ عورتوں پر جزیہ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اس کی اسناد صحیح ہے تو اس دلیل سے اسے غلط کہنا خود غلط اور ناقابل قبول ہے۔ بلکہ اس کی تاویل یہ ہے کہ حکم صلح کے طور پر عورتوں کو بھی شامل ہے جیسا کہ بنی تغلب کی صلح میں ایسا ہی ہوا ہے۔

تشریح..... امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ دریں مسئلہ ہر بالغ ذمی پر ایک دینار یا اس کے برابر وزن رکھنے والا مال (جزیہ) مقرر کیا جائے گا۔ اس امر (مقدار جزیہ) میں مالدار اور فقیر سب لوگ برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیونکہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا کہ **مُحْذَمٌ مِّنْ كُلِّ حَالِمٍ وَ حَالِمَةٌ دِينَارًا أَوْ عِدْلُهُ مَعْفَرًا** (ہر بالغ مرد و عورت سے ایک دینار یا اس کے برابر معافہ) (یعنی کپڑے کی ایک قسم) لیا کر۔ چونکہ اس حکم میں آپ ﷺ نے مالدار و فقیر کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ لہذا ہر ذمی خواہ وہ مالدار ہو یا فقیر، مرد ہو یا عورت سب پر ایک دینار جزیہ واجب الادا ہوگا۔

امام شافعیؒ کی دوسری دلیل..... یہ ہے کہ ”جزیہ“ کا وجوب قتل کے عوض میں ہے۔ حتیٰ کہ ایسے لوگوں پر جزیہ واجب نہیں ہوتا جن کا قتل کفر کی بنا پر جائز نہیں ہے جیسا کہ نابالغ بچے اور عورتیں وغیرہ۔ امام شافعیؒ کی مستدلہ حدیث ابوداؤد، ترمذی، نسائی، عبدالرزاق، ابن مردویہ میں ہم معنی الفاظ کے ساتھ مروی ہے اور مرسل ابوداؤد میں ”ہر بالغ و بالغہ“ کا لفظ مذکور ہے۔ عبدالرزاق بقول معمر فرماتے ہیں کہ بالغہ کا لفظ غلط ہے۔ کیونکہ عورتوں پر جزیہ واجب نہیں۔

لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جب اس حدیث کی اسناد صحیح ہیں تو اس دلیل سے اس کو غلط کہنا مقبول نہ ہوگا۔ بلکہ بنی تغلب کی طرح یہ حکم بطور صلح عورتوں کو بھی شامل ہوگا۔ مشائخ احناف نے بھی امام شافعیؒ کی استدلال کردہ روایت کو صلح پر محمول کیا ہے۔ بایں دلیل کہ بالغہ عورتوں سے جزیہ لینے کا حکم (اس حدیث میں) دیا گیا ہے۔ حالانکہ عورتوں سے جزیہ نہیں لیا جاتا۔

احناف کا موقف بمع استدلال اجماع صحابہؓ..... مذکورہ زیر بحث مسئلہ میں احناف کا موقف مبنی برحق ہے۔ کیونکہ

۱۔ ابن ابی شیبہ میں روایت منقول ہے کہ حضرت عمرؓ نے مالدار ذمی پر اڑتالیس درہم، متوسط پر چوبیس درہم اور فقیر پر بارہ درہم کے



حساب سے سالانہ جزیہ مقرر کیا تھا۔ اور یہ روایت مرسل ہے۔

۲۔ ابن زنجویہ نے کتاب الاموال میں نقل کیا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ حضرت عمرؓ نے صحابہ کرامؓ کے سامنے مالدار (غنی) ذمی پر سالانہ اڑتالیس درہم اور متوسط پر چوبیس درہم اور فقیر پر بارہ درہم جزیہ مقرر کیا تھا اور کسی صحابی نے اس فیصلے سے اعراض و انکار نہیں کیا تھا۔ لہذا جزیہ کی مذکورہ مقدار اجماع صحابہؓ سے متحقق ہے۔ بعد ازاں حضرت عمرؓ کے اسی فیصلے پر حضرت عثمانؓ اور حضرت علی المرتضیٰؓ نے عمل کیا اور کسی صحابی نے بھی اس سے اعراض و انکار نہیں کیا تھا۔ پس اجماع صحابہؓ کا اثبات ہو گیا۔ اور اجماع صحابہؓ قطعاً کا درجہ رکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ مقدار جزیہ کے حوالے سے احناف کا مؤقف راجح اور امام شافعی کا قول مرجوح و محل نظر ہے۔

### اہل کتاب اور مجوس پر جزیہ کا حکم

قَالَ وَتُؤْضَعُ الْجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى مَنْ آتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ  
الْآيَةَ وَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْجِزْيَةَ عَلَى الْمَجُوسِ

ترجمہ..... اور جزیہ لازم کیا جائے گا اہل کتاب پر اور مجوس پر خواہ وہ عرب کے ہوں یا عجم کے۔ اس فرمان باری تعالیٰ کی وجہ سے مَنْ آتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ الْآيَةَ یعنی اہل کتاب سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے لگیں الخ۔ اور اس لئے کہ رسول اللہؐ نے مجوس پر جزیہ مقرر کیا تھا (یعنی مقام حجر کے مجوس سے جزیہ لیا تھا)۔ (رواہ البخاری)

### عجمی بت پرستوں پر جزیہ کا حکم

قَالَ وَعَبْدَةُ الْأَوْثَانِ مِنَ الْعَجَمِ وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ هُوَ يَقُولُ إِنَّ الْقِتَالَ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَقَاتِلُوهُمْ إِلَّا أَنَّا  
عَرَفْنَا جَوَازَ تَرْكِهِ فِي حَقِّ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ وَفِي حَقِّ الْمَجُوسِ بِالْخَبَرِ فَقَبِي مَنْ وَرَاءَهُمْ عَلَى الْأَصْلِ وَلَنَا  
أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ فَيَجُوزُ ضَرْبُ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَشْتَمِلُ عَلَى سَلْبِ النَّفْسِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ  
يَكْتَسِبُ وَيُؤَدِّي إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفَقَتُهُ فِي كَسْبِهِ

ترجمہ..... اور قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ عجم کے بت پرستوں پر بھی لازم کیا جائے۔ (مگر عرب کے بت پرستوں سے سوائے اسلام یا تلوار کے اور کچھ بھی قبول نہ ہوگا)۔ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرمان باری تعالیٰ وَقَاتِلُوهُمْ یعنی کافروں سے قتال کرو کے حکم کی بناء پر قتال واجب ہوا ہے۔ لیکن قرآن سے ہی ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قتال نہ کر کے جزیہ لینا بھی جائز ہے۔ اور یہ حکم عام ہے عرب ہوں یا عجم سب کو شامل ہے۔ لیکن اہل کتاب سے قتال نہ کر کے جزیہ لینے کے حکم کو ہم نے قرآن سے جانا۔ اور مجوس کے بارے میں ہمیں حدیث سے معلوم ہوا۔ اس لئے ان کے ماسوا بت پرست وغیرہ کا حکم اپنی اصل یعنی قتال کرنے کا باقی رہ گیا۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ بت پرستوں کو غلام بنانا جائز ہے اس لئے ان پر جزیہ لازم کرنا بھی جائز ہوا۔ کیونکہ غلام بنانے اور جزیہ وصول کرنے میں سے ہر ایک کام سے ان کی حیثیت اور شخصیت کو چھیننا لازم آتا ہے تاکہ وہ فساد نہ کریں۔ چنانچہ وہ کما کر

مسلمانوں کو ادا کرتے ہیں۔ اور ان کے ذاتی اخراجات نان نفقہ بھی ان کی آمدنی سے ہی پورے کئے جاتے ہیں۔

جزیہ لینے سے پہلے مسلمان غالب آجائیں حربی اور انکی عورتیں اور بچے مال فنی ہیں

وَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ وَصِبْيَانُهُمْ فِىءَ لَجْوَارٍ أَسْرَقَاهُمْ

ترجمہ..... وَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ..... الخ اور اگر جزیہ مقرر کرنے سے پہلے مجاہدین ان کو فتح کر لیں تو یہ سب بت پرست، مرد، عورتیں اور بچے سب مسلمانوں کی غنیمت میں آ جائیں گے کیونکہ ان کو غلام بنانا جائز ہے۔

عربی بت پرستوں اور مرتدوں پر جزیہ نہیں ہے

وَلَا تُؤْصَعُ عَلَى عَبْدَةٍ الْاَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ وَلَا الْمُؤْتَدِّينَ لِأَنَّهُ كُفِرَ هُمَا قَدْ تَغَلَّظَ أَمَّا مُشْرِكُوا الْعَرَبِ فَلِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَشَأَ بَيْنَ أَظْهَرِهِمْ وَالْقُرْآنُ نَزَلَ بِلُغَتِهِمْ فَالْمُعْجِزَةُ فِي حَقِّهِمْ أَظْهَرُ وَأَمَّا الْمُؤْتَدِّ فَلِأَنَّهُ كَفَرَ بِرَبِّهِ بَعْدَ مَا هَدَىٰ لِلْإِسْلَامِ وَوَقَفَ عَلَىٰ مَحَاسِنِهِ فَلَا يَقْبَلُ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ إِلَّا الْإِسْلَامُ أَوِ السَّيْفُ زِيَادَةُ فِي الْعُقُوبَةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُسْتَرْقُ مُشْرِكُوا الْعَرَبِ وَجَوَابُهُ مَا قُلْنَا

ترجمہ..... اور عرب کے بت پرستوں پر جزیہ مقرر نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح مرتد ہو جانے والوں پر بھی جزیہ نہیں ہے یہ لوگ خواہ عرب ہوں یا عجم ہوں۔ کیونکہ ان لوگوں کا کفر بہت ہی سخت ہو گیا ہے مشرکین عرب کے کفر کی سختی اور زیادتی کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ خود ان کے ہی درمیان پیدا ہوئے اور رسول بنائے گئے۔ قرآن مجید انہیں کی زبان میں اترا اس بناء پر ان کے سامنے اور ان کے حق میں بہت سے معجزات ظاہر ہوئے۔ اور مرتد کے کفر کے بہت بڑے اور سخت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے پہلے اسلام کی ہدایت پائی اور اس کی خوبیوں سے واقف ہوا۔ پھر اس نے براہ راست اللہ عز و جل سے کفر کیا۔ لہذا مشرکین عرب اور مرتدین سے سوائے اسلام یا تلوار کے تیسری چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ تاکہ ان کی سزا بھی سخت ہو اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مشرکین عرب بھی غلام بنائے جائیں گے۔ جس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں۔ یعنی ان کا کفر انتہائی خراب اور سخت ہے اور غلام بنانا فتح اور غلبہ کے بعد ہوگا۔ اور گفتگو اس بات میں ہے کہ اگر وہ لوگ فتح ہونے سے پہلے ہی جزیہ دینا قبول کریں تو قبول نہ ہوگا۔

مسلمان مشرکین عرب اور مرتدوں پر غالب ہو جائیں تو انکی عورتیں اور بچے مال غنیمت ہیں

وَإِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فِتْنَاهُ فَسَاءَ لَهُمْ وَصِيبًا لَهُمْ فَيَءُ لَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ اسْتَرْقَى نِسْوَانِ بَنَى حَنِيفَةً وَصِيبًا لَهُمْ  
لَمَّا ارْتَدُّوا وَقَسَمَهُمْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ

ترجمہ..... اور جب معونین مشرکین عرب یا مرتدوں پر قابو پالیں تو فقط ان کی عورتیں اور بچے مال غنیمت ہوں گے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بنو حنیفہ کے مرتدوں کی ساری عورتوں اور سارے بچوں کو غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیا۔

تشریح.....وَإِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ..... الخ مشرکین عرب یا مرتدین پر اگر مجاہدین قابو پالیں تو ان کے نوجوان قتل کر دیئے جائیں۔ اور ان



کی عورتیں اور بچے مال غنیمت کے طور پر مجاہدین میں تقسیم کر دیئے جائیں۔ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بنی حنیفہ کے مرتدین کی تمام عورتوں اور بچوں کو بطور غنیمت تقسیم کر دیا تھا۔ یہ قوم مسلمہ کذاب کا حال ہے جو رسول اللہؐ پر ایمان لایا پھر آپ کے مرض موت کے زمانہ میں اسلام سے مرتد ہو کر نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور رسول اللہؐ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مہاجرین و انصار کا ایک لشکر حضرت خالد بن ولیدؓ کی سرداری میں ان مرتدین کے مقابلہ میں بھیجا۔ ان بنو حنیفہ کی جماعت بہت زیادہ تھی۔ چنانچہ وہ لوگ ساٹھ ہزار سے زیادہ کے ساتھ لڑنے کو نکلے۔ اور سخت قتال واقع ہوا۔ چنانچہ حضرت ابو دجانہ انصاری و نضر بن انس اور قراء صحابہ کی بڑی جماعت سب اس میں شہید ہوئے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو فتح دی بالآخر مسلمہ کذاب مارا گیا اور بنو حنیفہ فتح کر لئے گئے۔ تب آپ (ابو بکرؓ) نے ان کی عورتوں اور بچوں کو تقسیم کر دیا چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حصہ میں جو عورت آئی اس کے پیٹ سے محمد بن علی پیدا ہوئے اسی لئے ان کو محمد بن الحنفیہ کہتے ہیں۔ یہی حال ان مرتدوں کی عورتوں اور بچوں کا بھی ہوگا۔

**مرتد مسلمان نہ ہو تو قتل کیا جائے گا ان کی عورتوں اور بچوں پر جزیہ نہیں ہے**

وَمَنْ لَّمْ يُسْلِمْ مِنْ رَجَالِهِمْ قُتِلَ لِمَا ذُكِّرْنَا وَلَا جِزْيَةَ عَلَى امْرَأَةٍ وَلَا صَبِيٍّ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بَدَلًا عَنِ الْقَتْلِ أَوْ عَنِ الْقِتَالِ وَهُمَا لَا يُقَاتِلَانِ وَلَا يُقَاتِلَانِ لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ.

ترجمہ..... اور ان مرتدوں میں سے جو مرد اسلام نہیں لایا وہ قتل کیا جائے گا۔ مذکورہ بالا وجہ کی بناء پر۔ یعنی مرتدوں میں سے جو جنگ کرنے کے قابل ہوگا اس سے اسلام کے سوا اور کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور کسی عورت یا نابالغ پر جزیہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ جزیہ لازم ہونا مغلوین کے قتل کا بدلہ ہے یا مجاہدین کے قتال میں مدد ہے۔ اور بچے اور عورتیں قتل نہیں کی جاتی ہیں۔ اور نہ ان میں لڑائی کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ لہذا بچوں اور عورتوں پر جزیہ بھی نہیں ہے۔

**لنگڑے، نابینا، مفلوج پر جزیہ نہیں**

قَالَ وَلَا زِمِينَ وَلَا أَعْمَى وَكَذَا الْمَفْلُوجُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ لِمَا بَيَّنَّا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ تَجِبُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ لِأَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الْجُمْلَةِ إِذَا كَانَ لَهُ رَأْيٌ وَلَا عَلَى فَقِيرٍ غَيْرِ مُعْتَمِلٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لَهُ إِطْلَاقٌ حَدِيثٌ مَعَاذَ عَنْهُ وَلَنَا أَنَّ عُثْمَانَ عَنْهُ لَمْ يُوظَّفْهَا عَلَى فَقِيرٍ غَيْرِ مُعْتَمِلٍ وَذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْهُمْ وَلَآنَ خَرَجَ الْأَرْضَ لَا يُوظَّفُ عَلَى أَرْضٍ لَا طَاقَةَ لَهَا فَكَذَا هَذَا الْخَرَجُ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُعْتَمِلِ

ترجمہ..... قَالَ وَلَا زِمِينَ..... الخ اور ایسا لنگڑا جس کا کوئی عضو نہ ہو اور اندھے پر جزیہ نہیں ہے۔ یہی حکم فالج زدہ اور بوڑھے پھوس کا بھی ہے کیونکہ یہ لوگ نہ لڑتے ہیں اور نہ قابل قتل ہیں۔ یہی ظاہر الروایۃ ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت منقول ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہو تو اس پر جزیہ لازم ہوگا۔ کیونکہ ایسا شخص اگر لڑائی میں کم از کم مشورہ دینے والا ہو تو اسے بھی قتل کیا جاتا ہے۔ اور ایسے فقیر پر بھی جزیہ واجب نہیں ہے جس کی آمدنی اس کی ذاتی خرچ سے زیادہ نہ ہو۔ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ ان کی دلیل حضرت معاذؓ کی حدیث ہے جس میں حکم مطلق ہے جو اوپر گزر چکی ہے کہ ہر بالغ سے ایک دینار وصول کرو۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ



حضرت عثمان بن حنیفؓ نے ایسے فقیر پر خراج لازم نہیں کیا جو کمانے کے قابل نہیں تھا یا اس کے ذاتی اخراجات سے بچتا نہیں تھا۔ اور حضرت عمرؓ نے تمام صحابہ کرامؓ کی موجودگی میں اسے جائز رکھا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ زمین کا خراج ایسی زمین پر نہیں لگایا جائے گا جسے وہ زمین برداشت نہیں کر سکتی ہو۔ اسی طرح یہ خراج یعنی جزیہ بھی ایسے شخص پر نہیں لگایا جاتا ہے جو اسے ادا نہ کر سکتا ہو۔ لہذا حضرت معاویہؓ کی حدیث ایسے فقیر پر محمول ہے جس کی کمائی اس کی ضرورت سے بچ جاتی ہو۔

غلام، مکاتب، مدبر، ام ولد پر جزیہ کا حکم

وَلَا يُؤْضَعُ عَلَى الْمَمْلُوكِ وَالْمُكَاتِبِ وَالْمُدَبِّرِ وَأَمُّ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنِ الْقَتْلِ فِي حَقِّهِمْ وَعَنِ النَّصْرَةِ فِي حَقِّهَا وَعَلَى اعْتِبَارِ الثَّانِي فَلَا تَجِبُ بِالشَّكِّ وَلَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ مَوَالِيهِمْ لِأَنَّهُمْ تَحْمَلُوا الزِّيَادَةَ بِسَبَبِهِمْ

ترجمہ..... وَلَا يُؤْضَعُ عَلَى الْمَمْلُوكِ..... الخ اور جزیہ غلام و مکاتب و مدبر اور ام ولد پر بھی لازم نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ جزیہ ان لوگوں کے حق میں ان کے قتل کے عوض ہوتا ہے۔ اور ہمارے حق میں مدد کرنے کے صلہ میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ لوگ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں اس لئے جزیہ اس کے عوض دیتے ہیں۔ اس بات کا لحاظ کرنے کی وجہ سے غلام پر جزیہ واجب نہیں ہو سکتا ہے لہذا شک کی وجہ سے واجب نہیں ہوگا یعنی جن لوگوں سے جزیہ لیا جاتا ہے ان سے لینے کے دو اسباب ہیں۔

اول..... یہ کہ ذمیوں کے لحاظ سے جزیہ ان کے قتل کا عوض ہے۔

دوم..... یہ ہے کہ ہمارے لحاظ سے وہ مدد اور تعاون کا بدلہ ہے۔

پس پہلے لحاظ سے وہ غلام پر واجب ہونا چاہئے کیونکہ حربی غلام بھی قتل کیا جاتا ہے اور جب اسے قتل نہیں کر کے اس پر رعایت کی گئی تو اس پر جزیہ واجب ہوگا۔ لیکن دوسرے لحاظ سے واجب نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے پہلا سبب ہی باقی رہ گیا اس طرح صرف ایک سبب سے واجب ہونے سے شک پیدا ہو گیا۔ چنانچہ شک کی وجہ سے واجب نہیں کیا جائے گا۔ اور ان غلاموں کی طرف سے ان کے مالک بھی ادا نہیں کریں گے کیونکہ ان کے غلاموں کے سبب سے ان کی حیثیت سے زیادہ ان پر واجب ہو جاتا ہے۔

راہب جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتے پر جزیہ کا حکم

وَلَا تُؤْضَعُ عَلَى الرَّهْبَانِ الَّذِينَ لَا يُخَالِطُونَ النَّاسَ كَذَاذَكَرْهُمْ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ تَوَضَّعَ عَلَيْهِمْ إِذَا كَانُوا يَقْدِرُونَ عَلَى الْعَمَلِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُونُسَ وَجْهُ الْوَضْعِ عَلَيْهِمْ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْعَمَلِ هُوَ الَّذِي ضَبَعَهَا فَصَارَ كَتَعْطِيلِ الْأَرْضِ الْخَرَجِيَّةِ وَوَجْهُ الْوَضْعِ عَنْهُمْ أَنَّهُ لَا قَتْلَ عَلَيْهِمْ إِذَا كَانُوا لَا يُخَالِطُونَ النَّاسَ وَالْجُزْيَةُ فِي حَقِّهِمْ لِإِسْقَاطِ الْقَتْلِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُعْتَمِلُ صَحِيحًا وَيُكْتَفَى بِصِحَّتِهِ فِي أَكْثَرِ السَّنَةِ

ترجمہ..... اور ایسے راہبوں پر بھی جزیہ لازم نہیں کیا جائے گا جو عام لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتے ہوں۔ یعنی آبادی سے باہر اپنے چھوٹیڑے میں تنہا پڑے رہتے ہوں۔ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی اس موقع پر ذکر کیا ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ اگر یہ لوگ کام کر سکتے ہوں تو ان پر جزیہ لازم کر دیا جائے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول



ہے۔ اس روایت کی وجہ یہ ہے کہ اس نے خود ہی اپنے کمانے کی صلاحیت ختم کر دی ہے تو اس کی مثال ایسی ہو گئی جیسے کہ اس نے خراجی زمین میں پیداوار نہیں کی بلکہ اسے بے کار چھوڑ دیا۔ اور ان پر جزیہ واجب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا قتل لازم نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ عام لوگوں سے ربط یا میل جول نہیں رکھتے ہیں۔ اور کافروں کے بارے میں قتل کو ساقط کرنے کے لئے ہی جزیہ تھا۔ اس لئے ان پر جزیہ نہیں ہوگا۔ واضح ہو کہ کمانے والے فقیر پر جزیہ واجب ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ شخص تندرست ہو اور سال میں اکثر دنوں کی تندرستی کافی ہے۔

تشریح..... امام محمدؒ سے امام ابو حنیفہؒ کا قول مروی ہے کہ اگر رہبان میں کمائی کی قدرت موجود ہے تو پھر رہبان پر جزیہ عائد کیا جائے گا۔ باوجودیکہ اس (رہبان) کا میل جول لوگوں سے نہ ہو۔ کیونکہ خراجی زمین سے پیداوار نہ اٹھانے کے باوجود اس (خراجی زمین) میں پیداواری صلاحیت پائے جانے کے باعث ”خراج“ ساقط نہیں ہوتا۔ اسی طرح راہبوں میں کمانے کی طاقت موجود ہونے کی بنا پر ان کے نفوس کا خراج (جزیہ) بھی ساقط نہ ہوگا۔ لیکن ترک مباحات و لذات اور لوگوں سے عدم اختلاط (میل جول نہ ہونا) کی وجہ سے ان (راہبوں) پر وجوب قتل کا تحقق نہیں ہوتا۔ اسلئے ”جزیہ“ لاگو نہ ہوگا۔ جیسا کہ معتمل (کمانے والا) فقیر پر مرض لاحق ہونے کی وجہ سے ”جزیہ“ ساقط ہو جاتا ہے۔ بشرطیکہ مدت مرض قلیل ہو۔

### جزیہ دینے والا اسلام لے آیا تو جزیہ کا حکم

وَمَنْ أَسْلَمَ وَعَلَيْهِ جَزِيَّةٌ سَقَطَتْ وَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَ كَافِرًا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِيهِمَا لَهُ أَنَّهَا وَجَبَتْ بَدَلًا عَنِ الْعِصْمَةِ أَوْ عَنِ السُّكْنَى وَقَدْ وَصَلَ إِلَيْهِ الْمُعَوَّضُ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْعَوَّضُ بِهَذَا الْعَارِضِ كَمَا فِي الْأُجْرَةِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جَزِيَّةٌ وَلَا نَهَا وَجَبَتْ عُقُوبَةٌ عَلَى الْكُفْرِ وَلِهَذَا تُسَمَّى جَزِيَّةً قَوَّيْهِ وَالْجَزَاءُ وَاحِدٌ وَعُقُوبَةُ الْكُفْرِ تَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ وَلَا تُقَامُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلِأَنَّ شَرَعَ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِدَفْعِ الشَّرِّ وَقَدْ اِنْدَفَعَ بِالْمَوْتِ وَالْإِسْلَامِ وَلَا نَهَا وَجَبَتْ بَدَلًا عَنِ النَّصْرَةِ فِي حَقِّهِ وَقَدْ قَدَّرَ عَلَيْهَا بِنَفْسِهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَالْعِصْمَةُ تَثْبِتُ بِكُونِهِ اَدَمِيًّا وَالدِّمِيُّ يُسْكُنُ مِلْكَ نَفْسِهِ فَلَا مَعْنَى لِإِجَابِ بَدَلِ الْعِصْمَةِ وَالسُّكْنَى

ترجمہ..... اگر ایسا ذمی جس پر جزیہ باقی ہو وہ اسلام لے آیا تو اس کا جزیہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ حالت کفر میں مر گیا تو بھی جزیہ ختم ہو جائے گا۔ ان دونوں صورتوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جزیہ تو اس کی جان کی حفاظت یا سکونت کے بدلے واجب ہوا تھا۔ اس طرح اس نے جب اپنے لئے حفاظت اور سکونت حاصل کر لی تو اس کے عوض جو چیز (جزیہ) واجب ہوئی تھی وہ اس کے اسلام لانے یا اس کے مرجانے سے ساقط نہیں ہوگی۔ جیسے کہ اگر اس نے کوئی چیز کرایہ پر لے کر اس سے نفع اٹھایا یا عمداً خون کر کے مال پر صلح کی تو اس کی اجرت یا اس صلح کے عوض کا مال اس کے مرجانے یا مسلمان ہو جانے سے ختم نہیں ہوتا ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان پر جزیہ نہیں ہے۔ (اس کی روایت ابو داؤد و الترمذی و احمد اور دارقطنی نے کی ہے) اور ابو داؤد نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے معنی یہ بتائے ہیں کہ ذمی جب مسلمان ہو جائے تو اس پر جزیہ نہیں ہے



(اور طبرانی نے یہی معنی معجم وسط میں رسول اللہ کی حدیث سے روایت کئے ہیں۔ مف) اور اس دلیل سے کہ جزیہ تو کفر پر باقی رہنے کی سزا ہے اسی لئے اس کو جزیہ کہا بھی جاتا ہے۔ جزیہ اور جزاء کے ایک ہی معنی ہیں۔ اور کفر کی سزا تو زندگی اور موت دونوں حالتوں میں یعنی مسلمان ہو جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اور مرنے کے بعد اس پر جاری نہیں کی جاتی ہے۔ بلکہ معاف ہو جاتی ہے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ دنیا میں کوئی سزا اس لئے ثابت ہے کہ حالت کفر میں رہنے کی وجہ سے جو شرارتیں وہ کر سکتا ہو وہ نہ کر سکے اور یہ بات اس کے مر جانے یا مسلمان ہو جانے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ جزیہ واجب ہونا ہمارے حق میں اس کی نصرت کا عوض ہے۔ یعنی وہ اپنے کفر کی وجہ سے کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے اس لئے اس پر جزیہ لازم کر دیا گیا ہے۔ جبکہ اس کے عوض وہ مسلمان ہو کر خود ہر طرح سے مدد کرنے پر قادر ہو گیا ہے اور یہ بات کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جزیہ کو حفاظت و سکونت کا عوض قرار دیا ہے تو بات یہ ہے کہ اس کے محض آدمی ہونے کی وجہ سے خواہ وہ کچھ بھی ہو اس کی حفاظت ثابت ہے۔ اور اس کی سکونت کا وہ خود مالک ہے یعنی اس کی اپنی ذاتی ملک میں ہے لہذا اس کی حفاظت اور سکونت کے عوض جزیہ واجب کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں۔

### دو سالوں کے جزیہ میں تداخل ہے

وَإِنْ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْحَوْلَانِ تَدَاخَلَتِ الْجَزَيَتَانِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَمَنْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ خَرَجَ رَأْسُهُ حَتَّى مَضَتْ السَّنَةُ وَجَاءَتْ سَنَةٌ أُخْرَى لَمْ يُؤْخَذْ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُونُسَ وَمُحَمَّدٌ يُؤْخَذُ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ

ترجمہ..... اگر کسی ذمی کے ذمہ دو سال کا جزیہ جمع ہو گیا (ایک جزیہ بروقت نہ دینے کی وجہ سے) تو دونوں جزیہ ایک میں مل جائیں گے یعنی ایک ہی جزیہ واجب ہوگا۔ اور جامع صغیر میں مذکور ہے کہ جس شخص سے جزیہ نہیں لیا گیا۔ یہاں تک کہ ایک سال گزر کر دوسرا سال بھی آ گیا تو اس سے سال گزشتہ کا جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما نے کہا ہے کہ اس سے پہلا جزیہ بھی لے لیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔

### سال پورے ہونے پر وہ فوت ہو گیا جزیہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا

وَإِنْ مَاتَ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَكَذَلِكَ إِنْ مَاتَ فِي بَعْضِ السَّنَةِ أَمَّا سَأَلَةُ الْمَوْتِ فَقَدْ ذَكَرْنَاهَا وَقِيلَ خَرَجَ الْأَرْضِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ وَقِيلَ لَا تَدَاخُلُ فِيهِ بِالْإِتِّفَاقِ لِهَمَا فِي الْخِلَافِ أَنَّ الْخَرَاجَ وَجِبَ عَوَضًا وَلَا عَوَاضَ إِذَا اجْتَمَعَتْ وَأَمَّا اسْتِيفَاءُهَا تَسْتَوْفِي وَقَدْ أَمَكْنَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ بَعْدَ تَوَالِي السَّنِينَ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَسْلَمَ لِأَنَّهُ تَعَدَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ وَلَا بِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا وَجِبَتْ عُقُوبَةٌ عَلَى الْإِصْرَارِ عَلَى الْكُفْرِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ مِنْهُ لَوْ بَعَثَ عَلَى يَدِنَا فِيهِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَاتِ بَلْ يُكَلَّفُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ بِنَفْسِهِ فَيُعْطَى قَائِمًا وَالْقَابِضُ مِنْهُ قَاعِدٌ وَفِي رِوَايَةٍ يَأْخُذُ بِتَلْبِيهِ وَيَهْزُهُ هَذَا وَيَقُولُ أَعْطِنِي الْجَزْيَةَ يَأْذِمْنِي وَقِيلَ عَذُوَ اللَّهُ فَتَبَّتْ أَنَّهُ عُقُوبَةٌ وَالْعُقُوبَاتُ إِذَا اجْتَمَعَتْ تَدَاخَلَتْ كَالْحُدُودِ وَلِأَنَّهَا وَجِبَتْ بِدَلَالَةِ الْقَتْلِ فِي حَقِّهِمْ وَغِنِ النَّصْرَةِ فِي حَقِّهَا كَمَا ذَكَرْنَا لَكِنْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا فِي الْمَاضِي لِأَنَّ الْقَتْلَ إِنَّمَا يُسْتَوْفَى لِجَرَابِ قَائِمٍ فِي الْحَالِ لَا لِجَرَابِ مَاضٍ كَذَلِكَ النَّصْرَةُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِأَنَّ الْمَاضِي وَقَعَتِ الْغَنِيَّةُ عَنْهُ ثُمَّ قَوْلُ مُحَمَّدٍ فِي الْجَزْيَةِ فِي الْجَامِعِ



الصَّغِيرَ وَجَاءَتْ سَنَةٌ أُخْرَى حَمَلَهُ بَعْضُ الْمَشَانِعِ عَلَى الْمُضِيِّ مَجَازًا وَقَالَ الْوُجُوبُ بِأَجْرِ السَّنَةِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْمُضِيِّ لِيَتَحَقَّقَ الْاجْتِمَاعُ فَيَتَدَاخَلَ وَعِنْدَ الْبَعْضِ هُوَ مُجَرِّعٌ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَالْوُجُوبُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بِأَوَّلِ الْحَوْلِ فَيَتَحَقَّقُ الْاجْتِمَاعُ بِمُجَرَّدِ الْمَجِيئِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْوُجُوبَ عِنْدَنَا فِي ابْتِدَاءِ الْحَوْلِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي آخِرِهِ اعْتِبَارًا بِالزَّكَاةِ وَلَنَا أَنَّ مَا وَجَبَ بَدَلًا عَنْهُ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ فَتَعَدَّرَ إِيْجَابُهُ بَعْدَ مُضِيِّ الْحَوْلِ فَأَوْجَبْنَا هَاهُنَا أَوَّلَهُ

ترجمہ..... اور اگر سال کے پورا ہونے کے بعد وہ ذمی مر گیا تو بالاتفاق ان سب کے قول میں اس سے گزشتہ سال کا جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ سال کے اندر مر گیا تو بھی بالاتفاق یہی حکم ہے۔ اور ذمی کے مر جانے کا مسئلہ ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ زمین کے خراج میں بھی ایسا ہی اختلاف ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ خراج کے مسئلہ میں بالاتفاق تداخل نہیں ہوگا (پورے دو سال کا خراج لیا جائے گا) پس اختلاف اس صورت میں باقی رہا کہ جب ذمی پر پورے دو سال گزر گئے اور اس نے جزیہ نہیں دیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تداخل ہو جائے گا۔ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک تداخل نہیں ہوگا۔

صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کی دلیل یہ ہے کہ جزیہ تو عوض کے طور پر واجب ہوا ہے۔ اور جب کئی عوض ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور ان کو وصول کرنا پورے طور پر ممکن بھی ہو تو وہ وصول کر لئے جائیں گے۔ اور یہاں کی موجودہ صورت بھی یہی ہے کہ متواتر کئی سال گزر جانے کے بعد بھی وصولی کرنا ممکن ہے کیونکہ وہ کافر ہے۔ اس کے برخلاف اگر وہ مسلمان ہو گیا تب وصول کرنا ممنوع ہو جائے گا۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل..... یہ ہے کہ کفر پر اصرار کرنے کی سزا میں یہ جزیہ واجب ہوا تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اسی لئے اگر وہ اپنے کسی نائب کے ہاتھ بھیج دے تو سب روایتوں سے اصح یہ ہے کہ قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو یہی حکم دیا جائے گا کہ خود ہی لا کر کھڑے ہو کر امام یا اس کے نائب کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے اسے پیش کرے اور ایک روایت میں ہے کہ جزیہ وصول کرنے والا ذمی کے سینہ پر گلے کے پاس اس کا کپڑا پکڑ کے ہلائے اور کہے کہ اے ذمی جزیہ دو اور بعضوں نے یوں کہا ہے کہ یوں کہے کہ اے دشمن خدا جزیہ دو۔ الحاصل یہ بات ثابت ہو گئی کہ جزیہ ایک سزا ہے۔ اور ایک جنس کی چند سزائیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں جیسے کہ حدود کی بحث میں ہے (مثلاً ایک شخص نے کئی آدمیوں کو زنا کا بہتان یا ایک کے بعد دوسرے کو لگایا اور سب کا دعویٰ اس کے خلاف ثابت ہو جانے کی وجہ سے سب کی طرف سے اس کو صرف ایک بار حد قذف لگائی جائے گی۔ حالانکہ ایک کے لئے علیحدہ علیحدہ حد لگانی چاہئے تھی۔) اور اس دلیل سے بھی کہ ذمیوں کے حق میں جزیہ تہل کا عوض ہے اور ہمارے حق میں نصر کا عوض ہے۔ جیسا کہ بتلایا جا چکا ہے۔ لیکن یہ سب زمانہ آئندہ کے لئے ہوتا ہے زمانہ گزشتہ کے لئے نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ کہا جاتا ہے فی الحال لڑائی ہو رہی ہو۔ گزشتہ لڑائی کے لئے نہیں۔ اسی طرح نصرت بھی آئندہ کے واسطے ہوئی ہے کیونکہ ماضی میں جو فتنہ ہوا تھا وہ تو ہو چکا ہے اور اس سے بے پروائی ہو چکی یعنی اب اس کے لئے ضرورت نہیں رہی۔

واضح ہو کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جزیہ کے بارے میں یہ بات جو فرمائی ہے کہ دوسرا سال آ گیا اس کو بعض مشائخ نے گزر جانے محمول کیا ہے یعنی دوسرا سال بھی گزر گیا کیونکہ جزیہ کا وجوب تو سال گزر جانے پر ہی ہوتا ہے۔ اس لئے سال کا گزر جانا ضروری ہوتا ہے

دونوں سالوں کا جزیہ اکٹھا ہو کر ایک دوسرے میں داخل ہو جائے۔ اور بعض مشائخ کے نزدیک یہ کلام اپنی حقیقت پر باقی ہے۔ یعنی دوسرا سال شروع ہو جانا ہی مراد ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ابتدائے سال میں ہی جزیہ واجب ہو جاتا ہے لہذا دوسرا سال آتے ہی دونوں سالوں کے جزیہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور قول اصح یہی ہے کہ ہمارے نزدیک سال کے شروع ہی میں جزیہ واجب ہو جاتا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکوٰۃ پر قیاس کرتے ہوئے سال کے آخر میں واجب ہوتا ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ جزیہ جس چیز کا بدلہ ہے یعنی قتل اور نصرت تو اس کا پایا جانا زمانہ مستقبل ہی میں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ لہذا سال کے گزر جانے کے بعد جزیہ واجب کرنا سخت مشکل اور متعذر ہے۔ اس لئے ہم نے اس حکم کو سال کی ابتداء ہی میں واجب کر دیا ہے۔

## فصل

ترجمہ..... فصل، ذمیوں سے متعلق چند احکام

دارالاسلام میں نئے سرے سے بیعہ اور کنیسہ بنانے کی اجازت نہیں

وَلَا يَجُوزُ إِحْدَاثُ بَيْعَةٍ وَلَا كَنِيسَةٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا خِصَاءَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا كَنِيسَةٍ وَالْمُرَادُ إِحْدَاثُهَا

ترجمہ..... دارالاسلام میں از سر نو بیعہ یا کنیسہ بنانا جائز نہیں ہوگا۔ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اسلام میں خصی ہونا اور کنیسہ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جدید کنیسہ بنانا جائز نہیں ہے (اس حدیث کو بیہقی اور ابو عبید نے روایت کیا ہے لیکن اس کی اسناد ضعیف ہے۔ بیعہ یہودیوں کی عبادت ہے اور کنیسہ نصاریٰ کی عبادت گاہ یا اس کے برعکس کو کہتے ہیں۔ اور چونکہ نصرا نیوں میں سے کچھ درویش اپنے آلہ تناسل کو تانت وغیرہ سے بانڈ کر بے کار کر دیتے تھے تاکہ شہوت پرستی اور نفس پرستی سے نجات ہو جائے تو رسول اللہ نے اس سے قطعی طور سے منع فرما دیا جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے۔)

بیعہ اور کنیسہ منہدم ہو جائے اس کا اعادہ کر سکتے ہیں

وَإِنْ انْهَدَمَتِ الْبَيْعُ وَالْكَنِيسُ الْقَدِيمَةُ أَعَادُوهَا لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا تَبْقَى دَائِمَةً وَلَمَّا أَقْرَهُمُ الْإِمَامُ فَقَدَّعَ عَهْدَ إِلَيْهِمُ الْإِعَادَةَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُمْكِنُونَ مِنْ نَقْلِهَا لِأَنَّهُ إِحْدَاثٌ فِي الْحَقِيقَةِ وَالصَّوْمِعَةُ لِلتَّخْلِي فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعَةِ بِخِلَافِ مَوْضِعِ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْمَسْكَنِ وَهَذَا فِي الْأَمْصَارِ دُونَ الْقُرَى لِأَنَّ الْأَمْصَارَ هِيَ الَّتِي تُقَامُ فِيهَا الشَّعَائِرُ فَلَا تُعَارِضُ بِإِظْهَارِ مَا يُخَالِفُهَا وَقِيلَ فِي دِيَارِنَا يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْقُرَى أَيْضًا لِأَنَّ فِيهَا بَعْضُ الشَّعَائِرِ وَالْمَرْوِيُّ عَنْ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ فِي قُرَى الْكُوفَةِ لِأَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِهَا أَهْلُ الذِّمَّةِ وَفِي أَرْضِ الْعَرَبِ يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ فِي أَمْصَارِهَا وَقَرَاهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ



ترجمہ..... وَإِنْ أَنْهَدَمْتُ... الخ اور اگر پرانی بیعہ یا کنیسہ نوٹ پھوٹ گئی ہو تو وہ ان کو دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ کوئی عمارت ہمیشہ باقی نہیں رہتی ہے لیکن امام المسلمین نے جب ذمیوں کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی ہے تو گویا ان سے یہ وعدہ کر لیا کہ تمہاری عبادت گاہ کو بھی باقی رکھیں گے۔ تاہم ذمیوں کو یہ حق نہیں دیا جائے گا کہ ان عمارتوں کو شہر کے اندر کسی دوسری جگہ پر منتقل کر دیں کیونکہ منتقل کرنے کا مطلب حقیقت میں نیا بنانا ہوگا جس کی ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ اور ان کو تنہائی کا عبادت خانہ جس کو صومعہ کہا جاتا ہے بھی بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیونکہ وہ بھی بیعہ کے حکم میں ہے۔ بخلاف اس کے اگر وہ اپنے گھر ہی میں کوئی جگہ ایسی مقرر کر لیں تو ان کو اس کی اجازت ہوگی۔ کیونکہ یہ جگہ سکونت کے تابع ہوتی ہے۔ یہ احکام جو بیان کئے گئے ہیں اس صورت میں ہیں جبکہ شہر میں وہ آباد ہو یا شہر میں عبادت گاہ بنانی چاہے۔ گاؤں اور دیہاتوں کے لئے نہیں ہیں۔ کیونکہ اسلامی شعائر شہروں ہی میں ظاہر کئے جاتے ہیں۔ اس لئے اس کے مخالف جگہ میں کچھ کرنا اس کے مخالف نہیں ہوگا۔ لیکن شمس اللائمہ غرضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ہمارے علاقوں میں دیہات میں بھی ذمیوں کو ایسی باتوں سے منع کیا جائے گا۔ کیونکہ ہمارے دیہاتوں میں بھی کچھ شعائر اسلام قائم ہوتے ہیں۔ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ کوفہ کے دیہاتوں میں جائز ہے کیونکہ وہاں اکثر لوگ ذمی تھے۔ لیکن عرب کے ملک میں شہروں اور دیہاتوں سب میں ان باتوں سے ممانعت کی جائے گی۔ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جزیرہ عرب میں دو دین جمع نہیں ہوں گے۔ اس کی روایت مالک و اسحق و عبد الرزاق وغیرہم نے صحاح میں کی ہے۔

### ذمیوں کو وضع قطع میں ممتاز رہنے کا حکم کیا جائے گا

قَالَ يُؤْخَذُ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالتَّمْيِيزِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي زِيَّتِهِمْ وَمَوَارِكِهِمْ وَسُرُوجِهِمْ وَقَلَانِسِهِمْ فَلَا يَرْكَبُونَ الْخَيْلَ وَلَا يَعْمَلُونَ بِالسَّلَاحِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَيُؤْخَذُ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِإِظْهَارِ الْكُسْتِيجَاتِ وَالرُّكُوبِ عَلَى السُّرُوجِ الَّتِي هِيَ كَهَيَاةِ الْأُكُفِّ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُونَ بِذَلِكَ إِظْهَارًا لِلصَّغَارِ عَلَيْهِمْ وَصِيَانَةً لِّلضَّعْفَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلِأَنَّ الْمُسْلِمَ يُكْرَمُ وَالذِّمِّيَّ يُهَانُ وَلَا يُبْتَدَأُ بِالسَّلَامِ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ عَلَامَةٌ مُّمَيِّزَةٌ فَلَعَلَّهُ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَالْعَلَامَةُ تَجِبُ أَنْ يَكُونَ خَيْطًا غَلِيظًا مِّنَ الصُّوفِ يَشُدُّهُ عَلَى وَسْطِهِ دُونَ الزَّنَارِ مِنَ الْإِبْرَيْسَمِ فَإِنَّهُ جَفَاءٌ فِي حَقِّ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَيَجِبُ أَنْ يَتَمَيَّزَ نِسَاؤُهُمْ عَنِ نِسَائِنَا فِي الطَّرْقَاتِ وَالْحَمَامَاتِ وَيُجْعَلَ عَلَى دُورِهِمْ عَلَامَاتٌ كَيْلَا يَقِفَ عَلَيْهَا سَائِلٌ يَدْعُو لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ قَالُوا أَلَا حَقُّ أَنْ لَا يُتْرَكَ كُؤُا أَنْ يَرْكَبُوا إِلَّا لِلضَّرُورَةِ وَإِذَا رَكَبُوا لِلضَّرُورَةِ فَلْيَسِّرْ لَوْ أَنَّ فِي جَامِعِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَزِمَتْهُ ضَرُورَةٌ اتَّخَذُوا سُرْجًا بِالصِّفَةِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ وَ يُمْنَعُونَ عَنْ لِبَاسٍ يَخْتَصُّ بِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالزُّهْدِ وَالشَّرَفِ

ترجمہ..... اور ذمیوں سے مواخذہ کیا جائے گا (ان پر دباؤ ڈالا جائے گا) کہ وہ اپنے لباس (وضع قطع، لباس اور شکل و صورت) سواروں گھوڑوں کی زینوں اور ٹوبیوں وغیرہ میں خود کو مسلمانوں سے علیحدہ حالت میں رکھیں یعنی مسلمانوں سے جدا ہوں اور ان کے جیسا رکھیں۔ چنانچہ وہ گھوڑوں پر سوار نہ ہوں۔ اور بدن پر ہتھیار نہ لٹکائیں۔ اور جامع صغیر میں مذکور ہے کہ ذمی ماخوذ کئے جائیں گے (دباؤ ڈالا جائے گا) کہ وہ اپنی زناں ظاہر کریں اور ایسی زینوں پر سوار ہوں جو خچروں اور گدھوں کے پالان کی صورت میں ہوں۔ اور یہ دباؤ محض اس لئے ڈالا جائے گا کہ ان کا حقیر ہونا ظاہر ہو۔ اور کمزور عقیدوں کے مسلمان ان سے محفوظ رہیں۔ اور اس لئے کہ مسلمانوں کی تعظیم کی جا



ہے اور ذمی کی اہانت کی جاتی ہے۔ اور ان کو پہلے سلام نہیں کیا جائے اور ان کا راستہ تنگ رکھا جائے۔ اب اگر ان کی پہچان کی کوئی علامت نہ ہو تو شاید ان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے جیسا برتاؤ کیا جانے لگے اور یہ بات جائز نہ ہوگی۔ اور یہ بات واجب ہے کہ ان کی علیحدہ پہچان کے لئے سوت یا بالوں کا موٹا ڈورا (زنار) ان کے پاس ہو جس کو وہ اپنی کمر میں باندھیں ریشم کی زنار نہ ہو۔ کیونکہ مسلمان کے حق میں ظلم ہوگا (کہ اس سے ایک قسم کی ان کی بڑائی ظاہر ہوگی)۔ اور یہ بھی واجب ہے کہ ذمیوں کی عورتیں بھی ہماری عورتوں سے راستوں اور حماموں میں علیحدہ آمدورفت اور نشست و برخاست کریں۔ اس طرح سے کہ وہ صاف پہچانی جاسکیں۔ اور ذمیوں کے دروازوں پر بھی نشانیاں لگا دی جائیں۔ تاکہ مانگنے والے ان کے دروازوں پر کھڑے ہو کر ان کے لئے مغفرت کی دعا نہ کریں۔ ہمارے مشائخ رحمۃ اللہ علیہم نے فرمایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ذمیوں کو ضرورت کے سوا عام حالات میں سواری کی اجازت نہ دی جائے۔ اور جب ضرورت وہ سوار ہوں تو جہاں پر مسلمانوں کا مجمع ہو وہ وہاں پر اتر جائیں۔ پھر اگر کسی کے ساتھ لازمی ضرورت ہو جائے تو وہ اکاف کی صورت کی زین (جو خچروں اور گدھوں کے پالان کی صورت ہو) بنادے۔ اور ذمیوں کو ایسے لباس سے منع کیا جائے گا جو عالموں و زاہدوں و شرفاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ کیونکہ یہ بزرگی کی علامت ہے جس سے ذمی محروم ہیں۔

جزیہ سے انکار کرنے، مسلمان کو قتل کرنے، حضور علیہ السلام کو گالی دینے یا

مسلمان عورت سے زنا کرنے سے معاہدہ ختم نہ ہوگا

وَمَنْ امْتَنَعَ مِنَ الْجَزْيَةِ أَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا أَوْ سَبَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ لَمْ يَنْتَقِضْ عَهْدُهُ لِأَنَّ الْغَايَةَ الَّتِي يَنْتَهَى بِهَا الْقِتَالُ التَّزَامُ الْجَزْيَةِ لَا أَذَاوُهَا وَالْإِلْتِزَامُ بَاقٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ سَبُّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكُونُ نَقْضًا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا يَنْقُضُ إِيمَانَهُ فَكَذَلِكَ يَنْقُضُ أَمَانَهُ إِذْ هَذَا الذَّمُّ خَلَفَ عَنْهُ وَلَنَا أَنَّ سَبَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُفْرٌ مِنْهُ وَالْكُفْرُ الْمُقَارِنُ لَا يَمْنَعُهُ فَالطَّارِئُ لَا يَرْفَعُهُ.

ترجمہ..... اور جس ذمی نے جزیہ دینے سے انکار کیا یا اس نے کسی مسلمان کو قتل کیا یا رسول اللہ کو برا کہا یا کسی مسلمان عورت سے زنا کیا تو ان کاموں سے اس کے ذمی ہو کر رہنے کا معاہدہ ختم نہیں ہوگا۔ کیونکہ قتال کی آخری حد یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کافر سرنگوں ہو کر اپنے اوپر جزیہ دینے کو لازم کر لے۔ اس کا ادا کرنا اس کی آخری حد نہیں ہوتی ہے۔ اس لئے جس جزیہ کے دینے کو اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہے وہ ابھی باقی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ کو برا کہنا اس ذمی کی طرف سے وعدہ خلافی اور عہد شکنی ہوگی۔ کیونکہ اگر وہ مسلمان ہو کر ایسی بات کرتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا۔ پس اسی طرح اس ذمی کا بھی ایمان ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ امان کا عہد ایمان کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ کو برا کہنا اس کی جانب سے کفر ہے اور ذمی بنانے کے وقت جو کفر اس کے اندر تھا وہ اس کے ذمی بننے میں حائل نہیں ہوا تو یہ کفر جو اس کو بعد میں لگا ہے وہ بھی اس کے ذمہ کے وعدہ کو ختم نہیں کرے گا۔

تشریح..... وَمَنْ امْتَنَعَ مِنَ الْجَزْيَةِ..... الخ مذکورہ باتوں سے ذمی کا معاہدہ ختم نہیں ہوگا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس سے معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ کو برا کہنے سے جس طرح ایک مسلمان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اسی طرح ذمی کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ امان کا عہد ایمان کے قائم مقام ہوتا ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ کو برا کہنا اس کی جانب سے کفر ہے۔ اور ذمی بنانے کے وقت جو کفر



اس کے اندر لگا تھا وہ ذمی بننے کے لئے مانع نہیں ہوا تو یہ کفر جو بعد میں اس پر طاری ہوا ہے وہ ذمی کے معاہدہ کو ختم نہیں کرے گا۔ میں مترجم کہتا ہوں کہ ذمی کا معاہدہ کرتے وقت جو کفر تھا وہ اس کے اعتقاد کی وجہ سے تھا۔ مگر موجودہ کفر مسلمانوں کے اعتقاد کی توہین کرنے سے ہے۔ لہذا ایسے موذی شخص کو قتل کرنا ہی اولیٰ ہے اور درالمقتنی میں ہے کہ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ وہ رسول اللہ کے متعلق برے کلمات کو علانیہ نہ کہے۔ کیونکہ اگر اس نے علانیہ کہا یا اس کی عادت بنالی تو اسے قتل کر دینا چاہئے۔ اگرچہ وہ عورت ہی ہو۔ اسی حکم پر اس زمانہ میں فتویٰ دیا جائے گا۔ جیسا کہ ردالمحتار میں ہے اور حدیث میں ہے کہ جب کعب بن اشرف نے رسول اللہ کی بجو کی جو کہ مدینہ کا یہودی تھا تو آپؐ نے فرمایا کہ کعب بن اشرف کے واسطے کون ہے۔ یہ سن کر محمد ابن مسلمہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس کے لئے میں کافی ہوں۔ بالآخر اسے قتل کر دیا۔ جیسا کہ اس کی روایت بخاری نے کی ہے۔ اسی طرح ابو رافع کے قتل کا قصہ بھی بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابن الخطل کو اس کے بجو کرنے کے جرم میں آپؐ نے قتل کر دیا۔ اسی طرح ایک زبردست شخص رسول اللہ کی برائی کرتا پھرتا تھا تو اسے حضرت خالد بن ولیدؓ نے قتل کر دیا۔ اور عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ ایک شخص آپؐ کی برائی کرتا تھا اسے حضرت زبیرؓ نے قتل کر دیا۔ اسی طرح رسول اللہؐ نے حضرت علیؓ و زبیرؓ کو ایک بجو کرنے والے کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور ابن سعد و ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ مہاجر بن ابی امیہ جو حضرت ابو بکرؓ کی طرف سے یمن کا حاکم تھا اسے خبر ملی کہ یہاں ایک عورت ایسی ہے جو رسول اللہؐ کی بجو کا گیت گاتی ہے۔ اس پر مہاجر نے اسے پکڑ کر اس کا ہاتھ کاٹ لیا اور اس کے دانت توڑ دیئے۔ جب یہ خبر حضرت ابو بکرؓ کو پہنچی تو فرمایا کہ اگر تم ایسا کر کے نہ آتے تو میں تم کو ہی یہ حکم دیتا کہ اس عورت کو قتل کر دو۔ اور ابو داؤد و النسائی نے ابو بکرؓ سے روایت کی ہے کہ میں حضرت ابو بکرؓ کے پاس آیا۔ اس وقت آپؐ نے ایک شخص سے کچھ سختی سے کلام کیا تھا۔ اس نے جواب میں آپؐ کو برا بھلا کہا تو میں نے عرض کیا اے خلیفہ رسول اللہؐ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ تو فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ کہ رسول اللہؐ کے سوا کسی دوسرے کو اس کا حق نہیں ہے۔ اور بیہقی نے اس کی روایت کی اور اس کی تصحیح بھی کی ہے۔ اور عینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو شخص رسول اللہؐ کی بدگوئی کرے میں اس کے قتل کا فتویٰ دوں گا اور اس کے قریب ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور یہی قول امام مالک و احمد و اسحاق و شافعی و غیرہم رحمہم اللہ کا ہے۔ اور ابن المنذر نے کہا ہے کہ عامہ علماء کا یہی قول ہے۔ شیخ ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ذمی سے جزیہ لے کر اس کا قتل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ عاجزی کے ساتھ ادا کرتا رہے۔ اور جیسے ہی وہ برائی اور بدگوئی کرے گا تو اس کا یہ عمل مسلمانوں کے خلاف سرکشی و تکبر ہوگا۔ اس لئے اس کا قتل مباح ہو جائے گا۔ وھذا هو الحق واللہ تعالیٰ اعلم۔

### دارالحرب چلے جانے سے عہد ٹوٹ جائے گا

قَالَ وَلَا يَنْقُضُ الْعَهْدُ إِلَّا وَأَنْ يُلْتَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ يَغْلِبُونَ عَلَى مَوْضِعٍ فَيُحَارِبُونَنَا لِأَنَّهُمْ صَارُوا حَرْبًا عَلَيْنَا فَيَعْرِى عَقْدُ الذِّمَّةِ عَنِ الْفَائِدَةِ وَهُوَ دَفْعُ شَرِّ الْحَرَابِ

ترجمہ..... قال ولا ينقض العهد..... الخ اور ذمی کا عہد ختم نہیں ہوگا مگر صرف اسی صورت میں کہ وہ دارالحرب میں واپس چلا جائے یا ذمیوں کی حمایت کے ساتھ کسی علاقہ میں جتنا بندی کر کے مسلمانوں سے لڑے۔ وہ جب ہمارے مقابلہ میں آگئے تو ان کے ذمی بن کر رہنے کا بندہ بے فائدہ ہو گیا۔ کیونکہ یہ معاہدہ تو اسی لئے کیا گیا تھا کہ لڑائی کی برائی اور اس کا فتنہ ختم ہو۔

وہ ذمی جو نقض عہد کر لے وہ مرتد کی طرح ہے

وَإِذَا نَقَضَ الدِّمِیُّ الْعَهْدَ فَهُوَ يَمْنَزِلُهُ الْمُرْتَدُّ مَعْنَاهُ فِي الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ بِاللَّحَاقِ لِأَنَّهُ التَّحَقُّقُ بِالْأَمْوَاتِ وَكَذَافِیْ حُكْمٍ مَا حَمَلَهُ مِنْ قَالِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَوْ أُسْرِیُ سَرَقٌ بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ

ترجمہ..... اور جب ذمی نے اپنا وعدہ توڑ دیا تو وہ مرتد کے حکم میں ہو گیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا حکم مرتد کے مانند ہے۔ کہ دارالحرب میں چلے جانے سے اس کی موت کا حکم دیا جائے گا۔ کیونکہ وہ بے ایمان مردہ آدمیوں سے مل گیا ہے۔ (یہاں تک کہ مرتد کی طرح اس کا ترکہ تقسیم کر دیا جائے گا) اسی طرح وہ اپنے ساتھ جو کچھ مال لے گیا ہے اس کا حکم بھی مثل مرتد کے ہے (یہاں تک کہ اگر دارالحرب پر مسلمانوں کا غلبہ ہو تو اس کا وہ سب مال مرتد کے مال کی طرح غنیمت ہو جائے گا) لیکن اتنا فرق ہے کہ اگر یہ ذمی قید کیا گیا تو غلام بنا لیا جائے گا۔ بخلاف مرتد کے کہ اس کے بعد وہ یا تو اسلام لے آئے گا ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔

## فَصْلٌ

ترجمہ..... فصل، نصاریٰ بنی تغلب کا بیان

نصاری بنو تغلب سے مسلمان کی زکوٰۃ کا دگنا لیا جائے گا

وَنَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الزَّكَاةِ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَالَحَهُمْ عَلَى ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ

ترجمہ..... اور نصاریٰ تغلب کے مال سے اس کا دو گنا لیا جائے گا جو مسلمانوں سے زکوٰۃ میں لیا جاتا ہے۔ کیونکہ حضرت عمرؓ نے صحابہ کرامؓ کی موجودگی میں ان سے اسی طرح کی مصالحت کی تھی۔ (رواہ ابن ابی شیبہ)

تشریح..... بنی تغلب..... الخ یہ لوگ عرب کی نسل سے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہوئے تھے۔ پھر حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان لوگوں سے جزیہ طلب کیا تو ان لوگوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہم عرب ہیں اس لئے ہم سے بھی اس طرح لیا جائے جس طرح اہل عرب سے لیا جاتا ہے تب حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں مشرک سے صدقہ نہیں لوں گا۔ یہ سن کر کچھ تغلبی بھاگ کر نصاریٰ روم سے مل گئے۔ تب نعمان بن زرعہ نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! یہ لوگ جنگجو قوم ہیں اور عرب ہیں۔ ان کو جزیہ دینے میں شرم آتی ہے۔ اسلئے آپ ان سے صدقہ کے نام سے جزیہ ہی وصول کریں اور اپنے دشمنوں کو ان سے مدد حاصل کرنے کا موقع نہ دیں۔ بالآخر حضرت عمرؓ نے ان کو بلوایا اور جو کچھ مسلمانوں سے لیا جاتا ہے اس کا ان سے دو گنا ان کے مردوں اور عورتوں پر مقرر کیا۔ اس فیصلہ پر تمام موجود صحابہؓ نے بھی اتفاق کیا۔

بنو تغلب کی عورتوں سے جزیہ وصول کیا جائے گا بچوں سے نہیں

وَيُؤْخَذُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ صَبْيَانِهِمْ لِأَنَّ الصُّلْحَ وَقَعَ عَلَى الصَّدَقَةِ الْمُضَاعَفَةِ وَالصَّدَقَةُ تُجِبُ عَلَيْهِنَ



دُونَ الصَّبِيَّانِ فَكَذَلِكَ الْمُضَاعَفُ وَقَالَ زُفَرٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْ نِسَائِهِمْ أَيْضًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ جَزِيَّةٌ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى مَا قَالَ عُمَرُ هَذِهِ جَزِيَّةٌ فَسَمَوْهَا مَا شِئْتُمْ وَلِهَذَا انْصَرَفَ مَصَارِفُ الْجَزِيَّةِ وَلَا جَزِيَّةٌ عَلَى النِّسْوَانِ وَلِنَا أَنَّهُ مَالٌ وَجَبَ بِالصَّلَاحِ وَالْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ وَجُوبِ مِثْلِهِ عَلَيْهَا وَالْمَصْرَفُ مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ مَالُ بَيْتِ الْمَالِ وَذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِالْجَزِيَّةِ إِلَّا تَرَى أَنَّهُ لَا يُرَاعَى فِيهِ شَرَانِطُهَا

ترجمہ..... مال کی اس مقدار کے حساب سے مردوں کے علاوہ ان کی عورتوں سے بھی لیا جائے گا۔ لیکن ان کے بچوں سے نہیں لیا جائے گا کیونکہ مصالحت تو زکوٰۃ کی دوگنی مقدار پر ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ مردوں کی طرح عورتوں پر بھی لازم ہوا کرتی ہے۔ مگر بچوں پر نہیں ہوتی ہے اس لئے دو گنے کا بھی یہی حال ہوگا اور بنی تغلب کے مردوں کی طرح ان کی عورتوں سے بھی لیا جائے گا مگر ان کے بچوں سے نہیں لیا جائے گا۔ اور زفر نے کہا ہے کہ تغلبی عورتوں سے بھی نہیں لیا جائے گا۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ کیونکہ درحقیقت یہ جزیہ ہے۔ اسی لئے حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے کہ یہ جزیہ ہے۔ تم اسے جو چاہو کہو۔ (رداۃ المبتدی)

اسی وجہ سے وہ جزیہ کے مصارف میں خرچ ہوتا ہے۔ اور عورتوں پر جزیہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ ایسا مال ہے جو صلح کے ساتھ واجب ہوا ہے۔ اور عورت اس لائق ہوتی ہے کہ اس پر ایسا مال واجب ہو۔ اور جہاں یہ مال خرچ ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے عام فائدے کے مقامات ہیں۔ کیونکہ یہ بیت المال کا مال ہے۔ اور یہ مصرف صرف جزیہ کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جزیہ کی خاص شرطوں کا لحاظ نہیں ہوتا ہے۔ (یہ مال نائب کے ذریعہ سے نہیں لیا جاتا ہے بلکہ اصل ذمہ دار خود کھڑے ہو کر ادا کرتا ہے۔ وغیرہ ذالک)

### تغلبی کے مولیٰ پر خراج عائد کیا جائے گا

وَيُوضَعُ عَلَى مَوْلَى التَّغْلِبِيِّ الْخَرَجُ أَيِ الْجَزِيَّةِ وَخَرَجُ الْأَرْضِ بِمَسْزِلَةِ مَوْلَى الْقُرَشِيِّ وَقَالَ زُفَرٌ يُضَاعَفُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَلَا تَرَى أَنَّ مَوْلَى الْهَاشِمِيِّ يُلْحَقُ بِهِ فِي حَقِّ حُرْمَةِ الصَّدَقَةِ وَلَنَا أَنَّ هَذَا تَخْفِيفٌ وَالْمَوْلَى لَا يُلْحَقُ بِالْأَصْلِ فِيهِ وَلِهَذَا تَوْضَعُ الْجَزِيَّةُ عَلَى مَوْلَى الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ نَصْرَانِيًّا بِخِلَافِ حُرْمَةِ الصَّدَقَةِ لِأَنَّ الْحُرْمَاتِ تَثْبُتُ بِالشَّبَهَاتِ فَالْحَقُّ الْمَوْلَى بِالْهَاشِمِيِّ فِي حَقِّهِ وَلَا يَلْزَمُ مَوْلَى الْغَنِيِّ حَبْتُ لَا تُحْرَمَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ لِأَنَّ الْغَنِيَّ مِنْ أَهْلِهَا وَإِنَّمَا الْغَنِيُّ مَلْنَعٌ وَلَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّ الْمَوْلَى أَمَّا الْهَاشِمِيُّ فَلَيْسَ بِأَهْلٍ لِهَذِهِ الصِّلَةِ أَصْلًا لِأَنَّهُ صَيَّنَ لِشَرَفِهِ وَكَرَامَتِهِ عَنْ أَوْسَاجِ النَّاسِ فَالْحَقُّ بِهِ مَوْلَاهُ

ترجمہ..... اور تغلبی کے غلاموں پر بھی جزیہ وزمین کا خراج مقرر کیا جائے گا۔ جیسے ہاشمی کے غلاموں پر مقرر کیا جاتا ہے (یعنی اگر ہاشمی نے کسی کا غلام کو آزاد کیا تو اس پر جزیہ و خراج مقرر کیا جائے گا) اسی طرح تغلبی کے غلاموں سے دو گنا نہیں بلکہ صرف جزیہ و خراج لیا جائے گا اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ تغلبی کے مولیٰ سے دو گنا لیا جائے گا۔ کیونکہ رسول اللہؐ نے فرمایا ہے کہ قوم کا آزاد کیا ہوا بھی اسی قوم میں سے ہوتا ہے۔ (ابوداؤد اور ترمذی نے اس کی روایت کی ہے) جیسا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدقہ حرام ہونے میں ہاشمی کا مولیٰ ہاشمی کے ساتھ ملا لیا جاتا ہے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ دو گنا لینے میں تخفیف ہے (یعنی اس میں ذلت کا وصف نہیں ہے بخلاف جزیہ کے کہ اس

کی ادائیگی میں ذلت ہوتی ہے) اور آزاد کیا ہوا انسان اس تخفیف میں اپنے آزاد کرنے والے کے ساتھ نہ ہوگا۔ اسی لئے مسلمان کے آزاد کئے ہوئے پر جبکہ وہ مثلاً نصرانی ہو جزیہ مقرر کیا جاتا ہے۔ بخلاف صدقہ حرام ہونے کے (کہ جس طرح ہاشمی پر صدقہ حرام ہوتا ہے اس کے آزاد کردہ پر بھی صدقہ حرام ہوتا ہے) کیونکہ شبہ ہو جانے سے حرمت کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ اس لئے حرمت کے معاملہ میں ہاشمی کے ساتھ اس کے آزاد کئے ہوئے غلام کو بھی ملا لیا گیا ہے۔ (اب اگر یہ کہا جائے کہ مالدار شخص کے آزاد کئے ہوئے پر بھی صدقہ لینا حرام ہونا چاہئے کیونکہ اس میں بھی شبہ موجود ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ) مالدار کے غلام سے مقابلہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ دراصل مالدار پر صدقہ لینا حرام نہیں ہوتا ہے کیونکہ مالدار شخص میں صدقہ لینے کی صلاحیت موجود ہے۔ اگرچہ فی الحال اس کی مالداری کی وجہ سے اس کے لئے ممنوع ہے یا تو نگری اس کے لئے مانع ہے۔ اور اس کے آزاد کئے ہوئے میں مالداری بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن ہاشمی میں صدقہ لینے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے اگرچہ وہ ہاشمی بالکل ہی فقیر کیوں نہ ہو۔ کیونکہ ہاشمی اس کی اپنی شرافت و کرامت کی وجہ سے لوگوں کے میل و کچیل سے محفوظ رکھا گیا ہے تو اس کی ساتھ اس کا آزاد کردہ غلام بھی ملا لیا گیا ہے۔

خراج، اموال بنی تغلب اور اہل الحرب کے امام کو دیئے ہوئے ہدایہ اور

جزیہ کو مصالح المسلمین میں خرچ کیا جائے گا

قَالَ وَ مَا جَبَاهُ الْإِمَامُ مِنَ الْخَرَاجِ وَمِنْ أَمْوَالِ بَنِي تَغْلِبَ وَمَا أَهْدَاهُ أَهْلُ الْحَرْبِ إِلَى الْإِمَامِ وَالْجَزْيَةُ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَسَدِّ الثُّغُورِ وَبِنَاءِ الْقَنَاطِيرِ وَالْجُسُورِ وَيُعْطَى قُضَاةُ الْمُسْلِمِينَ وَعُمَّالُهُمْ وَعُلَمَائُهُمْ مِنْهُ مَا يَكْفِيهِمْ وَيُدْفَعُ مِنْهُ أَرْزَاقُ الْمُقَاتِلَةِ وَذَرَارِيهِمْ لِأَنَّهُ مَالُ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّهُ وَصَلَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ وَهُوَ مَعْدِلُ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَهُؤُلَاءِ عَمَلَتُهُمْ وَنَفَقَةُ الذَّرَارِيِّ عَلَى الْأَبَاءِ فَلَوْ كُمْ يُعْطَوْنَ كَفَايَتُهُمْ لَا حَتَا جُؤَالِي إِلَّا حِسَابٌ وَلَا يَفْرَغُونَ لِلْقِتَالِ

ترجمہ..... کہا اور امام المسلمین نے جو کچھ کہ خراج و اموال بنی تغلب اور ہدایہ اہل حرب سے اور جزیہ سے جمع کیا ہے۔ اسے وہ امام عام مسلمانوں کی مصلحتوں میں خرچ کرے جیسے دارالاسلام کی سرحدوں کو لشکروں سے مضبوط کرنا، اور دریاؤں و نہروں کے پل بنانا اور مسلمانوں کے قاضیوں و عاملوں اور علماء کو ان کی ضرورت کے مطابق دینا۔ کیونکہ یہ سب بیت المال کا مال ہے۔ اور مسلمانوں کو کسی جہاد اور قتال کے بغیر حاصل ہوا ہے۔ (بیت المال کا انتظام اس لئے کیا جاتا ہے اور اس قسم کا مال وہاں رکھا جاتا ہے کہ تمام مسلمانوں کی مصلحتوں میں کام آئے۔ اوپر میں جتنے کام اور مددیں ذکر کی گئیں) یہ سب مسلمانوں کے ہی کام میں آتی ہیں اور مسلمانوں کے واسطے وہ کام کرتے ہیں۔ چونکہ کام کرنے والوں کے بال بچوں کا خرچ بھی ان کے باپ پر لازم ہوتا ہے۔ اب اگر ان لوگوں کو بیت المال سے ان کے ضروری اخراجات کیلئے نہ دیا جائے تو وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے آمدنی کی دوسری صورتیں اختیار کرنے میں مشغول ہوں گے اور قتال و جہاد کیلئے فارغ نہ ہو سکیں گے۔ (اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی تجنیس کی روایت کے مطابق طالب علم بھی اس میں داخل ہیں)۔

جو سال کے درمیان فوت ہو جائے اس پر کچھ لازم نہیں

وَمَنْ مَاتَ فِي نِصْفِ السَّنَةِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الْعَطَاءِ لِأَنَّهُ نَوَّعُ صَلَهِ وَلَيْسَ بِدَيْنٍ وَلِهَذَا سُمِّيَ عَطَاءً فَلَا يَمْلِكُ



قَبْلُ الْقَبْضِ وَ يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ وَ أَهْلُ الْعَطَاءِ فِي زَمَانِنَا مِثْلُ الْقَاضِي وَ الْمُدْرِسِ وَ الْمُفْتِي وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

ترجمہ..... ومن مات..... النخ اور قاضی و علماء وغیرہ میں سے جو کوئی درمیان سال (بالآخر سال میں) میں مر جائے تو اس عطاء میں سے ان کے لئے کچھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ ایک طرح کا صلہ ہے۔ حکومت پر قرض نہیں ہے۔ اس لئے اسے عطاء کہتے ہیں۔ اور عطیہ کے لئے اس پر قبضہ کا ہونا ضروری ہونا ہے کیونکہ اس سے پہلے ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اور موت سے یہ ساقط ہو جاتا ہے۔ ہمارے زمانہ میں مستحق عطاء قاضی و مفتی و مدرس ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

فائدہ..... زمانہ سابق میں جس شخص کو اسلام میں کسی طرح کی برتری حاصل تھی وہ اہل عطاء میں سے شمار کئے جاتے تھے۔ اور رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات کو بھی بیت المال سے ملتا تھا۔ اب اصلی کافروں کے احکام شروع کئے جا رہے ہیں۔

## بَابُ أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّينَ

ترجمہ..... باب، مرتدوں کے احکام کے بیان میں۔

کوئی شخص مرتد اور بے دین ہو جائے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے

قَالَ وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ عَرِضٌ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ شُبْهَةٌ كُشِفَتْ عَنْهُ لِأَنَّهُ عَسَاهُ اعْتَرَتْهُ شُبْهَةٌ فَتَزَاحَ وَفِيهِ دَفْعُ شَرِّهِ بِأَحْسَنِ الْأَمْرَيْنِ إِلَّا أَنْ الْعَرِضَ عَلَى مَا قَالُوا غَيْرُ وَاجِبٍ لِأَنَّ الدَّعْوَةَ بِلِغَتِهِ

ترجمہ..... قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب کوئی مسلمان نعوذ باللہ اسلام سے پھر جائے تو اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے (اور دوبارہ مسلمان ہونے کے لئے سمجھایا جائے) اگر اسے کوئی شبہ پیدا ہو گیا ہو وہ حل کر دیا جائے۔ کیونکہ شاید اس کو کوئی ایسا شبہ پیدا ہو گیا ہو اور وہ خود حل نہ سکتا ہو تو وہ حل کر دیا جائے۔ اس کی اس خرابی (بد دینی اور ارتداد) کو دور کرنے کے دو طریقوں میں سے اچھا طریقہ یہی ہے یعنی اس کو قتل کر دینے سے مبرا اس کو سمجھانا ہے۔ لیکن مشائخ کے قول کی بناء پر اس کے سامنے اب اسلام پیش کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ اس کو تو اسلام کی دعوت پہلے ہی پہنچ چکی ہے۔

تین دن تک قید میں ڈالا جائے مسلمان ہو جائے تو فبھا ورنہ قتل کر دیا جائے

قَالَ وَيُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ أَسْلَمَ وَالْأَقْتِلَ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ الْمُرْتَدُّ يُعَرِضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا فَإِنْ أَبَى قُتِلَ وَتَأْوِيلُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَسْتَمْهَلُ فَيَمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَأَنَّهُمَا مَدَّةٌ ضَرَبَتْ لِإِبْلَاءِ الْأَعْدَارِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَجَّلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ طَلَبَ ذَلِكَ أَوْلَمُ يَطْلُبُ وَعَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَجَّلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ قَبْلَ ذَلِكَ لِأَنَّ ارْتِدَادَ الْمُسْلِمِ يَكُونُ عَنْ شُبْهَةٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ لَابُدَّ مِنْ مُدَّةٍ يُمَكِّنُهُ التَّأَمُّلُ فَقَدَرْنَاهُ بِالثَّلَاثِ وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ الْأَمْهَالِ وَكَذَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَلَأنَّهُ كَافِرٌ حَرْبِيٌّ بِلِغَتِهِ الدَّعْوَةُ فَيُقْتَلُ لِلْحَالِ مِنْ غَيْرِ اسْتِمْهَالٍ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْوَاجِبِ لَا مَرْمُوهُمْ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ لِإِطْلَاقِ الدَّلَائِلِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْبَتِهِ أَنْ يُتَبَرَّأَ عَنِ الْأَذْيَانِ كُلِّهَا سِوَى الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ

لَا دِينَ لَهُ وَلَوْ تَبَرَّ أَعْمَاءُ نَقَلَ إِلَيْهِ كَفَاهُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ

ترجمہ..... قال ویجب جس..... الخ اور ایسے دین سے پھر جانے والے (مرتد) کو اولاً تین دنوں تک قید میں رکھا جائے۔ اس عرصہ میں اگر مسلمان ہو گیا تو بہتر ہے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔ جامع صغیر میں ہے کہ مرتد کے سامنے اسلام پیش کیا جائے خواہ وہ آزاد ہو یا غلام ہو اگر اس وقت بھی انکار کر دے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس میں پہلے قول کی تاویل یہ ہے کہ اگر مرتد نے مہلت مانگی تو تین دنوں کی مہلت دی جائے گی۔ کیونکہ مہلت دینے کی تمام صورتوں میں عذروں کے دور کرنے کے لئے اتنی ہی مدت مقرر ہے۔ امام ابو حنیفہ و ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہما سے روایت ہے کہ اسے تین دنوں کی مہلت دینی مستحب ہے خواہ مانگے یا نہ مانگے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ امام المسلمین پر واجب ہے کہ اسے تین دنوں کی مہلت دے۔ اس سے پہلے اسے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ مسلمان کا مرتد ہو جانا بظاہر کسی خاص وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لئے اسے اتنی مہلت ضرور دینی چاہئے جس میں وہ غور کر کے صحیح راستے پر آ سکے۔ جس کے لئے ہم نے تین دنوں کی مہلت مقرر کی ہے۔ (حضرت عمرؓ کا قول ظاہر یہی ہے۔ جیسا کہ مالک و بیہقی رحمۃ اللہ علیہما نے روایت کی ہے۔) اور ہمارے دلیل یہ فرمان باری تعالیٰ ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ یعنی مشرکوں کو قتل کر دو۔ حالانکہ اس میں مہلت دینے کی قید نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان کہ جو شخص اپنا دین بدلے اس کو تم قتل کر دو۔ (بخاری وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے۔) اور اس دلیل سے بھی کہ یہ شخص حربی کافر ہو گیا ہے اسے تو پہلے ہی دعوت اسلام پہنچ چکی ہے۔ اس لئے اسے بغیر مہلت دیئے فوراً قتل کر دیا جائے۔ کیونکہ اس کو قتل کرنا واجب ہو گیا۔ اور اس کا مسلمان ہو جانا غیر یقینی اور امر مہموم ہے تو ایسی وہی بات کے لئے کسی واجب کام میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ (امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح مذہب یہی ہے۔) مرتد ہو جانے والا خواہ آزاد ہو یا غلام ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ جن دلائل سے یہ بات معلوم ہوئی ہے اور حکم نکلا ہے وہ مطلق ہے یعنی اس میں دونوں داخل ہیں۔ مرتد کی تو بہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یوں کہے اشہدان لا الہ الا اللہ و اشہدان محمداً رسول اللہ کے بعد دین اسلام کے سوا تمام دینوں سے انکار اور بیزاری کا اظہار کرے۔ کیونکہ فی الحال اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور اگر دین اسلام چھوڑ کر جس دین کی طرف وہ مائل ہوا تھا صرف اسی سے بیزاری ظاہر کر دے تو بھی کافی ہے۔ کیونکہ مقصود اصلی حاصل ہو گیا ہے۔

### اسلام پیش کرنے سے پہلے قتل مکروہ ہے

قَالَ فَإِنْ قَتَلَهُ قَاتِلٌ قَبْلَ عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ كُرْهٌ وَلَا شَيْءٌ عَلَى الْقَاتِلِ وَمَعْنَى الْكُرْهِ هُنَا تَرْكُ الْمُسْتَحَبِّ وَانْتِفَاءُ الضَّمَانِ لِأَنَّ الْكُفْرَ مُبِیْحٌ لِلْقَتْلِ وَالْعَرْضُ بَعْدَ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ غَيْرُ وَاجِبٍ

ترجمہ..... قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر اس مرتد کو اسلام پیش کرنے سے پہلے کسی نے قتل کر دیا تو یہ فعل مکروہ ہوگا اور اس قاتل پر قصاص یا دیت کچھ لازم نہیں ہوگی۔ اس مسئلہ میں کراہیت کے معنی ہیں مستحب کام کو چھوڑ دینا۔ اور اس پر کوئی ضمان اس لئے لازم نہیں ہوگا کہ اس کے اندر کے کفر نے اس کے اپنے خون کو حلال کر دیا ہے۔ اور ایک بار اسلام کی دعوت پہنچ جانے کے بعد بھی دوبارہ اسلام پیش کرنا واجب نہیں ہوتا ہے۔



## مرتدہ کی کیا سزا ہے

وَأَمَّا الْمُرْتَدَّةُ فَلَا تُقْتَلُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تُقْتَلُ لِمَارُونَنَا وَلَآنَ رَدَّةُ الرَّجُلِ مُبِیْحَةٌ لِلْقَتْلِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ جُنَايَةٌ مُغْلَظَةٌ فَتَنَاطُ بِهَا عُقُوبَةٌ مُغْلَظَةٌ وَرَدَّةُ الْمَرْأَةِ تُشَارِكُهَا فِيهَا فَتُشَارِكُهَا فِي مُؤْجِبِهَا وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَلَآنَ الْأَضْلُ تَأْخِيرُ الْأَجْزِيَةِ إِلَى دَارِ الْأَجْرَةِ أَذْغَعَجِيلُهَا يُخَلُّ بِمَعْنَى الْإِبْتِلَاءِ وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنْهُ دَفْعُ الشَّرِّ نَاجِزٌ وَهُوَ الْحَرَابُ وَلَا يُتَوَجَّهُ ذَالِكُ مِنَ النِّسَاءِ لِعَدَمِ صَلَاحِيَةِ الْبَيْتِ بِخِلَافِ الرِّجَالِ فَصَارَتْ الْمُرْتَدَّةُ كَالْأَضْلِيِّ قَالُوا وَلَكِنْ تُحْبَسُ حَتَّى تُسَلِّمَ لِأَنَّهَا افْتَنَعَتْ عَنْ إِيْقَاءِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ الْإِقْرَارِ فَتُجْبَرُ عَلَى إِيْقَائِهِ بِأَلْحَبْسِ كَمَا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَتُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْإِسْلَامِ حُرَّةٌ كَانَتْ أَوْ أَمَةً

ترجمہ۔۔۔ اور مرتدہ عورت قتل نہیں کی جائے گی۔ مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وہ بھی قتل کی جائے گی۔ اسی حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی ہے (کہ جو کوئی اپنا دین بدلے (مرتد ہو) اسے قتل کر دو) اور اس دلیل سے بھی کہ مرد کا مرتد ہونا اس کے خون کو اس بناء پر مباح کر دیتا ہے کہ یہ ایک سخت جرم ہے۔ لہذا اس کی سزا بھی سخت یعنی قتل ہی ہونی چاہئے اور عورت بھی مرتد ہونے سے اس سخت جرم میں شریک ہے۔ اس لئے عورت بھی اسی سزا میں شریک ہوگی۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ نے عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (جیسا کہ صحاح میں مذکور ہے) اور اس دلیل سے کہ سزاؤں کے متعلق اصل یہ ہے کہ ان کو آخرت میں دیئے جانے کے لئے جہاں تک ممکن ہو منوخر کیا جائے۔ کیونکہ فی الفور سزا دے دینے سے مجرم کے امتحان میں خلل پیدا ہو جاتا ہے (کہ وہ کس حد تک بے باکی کی جرأت کر سکتا ہے) اس اصل ہونے کے باوجود اس کے خلاف اس لئے کیا جاتا ہے کہ فوری طور پر بھی اس کا فتنہ و فساد ختم ہو اور دنیا سے بھی لڑائی دفع ہو۔ مگر عورتوں کی ذات سے ایسی لڑائی کی امید نہیں کی جاتی ہے۔ کیونکہ فطری طور سے ان میں جنگ کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ بخلاف مردوں کے۔ لہذا مرتدہ کافرہ (ایک بار اسلام لا کر پھر کافر ہونے والی) اصلی کافر رہنے والی کے حکم میں ہوگئی۔ (یعنی جیسی کہ اصلی کافرہ عورت میدان جنگ میں بھی قتل نہیں کی جاتی ہے اسی طرح مرتد ہونے والی کافرہ بھی قتل نہیں کی جائے گی)۔ البتہ وہ قید خانہ میں ڈالی جائے گی۔ اور دوبارہ اسلام قبول نہ کر لینے تک وہیں پڑی رہے گی۔ کیونکہ وہ ذات الہی کا اور اس کے حق کا اقرار کر کے اب اس کے ادا کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ اس لئے اسے قید میں ڈال کر اس حق کو ادا کرنے پر مجبور کی جائے گی جیسے کہ بندوں کے معاملہ میں ہوتا ہے۔ اور جامع صغیر میں ہے کہ عورت کو (دوبارہ) اسلام لانے پر مجبور کیا جائے گا وہ عورت آزاد ہو، چاہے باندی ہو۔

تشریح۔۔۔ اگر عورت مرتد ہو جائے تو احناف کے ہاں اسے قتل نہ کیا جائے گا بلکہ اسے قید میں رکھا جائے گا اور اس کے ساتھ اسے ترغیب و دعوت دی جائے گی اگر پھر بھی اسلام قبول نہ کیا تو قید میں ہی رہنے دیا جائے گا یہاں تک کہ موت اس کا فیصلہ کر لے۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر عورت مرتد ہو جائے تو اسے مرد کی طرح قتل کیا جائے گا دلیل حضور ﷺ کا ارشاد ہے مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ اس ارشاد نبوی میں کسی کی تخصیص نہیں ہے لہذا یہ حکم عمومی ہوگا۔ دوسری دلیل یہ کہ خون کو مباح کرنے کا سبب کفر ہے جو کہ عورت میں پایا جا رہا ہے۔

تیسری دلیل۔۔۔ یہ کہ کفر بعد از اسلام کفر اصلی سے زیادہ سخت ہے احناف فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ ”عورت اور بچے کو قتل

نہ کرو۔

باندی مرتد ہو جائے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے

وَالْأَمَةُ يُجْبَرُهَا مَوْلَاهَا أَمَّا الْجَبْرُ فَلَمَّا ذَكَرْنَا وَمِنْ الْمَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِّينَ وَيُزَوَّى تُضْرَبُ فِي كُلِّ أَيَّامٍ مُبَالِغَةً فِي الْحَمْلِ عَلَى الْإِسْلَامِ

ترجمہ..... اور باندی اس کا مولیٰ اپنی اس باندی پر جبر کرے گا تاکہ حق اللہ کے ساتھ حق العبد بھی جمع ہو جائے۔ اور یہ روایت بھی ہے کہ اس کے لئے اس کا مولیٰ اسے ہر روز مارے تاکہ پورے طور پر جبر ہو اور وہ اسلام قبول کر لے۔

مرتد کا ملک اپنے اموال سے زائل ہو جاتا ہے

قَالَ وَيَزُولُ مِلْكُ الْمُرْتَدِّ عَنْ أَمْوَالِهِ بِرِدَّتِهِ رَوَى الْأَمْرَاعِيُّ فَإِنْ أُسْلِمَ عَادَتْ إِلَى حَالِهَا قَالُوا هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَزُولُ مِلْكُهُ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ مُحْتَاجٌ فَإِلَى أَنْ يُقْتَلَ بَقِيَ مِلْكُهُ كَالْمُحْكُومِ عَلَيْهِ بِالرَّجْمِ وَالْقَصَاصِ وَلَهُ أَنَّهُ حَرْبِيٌّ مَقْتُورٌ تَحْتَ أَيْدِينَا حَتَّى يُقْتَلَ وَلَا قَتْلَ إِلَّا بِالْحَرَابِ فَهَذَا يُوجِبُ زَوَالَ مِلْكِهِ وَمَا لِكَيْتِهِ غَيْرَ أَنَّهُ مَدْعُوٌّ إِلَى الْإِسْلَامِ بِالْإِجْبَارِ وَيُزَجَّى عَوْدُهُ إِلَيْهِ فَتَوَقَّفْنَا فِي أَمْرِهِ فَإِنْ أُسْلِمَ جُعِلَ هَذَا الْعَارِضُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ وَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُسْلِمًا وَلَمْ يَعْمَلِ السَّبَبُ وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ أَوْ لِحَقِّ بَدَارِ الْحَرْبِ وَحُكْمِ بِلِحَاقِهِ اسْتَقَرَّ كُفْرُهُ فَيَعْمَلُ السَّبَبُ عَمَلَهُ وَزَالَ مِلْكُهُ

ترجمہ..... قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مرتد ہو جانے کی وجہ سے اس مرتد کی ملکیت اس کے اپنے مالوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ مگر اس کی ملکیت کا ختم ہو جانا کچھ عارضی ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ پھر اسلام قبول کر لے تو وہ ملکیت بحال ہو جاتی ہے۔ مشائخ فقہاء نے کہا ہے کہ یہ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما نے کہا ہے کہ اس کی ملکیت ختم نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ مکلف اور ضرورت مند ہے اس لئے اس کے قتل ہو جانے تک اس کی ملکیت باقی رہتی ہے۔ جیسے وہ شخص جس پر رجم یا قصاص کا حکم دیا گیا ہو کہ اس کے قتل یا رجم ہونے تک اس کی ملکیت باقی رہتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ مرتد ایک حربی کافر ہے جو ہمارے قبضہ میں مقہور اور گرفتار ہے تاکہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اور قتل بغیر لڑائی کے نہیں ہوتا ہے (یعنی وہ فی الحال حربی ہے اسی لئے اس کا قتل جائز ہے) اور یہی بات اس چیز کو واجب کرتی ہے کہ اس کی ملکیت اور مالکیت سب ختم ہو جائے۔ البتہ ابھی اس پر جبر کر کے اسے اسلام کی طرف اس امید پر دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ اس طرح ہم نے اس کے معاملہ میں ذرا انتظار کیا ہے (یعنی اس وقت یہ بات ظاہر ہو جانے کے لئے توقف کیا ہے کہ وہ دوبارہ اسلام لاتا ہے یا نہیں؟) اگر وہ اسلام لے آیا تو اس کے فی الحال مرتد ہو جانے کو نہ ہونے کے جیسا فرض کر لیا جائے گا اور اس کی ملکیت کے ختم ہو جانے کو کالعدم مان لیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ ایسا ہو جائے گا کہ گویا وہ برابر مسلمان ہی رہا۔ اور اپنی ملکیت کے زائل ہونے کا سبب اختیار نہیں کیا یعنی مرتد نہیں ہوا۔ اور اگر اس عرصہ میں وہ مر گیا یا مرتد ہونے پر قتل کر دیا گیا یا بھاگ کر وہ دار الحرب میں پہنچ گیا (اور قاضی نے اس کے بارے میں فیصلہ نہ دیا کہ وہ دار الحرب پہنچ گیا ہے یا تو اس کا کفر برقرار ہو کر پکا ہو گیا۔ اس لئے اس کا مرتد ہونا اپنا اثر دکھائے گا یعنی اس کی سابقہ ملکیت ختم ہو جائے گی۔



تشریح..... مرتد ہونا ملکیت کے زوال کا سبب ہے۔ تمام فقہاء وائمہ کا اتفاق اس بات پر ہے کہ اگر مرتد دوبارہ اسلام قبول کر لے تو اس کی ملکیت برقرار رہے گی اور اسے تصرف کا حق ہے۔ اگر مرتد نے دوبارہ اسلام قبول نہ کیا بلکہ حالت ارتداد میں فوت ہو یا قتل کیا گیا یا دارالحرب سے جا ملا تو اب اس صورت میں اس کی ملکیت زائل ہو جائے گی۔

امام صاحب کے ہاں مرتد کی ملکیت اپنے اموال سے سبب (ارتداد) کے پائے جانے کی بنیاد پر زائل ہوگی اور جب قتل یا موت واقع ہوئی تو اب ملکیت کے زوال کو ارتداد کی طرف مضاف کیا جائے گا اس لئے کہ مرتد کے اسلام لانے کا احتمال تھا اسلئے زوال پر ملکیت کا حکم موقوف تھا۔

صاحبین کے ہاں ارتداد سے ملکیت زائل نہ ہوگی اس لئے کہ سبب ملکیت حریت پایا جا رہا ہے لیکن قتل، موت یا دارالحرب سے ملنے پر ملکیت کے زوال کا حکم لگایا جائے گا۔ امام صاحب کا موقف رائج ہے کہ مرتد جب اسلام قبول کر لے تو گویا مرتد ہوا ہی نہیں پس ملکیت کے فوری زائل ہونے پر توقف کیا جائے گا۔

### مرتد حالت ارتداد میں مرگیا قتل کر لیا گیا تو حالت اسلام کی کمائی ورثہ کو ملے گی

قَالَ وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ انْتَقَلَ مَا كَتَسَبَ فِيهِ إِسْلَامُهُ إِلَى وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ مَا كَتَسَبَهُ فِي حَالِ رِدَّتِهِ فَيْئًا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ كِلَاهُمَا لِلْوَرَثَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كِلَاهُمَا فَيْئٌ لِأَنَّهُ مَاتَ كَافِرًا وَالْمُسْلِمُ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ ثُمَّ هُوَ مَالُ حَرْبٍ لَا أَمَانَ لَهُ فَيَكُونُ فَيْئًا وَلَهُمَا أَنْ مَلَكَهُ فِي الْكَسْبَيْنِ بَعْدَ الرِّدَّةِ بَاقٍ عَلَى مَا بَيْنَاهُ فَيَنْتَقِلُ بِمَوْتِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ وَيُسْتَنْدُ إِلَى مَا قُبِلَ رِدَّتِهِ إِذَا الرِّدَّةُ سَبَبَ الْمَوْتَ فَيَكُونُ تَوْرِيثُ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُمْكِنُ الْإِسْتِنَادُ فِي كَسْبِ الْإِسْلَامِ لَوْ جُودَهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ وَلَا يُمْكِنُ الْإِسْتِنَادُ فِي كَسْبِ الرِّدَّةِ لِعَدَمِهِ قَبْلَهَا وَمِنْ شَرْطِهِ وَجُودُهُ

ترجمہ..... قال وان مات او قتل الخ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ۔ اگر وہ مرتد مرگیا یا ارتداد کی حالت میں قتل کر دیا گیا تو جو کچھ اس نے حالت اسلام میں کمایا تھا وہ اس کے مسلمان ورثہ کو مل جائے گا۔ اور جو کچھ اس نے ارتداد کے زمانہ میں کمایا تھا وہ مال غنیمت ہوگا۔ یہ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما نے کہا ہے کہ دونوں حالتوں (حالت اسلام اور حالت ارتداد) کی ساری کمائی اس کے ورثہ کی کمائی ہو جائے گی۔ اور امام شافعی (وما لک اور احمد) رحمہم اللہ نے کہا ہے کہ دونوں کمائیاں مال غنیمت میں شمار ہوں گی کیونکہ وہ حالت کفر میں مرا ہے۔ اور کافر کا وارث کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر یہ سارا مال ایک ایسے حربی کا ثابت ہوا جس کا دارالاسلام میں امان باقی نہیں رہا تھا لہذا وہ مال غنیمت ہو جائے گا۔ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کی دلیل یہ ہے کہ اس کی دونوں قسموں کی کمائیاں اس کے مرتد ہونے کے بعد بھی اس کی ملکیت میں باقی رہیں گی۔ جیسا کہ ابھی اوپر صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کا مذہب بیان کیا جا چکا ہے۔ لہذا اس کے مرجانے کے بعد اس کی ملکیت اس کے وارثوں کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اور یہ کہا جائے گا کہ اس کے مرنے سے ذرا پہلے اس کی ملکیت ورثہ کی طرف منتقل ہوئی ہے۔ کیونکہ اس کا مرتد ہونا ہی اس کی موت کا سبب ہے۔ لہذا مسلمان نے مسلمان ہی کی میراث پائی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ اسلام کی کمائی کو اس طرح منسوب کرنا ممکن ہے کیونکہ وہ



تو اس کے مرتد ہونے سے پہلے موجود تھی۔ اور ارتداد کی کمائی کو اس طرح منسوب کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے مرتد ہونے سے پہلے موجود نہ تھی۔ حالانکہ منسوب اور مستند ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ اس وقت بھی موجود ہو۔

تشریح..... اگر کسی مرتد کو حالت ارتداد میں موت آگئی یا وہ (مرتد) بوجہ ارتداد کے قتل کیا گیا تو امام ابو حنیفہؒ کے موقف کے بموجب حالت اسلام میں بذریعہ اکتساب (کمائی) حاصل شدہ مال مسلمان ورثاء کو بطور وراثت ملے گا۔ جب کہ حالت ارتداد میں کمایا ہوا مال ”مال غنیمت“ متصور ہوگا۔ کیونکہ حالت اسلام کی کمائی حالت ارتداد سے پہلے کی طرف منسوب ہوگی اور یہ ممکن ہے اور بعد از ارتداد کی کمائی کو پہلے کی طرف منسوب کرنا ممکن نہیں اس لئے بعد از ردت کمایا ہوا مال غنیمت ہوگا۔ صاحبین کے ہاں مرتد کا مال میراث متصور ہوگا کہ یہ مال مرتد کی ملکیت میں ہے یا امام شافعیؒ کے ہاں مرتد کا کمایا ہوا مال بصورت موت یا قتل مال غنیمت شمار ہوگا اس لئے کہ مرتد کی موت حالت کفر میں ہوئی ہے۔

مرتد کے کمائے ہوئے مال کے بارے میں صاحبین (امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ) کا موقف ہو یا امام شافعیؒ کی رائے امام ابو حنیفہؒ کے موقف کے مد مقابل مرجوح ہیں۔ کیونکہ مرتد کے مال پر زوال ملکیت کا تحقق (ثبوت) ہوتا ہے، چنانچہ مرتد نے بحالت اسلام اور قبل از ارتداد جو مال بذریعہ اکتساب (کمائی) حاصل کیا وہ مسلمان ورثاء کے لئے میراث متصور ہوگا۔ اور حضرت علیؑ کے اقدام پر مبنی اجماع صحابہؓ کو اسی (قبل از ارتداد کمائے ہوئے مال) پر محمول کیا جائے گا۔ اور امام شافعیؒ کی مستدل روایت (مسلمان کافر کا وارث نہیں) کو بعد از ارتداد بذریعہ اکتساب (کمائی) حاصل شدہ مال پر محمول کیا جائے گا۔ اس طرح کرنے سے حضرت علیؑ کے اقدام پر مبنی صحابہ کرامؓ کے اجماع اور امام شافعیؒ کی مستدل روایت کے مابین تعارض رفع ہو جائے گا اور اس پر عمل کرنے میں تشابہ بھی پیدا نہ ہوگا۔ پس ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہؒ کا موقف قابل ترجیح ہے۔

### حالت ارتداد کے وراثت وارث رہیں گے

ثُمَّ إِنَّمَا يَرِثُهُ مَنْ كَانَ وَارِثًا لَهُ حَالَةَ الرِّدَّةِ وَبَقِيَ وَارِثًا إِلَى وَقْتِ مَوْتِهِ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِعْتِبَارًا لِلِاسْتِسَادَةِ وَعَنْهُ أَنَّهُ يُرِثُهُ مَنْ كَانَ وَارِثًا لَهُ عِنْدَ الرِّدَّةِ وَلَا يَبْطُلُ اسْتِحْقَاقُهُ بِمَوْتِهِ بَلْ يُخْلَفُهُ وَارِثُهُ لِأَنَّ الرِّدَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ وَعَنْهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ جُودُ الْوَادِثِ عِنْدَ الْمَوْتِ لِأَنَّ الْحَادِثَ بَعْدَ انْعِقَادِ السَّبَبِ قَبْلَ تَمَامِهِ كَالْحَادِثِ قَبْلَ انْعِقَادِهِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ الْحَارِثِ مِنَ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَتَرِثُهُ امْرَأَتُهُ الْمُسْلِمَةُ إِذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ فَرًا وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا وَقْتُ الرِّدَّةِ

ترجمہ..... اب یہ بات کہ اس کا وارث کون شخص ہوگا۔ تو امام ابو حنیفہؒ سے حسن رحمۃ اللہ علیہ کی روایت یہ ہے کہ جو شخص مرتد ہونے کی حالت میں اس کا وارث تھا اور مرتد کی موت تک اس کا وارث رہا وہی وارث ہوگا۔ کیونکہ مرتد ہونے سے پہلے کی جانب مستند اور منسوب ہے اس لئے اس اسناد کا اعتبار ہوگا اور دوسری روایت جو امام ابو یوسفؒ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے یہ ہے کہ اس کے مرتد ہونے کے وقت جو شخص وارث تھا وہی وارث ہوگا اور اگر وہ مر بھی جائے تو اس کے وارث مرتد کے وارث کی بجائے ہوں گے۔ کیونکہ مرتد ہونا مر جانے کے حکم میں ہے۔ اور امام ابو حنیفہؒ رحمۃ اللہ علیہ سے تیسری روایت امام محمدؒ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے (اور امام محمدؒ رحمۃ اللہ علیہ کی یہی روایت اصح ہے۔



المہو ط ۱۲) کہ مرتد کی موت کے وقت وارث کا وجود معتبر ہے۔ کیونکہ سبب منعقد ہونے کے بعد اس سبب کے پورا ہونے سے پہلے جو وارث پیدا ہوا گویا وہ سبب منعقد ہونے سے پہلے پیدا ہوا جیسے مبیعہ باندی پر قبضہ سے پہلے ہی اس سے بچہ پیدا ہوا۔ یعنی وہ بیچ کے قبل ٹھہرایا جائے گا اور اس کی مسلمان بیوی بھی وارث ہوگی بشرطیکہ جس وقت مرتد مر یا قتل کیا گیا ہے اس وقت یہ عورت عدت گزار رہی ہو کیونکہ یہ مرتد شوہر فرار کرنے والا ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ مرتد ہونے کے وقت تندرست ہو۔

### مرتدہ کی کمائی اس کے ورثا کو ملے گی

وَالْمُرْتَدَّةُ كَسْبُهَا لِمَوْرَثَتِهَا لِأَنَّهُ لَا حَرَابَ مِنْهَا فَلَكُمْ يَوْجَدُ سَبَبُ الْفَيْسِي بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ

ترجمہ..... اور اب مرتدہ عورت کا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کی کمائی اس کے وارثوں کی ہوگی۔ کیونکہ اس کی طرف سے جنگ نہیں ہوئی ہے اس لئے ایسا کوئی سبب نہیں پایا گیا جس سے اس کی کمائی مال غنیمت ہو جائے۔ بخلاف مرتد مرد کے کہ اس کی ردت کی حالت کی کمائی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مال غنیمت ہے۔

### حالت مرض میں عورت مرتد ہو جائے تو مسلمان خاوند وارث ہوگا

وَبِرِثَتِهَا زَوْجُهَا الْمُسْلِمُ إِنْ ارْتَدَّتْ وَهِيَ مَرِيضَةٌ لِقَضَائِهَا إِبْطَالُ حَقِّهِ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً لَا يَرِثُهَا لِأَنَّهَا لَا تُقْتَلُ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّهُ بِمَالِهَا بِالرَّدَّةِ بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ

ترجمہ..... اور مرتدہ کا مسلمان شوہر اس کا وارث ہوگا۔ بشرطیکہ یہ مرتد ہونے والی مرتد ہونے کے وقت بیمار ہو۔ کیونکہ اس طرح اس نے اپنے شوہر کی میراث کے حق کو مٹانا چاہا ہے۔ اور اگر وہ مرتد ہونے کے وقت بیمار نہ ہو تو اس کا مسلمان شوہر اس کا وارث نہ ہوگا۔ کیونکہ عورت قتل نہیں کی جاتی ہے۔ تو اس کے مرتد ہو جانے سے اس کے مال کے ساتھ اس کے شوہر کا کوئی حق متعلق نہیں ہوا۔ بخلاف مرتد مرد کے یعنی چونکہ وہ مرتد ہونے سے قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کا مرتد ہونا گویا مرجانا ہی ہے۔ اس لئے اس کے مال سے اس کے وارثوں کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔

### مرتد ہو کر دار الحرب چلا گیا یا قاضی نے لہق کا فیصلہ کر دیا تو اسکے مدبر امہات الاولاد اور دیون کا حکم

قَالَ وَإِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِلِحَاقِهِ عَتَقَ مُدَبَّرُوهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَحُلَّتِ الدُّيُونُ الَّتِي عَلَيْهِ وَنُقِلَ مَا اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ إِلَى وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ الشَّافِعِيُّ يَبْقَى مَالُهُ مَوْقُوفًا كَمَا كَانَ لِأَنَّهُ نَوَّعَ غَيْبَةٍ فَاشْبَهَ الْغَيْبَةَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَنَاقَبَهُ صَارَ مُرْتَدًّا بِاللِّحَاقِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَهُمْ أَمْوَاتٌ فِي حَقِّ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُطُ عَنِ الْإِسْلَامِ كَمَا هِيَ مُنْقَطِعَةٌ عَنِ الْمَوْتِ فَصَارَ كَالْمَوْتِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ لِحَاقِهِ إِلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي لِاحْتِمَالِ الْعُودِ إِلَيْنَا فَلَا بُدَّ مِنَ الْقَضَاءِ وَإِذَا تَقَرَّرَ مَوْتُهُ ثَبَتَ الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ وَهِيَ مَا ذَكَرْنَا هَا كَمَا فِي الْمَوْتِ الْحَقِيقِيِّ ثُمَّ يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ وَارِثًا عِنْدَ لِحَاقِهِ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ اللَّحَاقَ هُوَ السَّبَبُ وَالْقَضَاءُ لِتَقَرُّرِهِ لِقَطْعِ الْإِحْتِمَالِ وَقَالَ أَبُو يُونُسَ وَقْتُ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَوْتًا بِالْقَضَاءِ وَالْمُرْتَدَّةُ إِذَا لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ فَهِيَ عَلَى

ترجمہ..... کہا اگر کوئی مرتد ہو کر دار الحرب پہنچ گیا۔ اور حاکم نے بھی اس کے پہنچ جانے کا حکم دے دیا تو اس کے مدبر غلام اور ام ولد سب آزاد ہو گئے۔ اور اس پر جتنے (میعادی) قرضے (وقت معین تک کے) تھے وہ اسی وقت فی القوت قابل ادا ہو گئے۔ اور اس نے جو کچھ حالت اسلام میں کمایا تھا وہ سب اس کے مسلمان وارثوں کی طرف منتقل ہو گئے۔ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہا کے نزدیک حالت ردت کی کمائی بھی وارثوں کی ہو جائے گی۔ مف) اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کا مال اس کے ملک ہی میں رہے گا مگر بطور توقف۔ جیسے دار الحرب میں جانے سے پہلے یہی حکم تھا۔ کیونکہ دار الحرب میں پہنچ جانا گویا سفر میں غائب ہو جانے کے مشابہ ہے تو ایسا ہوا گویا دارالاسلام میں سفر کے لئے جاتے ہوئے غائب ہوا۔

ہماری دلیل..... یہ ہے کہ وہ حربیوں سے مل کر مرتد ہو گیا۔ اور اسلامی احکام کے معاملہ میں حربی لوگ مردہ کے حکم میں ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان پر کوئی بات لازم کرنے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بات ان پر لازم نہیں کی جاسکتی ہے۔ جیسے کہ یہ حق ایک مردہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ مگر فوراً ہی اس کے دار الحرب پہنچ جانے اور وہاں کے لوگوں میں گھل مل جانے کا حکم نہیں دیا جائے گا مگر اس وقت جبکہ قاضی اس کا فیصلہ سنا دے اور اعلان کر دے کیونکہ اس بات کا احتمال باقی رہتا ہے کہ وہ دوبارہ واپس آ جائے۔ اس لئے قاضی کا فیصلہ ضروری ہوا۔ اور جب اس کی موت یعنی دار الحرب میں منتقل ہونے کا فیصلہ اس نے سنا دیا تو اس کے مرنے پر جو احکام متعلق تھے وہ سب ثابت ہو گئے یعنی اس کے مدبر اور ام ولد کے آزاد ہونے وغیرہ کے جو احکام اوپر بیان کئے جا چکے ہیں۔ جیسے حقیقتاً مرنے میں ہوتا ہے۔ پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وارث ہونے کا اعتبار اس وقت ہوگا جبکہ وہ دار الحرب پہنچ چکا ہو۔ کیونکہ یہی پہنچنا میراث کا سبب ہے۔ اور قاضی کا فیصلہ ہی اسے پورے طور پر ثابت کرتا ہے۔ تاکہ وہاں پہنچنے اور نہ پہنچنے کا احتمال بالکل ختم ہو کر یقین ہو جائے۔ (حاصل یہ ہوا کہ دار الحرب میں پہنچ جانے کے وقت جو وارث پیدا ہوگا وہ بھی وارث ہوگا۔) اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قاضی کے فیصلہ کے وقت وارث ہونے کا اعتبار ہوگا۔ کیونکہ اس مرتد کا حربیوں کے درمیان پہنچ جانا ہی قاضی کے فیصلہ سے اس کی موت کے حکم میں ہوگا۔ (اس بناء پر اس کے حربیوں کے درمیان پہنچ جانے کے بعد قاضی کے فیصلہ سے پہلے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی وارث ہوگا۔) اور اگر مرتدہ عورت بھاگ کر دار الحرب میں پہنچ گئی تو اس کے بارے میں بھی ایسا ہی اختلاف ہے۔ یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قاضی کا حکم ہونے تک جو موجود ہوگا اس کا بھی وارث ہونا معتبر ہوگا۔

### مرتد مقروض کا قرض کس طرح ادا کیا جائے گا

وَتُقْضَى الدُّيُونُ الَّتِي لَزِمَتْهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ مِمَّا كَتَسَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ وَمَا لَزِمَتْهُ فِي حَالِ رَدَّتِهِ مِنَ الدُّيُونِ تُقْضَى مِمَّا كَتَسَبَهُ فِي حَالِ رَدَّتِهِ قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ عَصَمَهُ اللَّهُ هَذِهِ رَوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَنْهُ أَنْ يُبَدَأَ بِكَسْبِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ يُقْضَى مِنْ كَسْبِ الرَّدَّةِ وَعَنْهُ عَلَى عَكْسِهِ وَجْهٌ الْأَوَّلُ أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ بِالسَّبَبِ مُخْتَلِفٌ وَحُصُولُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْكَسْبَيْنِ بِاعْتِبَارِ السَّبَبِ الَّذِي وَجَبَ لَهُ الدَّيْنُ فَيُقْضَى كُلُّ دَيْنٍ مِّنَ الْكَسْبِ الْمَكْتَسَبِ الَّذِي فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لِيَكُونَ الْغَرْمُ بِالْغَنَمِ وَجْهٌ الثَّانِي أَنَّ كَسْبَ الْإِسْلَامِ مِلْكُهُ حَتَّى يُخْلِفَهُ



الْوَارِثُ فِيهِ وَمِنْ شَرْطِ هَذِهِ الْخِلَافَةِ الْفَرَاغُ عَنْ حَقِّ الْمُورِثِ فَيَقْدِمُ الدَّيْنُ عَلَيْهِ أَمَّا كَسْبُ الرِّدَّةِ فَلَيْسَ بِمَمْلُوكٍ لَهُ لِبَطْلَانِ أَهْلِيَّةِ الْمَلِكِ بِالرِّدَّةِ عِنْدَهُ فَلَا يَقْضَى دَيْنُهُ مِنْهُ إِلَّا إِذَا تَعَدَّرَ قَضَاؤُهُ مِنْ مَحَلِّ اخْرَاجِ حِينَئِذٍ يَقْضَى مِنْهُ كَالذِّمَرِ إِذَا مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ يَكُونُ مَالُهُ لِعِبَاغَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَقْضَى مِنْهُ كَذَلِكَ هَهُنَا وَجْهُ الثَّالِثِ أَنَّ كَسْبَ الْإِسْلَامِ حَقُّ الْوَرِثَةِ وَكَسْبُ الرِّدَّةِ خَالِصٌ حَقُّهُ فَكَانَ قَضَاءُ الدَّيْنِ مِنْهُ أَوْلَى إِلَّا إِذَا تَعَدَّرَ بَأْنُ لَمْ يَفِ بِهِ فَحِينَئِذٍ يَقْضَى مِنْ كَسْبِ الْإِسْلَامِ تَقْدِيمًا لِحَقِّهِ وَقَالَ أَبُو يُونُسَ وَمُحَمَّدٌ تَقْضَى دُيُونُهُ مِنَ الْكَسْبَيْنِ لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا مِلْكُهُ حَتَّى يَجْرِيَ الْإِرْثُ فِيهِمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ترجمہ..... اور مرتد پر جتنے قرضے حالت اسلام میں لازم ہوئے تھے وہ اس کے اسلام کی حالت کی کمائی سے ادا کئے جائیں گے اور جو قرضے اس کے مرتد ہونے کی حالت میں لازم ہوئے تھے وہ اس کے مرتد ہونے کے زمانہ کی کمائی سے ادا کئے جائیں گے۔ اس عبد ضعیف (مصنف) نے فرمایا ہے کہ یہ ایک روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے (زفر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ پہلے حالت اسلام کی کمائی سے ادا کرنا شروع کیا جائے۔ پھر اگر پورے قرضوں کی ادائیگی کے لئے یہ کمائی کافی نہ ہو تب اس کی حالت ارتداد کی کمائی سے ادا کئے جائیں۔ (یہ روایت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ہے) اور تیسری روایت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے برعکس ہے۔ یعنی پہلے ارتداد کے زمانہ کی کمائی سے شروع کیا جائے۔ پھر اگر پورے قرضے ادا نہ ہوں تو حالت اسلام کی کمائی سے ادا کئے جائیں۔ (یہ روایت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔) پہلی روایت کی وجہ یہ ہے کہ اس پر جو کچھ دین اور باقی ہے وہ دو مختلف سببوں سے مختلف ہے۔ یعنی اسلام کے زمانہ کی کمائی کے سبب سے اس کا اسلام قرضہ واجب ہے۔ اور ارتداد کے زمانہ کی کمائی سے ردت کا قرض باقی اور واجب الاداء ہے اس طرح دو مختلف سببوں سے اس پر دو طرح کے قرضے واجب الاداء ہیں اور حالت اسلام کی کمائی اور ردت کی کمائی دونوں میں سے ہر ایک اس کو بہ اعتبار ایسے سبب کے حاصل ہوئی جس کے لئے قرض واجب ہوا (مثلاً اسلام کی حالت میں اس نے کوئی چیز ادھار لے کر نفع سے بچی اور حالت ردت میں اس نے مثلاً شراب ادھار لے کر نفع کمایا۔ پس دونوں کمائیاں اپنے اپنے ادھار سے حاصل ہوں گی۔ جس کے سبب سے اس پر قرض لازم ہوا) اس لئے ہر ایک قرض اس کمائی سے ادا کیا جائے گا۔ جو قرض کے وقت اس کی حالت کی کمائی ہے تاکہ قرض ادا کرنا اس کے نفع کے اعتبار سے ہو۔ اور دوسری روایت کی وجہ یہ ہے کہ حالت اسلام کی کمائی اس کی ملک ہے یہاں تک کہ اس کمائی میں اس کا وارث اس کے قائم مقام ہوتا ہے یعنی میراث پاتا ہے۔ اور ایسی قائم مقامی کی شرط یہ ہے کہ مورث (جائیداد اور مال کے مالک) کے حق سے فارغ ہو لہذا قرض اس پر مقدم ہوگا۔ اور حالت ارتداد کی کمائی تو وہ مرتد کی مملوک نہیں ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے مرتد ہو جانے کی وجہ سے مالک ہونے کی قدرتی صلاحیت باطل ہوگئی۔ لہذا اس کی کمائی سے اس کا قرض ادا نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اس صورت میں ادا کیا جائے گا جبکہ حالت اسلام کی کمائی سے اس قرض کو ادا کرنا ممکن ہو جائے۔ تو اس وقت ردت کی کمائی سے ادا کیا جائے گا۔ جیسے اگر ذمی مر گیا اور اس کا کوئی بھی وارث نہ ہو تو اس کا تمام مال عام مسلمانوں کے لئے ہوگا۔ اور اگر اس پر قرض ہو تو اسی مال سے ادا کیا جائے گا۔ پس اس مقام میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور تیسری روایت کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حالت اسلام کی کمائی اس کے وارثوں کا حق ہے۔ اور ردت کی کمائی خالص اسی کا حق ہے اس لئے ردت کی کمائی سے قرض کی ادائیگی مقدم ہوگی۔ لیکن اگر اس سے قرض پورا ادا نہ ہو سکے بلکہ یہ کم ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی حالت اسلام کی



کمائی سے ادا کیا جائے گا۔ کیونکہ قرض کی ادائیگی میراث سے مقدم ہوتی ہے۔ اور امام ابو یوسف و محمد (اور مالک و شافعی و احمد) رحمہم اللہ علیہم نے کہا ہے کہ دونوں میں میراث جاتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

تشریح..... مرتد کے واجب الادا قرضہ جات کے بارے میں امام ابو حنیفہ کی تین روایات ہیں۔

اول..... امام زفرؒ نے ابو حنیفہؒ سے روایت کی ہے کہ مرتد کے حالات اسلام کے قرضہ جات حالت اسلام کی کمائی سے ادا کریں گے اور حالت ردت کے قرضہ جات حالت ردت کی کمائی سے ادا کئے جائیں گے وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دو سبب ہیں جن کی وجہ سے مرتد پر قرضہ واجب ہے۔

دوم..... دوسری روایت حسن بن زیاد کی ہے کہ حالت اسلام میں کمایا ہوا مال مرتد کی ملکیت ہے اس لئے زمانہ اسلام کی کمائی سے مرتد کے قرضہ جات ادا کریں گے اس لئے کہ انسان پر جو قرضہ ہوتا ہے اسی کے مال سے ادا کیا جاتا ہے نہ کہ وارث کو تر کہ سے حاصل ہونے والے مال سے۔

سوم..... امام ابو یوسفؒ نے یہ روایت کی ہے کہ واجب الادا قرض کی ادائیگی کا آغاز حالت ارتد کی کمائی سے کریں گے اور نا کافی ہونے کی صورت میں حالت اسلام میں کمائے ہوئے مال سے بقیہ قرض ادا کریں گے اس لئے کہ حالت اسلام کی کمائی ورثاء کا حق ہے اور حالت ردت کا کمایا ہوا مال خالص مرتد کا حق ہے لہذا اسی مال سے مرتد کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔

### مرتد کی حالت ردت میں خرید و فروخت اور لین دین کا حکم

قَالَ وَمَا بَاعَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ أَوْ اعْتَقَهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ مِنْ أَمْوَالِهِ فِي حَالِ رِدَّتِهِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ فَإِنْ أُسْلِمَ صَحَّتْ عُقُودُهُ وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتْ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفٍ وَ مُحَمَّدٌ يَجُوزُ مَا صَنَعَ فِي الْوَجْهَيْنِ إِنْ عُلِمَ أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ عَلَى أَقْسَامٍ نَافِذٌ بِالِاتِّفَاقِ كَالِاسْتِبْلَادِ وَالطَّلَاقِ لِأَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى حَقِيقَةِ الْمَلِكِ وَتَمَامِ الْوِلَايَةِ وَبَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ كَالنِّكَاحِ وَالذَّبِيحَةِ لِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ الْمِلَّةَ وَالْمِلَّةَ لَهُ وَمَوْقُوفٌ بِالِاتِّفَاقِ كَالْمُفَاوَضَةِ لِأَنَّهَا تَعْتَمِدُ الْمَسَاوَاةَ وَلَا مَسَاوَاةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْمُرْتَدِّ مَا لَمْ يُسْلِمْ وَمُخْتَلَفٌ فِي تَوْقِفِهِ وَهُوَ مَا عَدَدْنَاهُ لَهُمَا أَنَّ الصَّحَّةَ تَعْتَمِدُ الْأَهْلِيَّةَ وَالْإِنْفَادُ يَعْتَمِدُ الْمِلْكَ وَلَا خِفَاءَ فِي وَجُودِ الْأَهْلِيَّةِ لِكَوْنِهِ مُخَاطَبًا وَكَذَا الْمِلْكَ لِقِيَامِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ عَلَى مَا قَرَّرْنَا مِنْ قَبْلُ وَلِهَذَا الْوَلَدُ لَهُ وَلَدُ بَعْدِ الرِّدَّةِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ يَرِثُهُ وَلَوْ مَاتَ وَلَدُهُ بَعْدَ الرِّدَّةِ قَبْلَ الْمَوْتِ لَا يَرِثُهُ فَيَصِحُّ تَصَرُّفَاتُهُ قَبْلَ الْمَوْتِ إِلَّا أَنْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفٍ تَصِحُّ كَمَا تَصِحُّ مِنَ الصَّحِيحِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَوْدُهُ إِلَى الْإِسْلَامِ إِذَا الشُّبْهَةُ تَزَاحُ فَلَا يَقْتُلُ وَصَارَ كَالْمُرْتَدِّ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تَصِحُّ كَمَا تَصِحُّ مِنَ الْمَرِيضِ لِأَنَّ مَنْ انْتَحَلَ إِلَى نَحْلَةٍ لَا سِيَّمَا مُعْرِضًا عَمَّا نَشَأَ عَلَيْهِ قَلَّمَا يَتْرُكُهُ فَيُفْضَى إِلَى الْقَتْلِ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ لِأَنَّهَا لَا تُقْتَلُ وَلَا يُبَى حَنِيفَةَ أَنَّهُ حَرْبِيٌّ مَقْهُورٌ تَحْتَ أَيْدِينَا عَلَى مَا قَرَّرْنَا فِي تَوْقِفِ التَّصَرُّفَاتِ بِنَاءً عَلَيْهِ وَصَارَ كَالْحَرْبِيِّ يَدْخُلُ دَارَنَا بِغَيْرِ أَمَانٍ فَيُؤْخَذُ وَيُقَهَّرُ وَيَتَوَقَّفُ تَصَرُّفَاتُهُ لِتَوْقِفِ حَالِهِ وَكَذَا الْمُرْتَدُّ وَاسْتِحْقَاقُهُ الْقَتْلَ لِبُطْلَانِ سَبَبِ الْعِصْمَةِ فِي الْفُصْلَيْنِ فَأَوْجَبَ خِلَافِي الْأَهْلِيَّةِ بِخِلَافِ الزَّائِي وَقَاتِلِ الْعَمْدِ لِأَنَّ الْإِسْتِحْقَاقَ فِي ذَلِكَ جَزَاءٌ عَلَى الْجَنَائِيَةِ وَبِخِلَافِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّهَا



لَيْسَتْ حَرْبِيَّةً وَلِهَذَا لَا تُقْتَلُ

ترجمہ..... اور قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مرتد نے اپنی ردت کی حالت میں جو مال فروخت کیا یا خریدایا آزاد کیا یا ہبہ کیا یا رہن کیا یا اپنے مال میں کچھ اور تصرف کیا تو اس کا یہ تمام تصرف موقوف رہے گا۔ یعنی اگر وہ دوبارہ اسلام قبول کر لے تو اس کا ہر تصرف صحیح مان لیا جائے گا۔ اور اگر وہ اسی حالت میں مر جائے یا قتل کر دیا جائے یا دار الحرب میں داخل ہو جائے تو اس کا یہ پچھلا تمام تصرف باطل ہو جائے گا۔ یہ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور امام ابو یوسف و محمد رحمہما اللہ نے کہا ہے کہ دونوں صورتوں میں اس نے جو کچھ تصرف کیا وہ سب جائز ہوگا۔

إِعْلَمُ أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ الْخ - واضح ہو کہ مرتد کے تصرفات کئی قسم کے ہوتے ہیں۔

اول..... وہ جو بالاتفاق نافذ ہوتا ہے۔ جیسے ام ولد بنانا اور طلاق دینا (یعنی عدت کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی یا دونوں ایک ساتھ مرتد ہو گئے پھر طلاق دی تو صحیح مانتے ہوئے نافذ ہوگا) کیونکہ ایسے تصرف میں حقیقی ملک اور پوری ولایت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی بناء پر اپنے لڑکے کی باندی سے استیلا (ام ولد بنانا) صحیح ہے۔ اور غلام کی طلاق بھی صحیح ہوتی ہے۔ اور حق شفعہ دے دینا اور ہبہ قبول کرنا بھی اسی قسم سے ہے۔

دوم..... وہ تصرف جو بالاتفاق باطل ہے جیسے نکاح اور ذبیحہ (اور وارث ہونا) کیونکہ اپنے تصرف کے لئے ملت (اسلام) پر اعتماد ضروری ہے۔ جبکہ مرتد کے واسطے کوئی ملت نہیں ہے۔

سوم..... وہ تصرف جو بالاتفاق موقوف ہے جیسے (کاروبار کرتے ہوئے) شرکت مفاوضہ کیونکہ اس میں جانبین کے درمیان مساوات کی شرط ہوتی ہے جبکہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان جب تک کہ مرتد مسلمان نہ ہو جائے دونوں میں مساوات نہیں مانی جاتی ہے۔

چہارم..... وہ تصرف جس کے موقوف ہونے میں اختلاف ہے۔ اور یہ وہی تصرفات ہیں جن کو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں (یعنی خرید و فروخت، عتق و رہن، اسی طرح مکاتب بنانا اور قرض وصول کرنا، اجارہ اور ولایت)۔ اس میں صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کی دلیل یہ ہے کہ ایسا تصرف اس صورت میں صحیح ہوتا ہے جبکہ تصرف کرنے والے میں اس کی اہلیت پائی جائے اور اس کا مالک ہونے سے وہ نافذ ہو جاتا ہے اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس شخص میں دے تصرف کی اہلیت موجود ہے کیونکہ وہ احکام الہی کا مخاطب ہے۔ اسی طرح اس میں ملکیت بھی موجود ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ مرتد کے مرجانے تک باقی ہے۔ اسی وجہ سے اگر اس کے مرتد ہو جانے کے بعد اس کی مسلمان بیوی سے چھ مہینے کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا تو وہ بھی اس کا وارث ہوگا۔ (اس لئے اگر اس کی ملکیت ختم ہوگئی تو وہ وارث نہ ہوتا) اور اگر اس کے مرتد ہونے کے بعد اور مرنے سے پہلے یہ بچہ مر گیا تو وارث نہ ہوگا۔ (اور اگر ملکیت ختم ہوگئی ہوتی تو وارث ہوتا)۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کے تصرفات صحیح ہیں۔ لیکن صاحبین کے درمیان آپس میں صرف یہ اختلاف ہے کہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ تصرفات اسی طرح صحیح ہوں گے جیسے تندرست آدمی کے تصرفات صحیح ہوتے ہیں۔ یعنی اس کے کل مال سے صحیح ہوں گے۔ کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ وہ اسلام کی طرف لوٹ آئے گا۔ اس لئے کہ

جوشبہ اس کو پیدا ہو گیا ہے وہ مٹا دیا جائے گا تو وہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ لہذا یہ مرتد عورت کے جیسا ہو گیا جو قتل نہیں کی جاتی ہے۔

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَصَحُّحُ..... الخ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ تصرفات ویسے ہی صحیح ہوں گے جیسا کہ کسی مریض کے صحیح ہوتے ہیں۔ یعنی اس کے تہائی مال سے صحیح ہوں گے۔ کیونکہ جس شخص نے کوئی ایسا دعویٰ (نیاندہب اپنایا) بالخصوص ایسی صورت میں کہ وہ اپنی ساری عمر بلکہ پیدائش کے وقت سے ایک خاص مسلک پر رہتے ہوئے جس پر وہ پیدا ہوا اور بڑھا اس سے پھر گیا جبکہ شاذ و نادر ہی کوئی شخص اپنی مرضی سے دیدہ دانستہ چھوڑ کر دوسرا مسلک اختیار کرتا ہے۔ تو بظاہر اس کا انجام یہی ہونا چاہئے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ بخلاف مرتدہ عورت کے کہ وہ قتل نہیں کی جاتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ مرتد ایک حربی ہے جو ہمارے قبضہ میں لاچار اور مجبور محض ہے۔ چنانچہ اس کے ملک موقوف رہنے کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ (اور جب اس کی ملکیت موقوف رہے تو اس کے تصرفات بھی موقوف رہیں گے۔) اس کے تصرفات اسی بناء پر موقوف کر دیئے جاتے ہیں کہ اس کی ملکیت موقوف ہوتی ہے۔ اور یہ مرتد اس حربی کی طرح ہو گیا جو امام سے اجازت لئے بغیر ہمارے ملک میں کسی طرح داخل ہو گیا۔ اور گرفتار کر کے اسے مجبور کر دیا گیا۔ تو اس وقت کے اس کے تصرفات موقوف کر دیئے جاتے ہیں (ان کے بارے میں فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے) اس امید پر کہ شاید امام المسلمین اس کے ساتھ احسان کرے اور اسے چھوڑ دے۔ یہی حال اس مرتد کا بھی ہے یعنی اس بات کا احتمال رہتا ہے کہ وہ دوبارہ اسلام قبول کرے پھر رہا کر دیا جائے۔ اور چونکہ وہ قتل کا بھی مستحق ہو چکا ہے کیونکہ اس کی عصمت ختم ہو چکی ہے اور اس کا احترام باطل ہو گیا ہے۔ تو اب اس کی اہلیت میں خرابی اور نقص پیدا ہو گیا ہے۔ خواہ مرتد ہو یا حربی ہو۔ بخلاف زانی اور عدا قتل کرنے والے کے کیونکہ زانی عدا قتل کا اصل حکم یہی ہے کہ اسے اس کے جرم پر واجبی سزا دی جائے۔ اور برخلاف مرتد عورت کے کیونکہ وہ حربیہ نہیں ہے۔ اسی لئے وہ قتل نہیں کی جاتی ہے۔

امام کا مرتد کے دار الحرب کا فیصلہ کر دینے کے بعد وہ مسلمان ہو کر دارالاسلام

لوٹ آیا تو جو مال وارثوں کے پاس پائے وارثوں سے واپس لے لے

فَإِنْ عَادَ الْمُرْتَدُّ بَعْدَ الْحُكْمِ بِدَارِ الْحَرْبِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مُسْلِمًا فَمَا وَجَدَهُ فِي يَدِ وَرَثَتِهِ مِنْ مَالٍ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ لِأَنَّ الْوَارِثَ إِنَّمَا يُخْلِفُهُ لِإِسْتِغْنَائِهِ وَإِذَا عَادَ مُسْلِمًا احْتِجَ إِلَيْهِ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَزَالَ الْوَارِثُ عَنْ مَلِكِهِ وَبِخِلَافِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَمُدَبِّرِيهِ لِأَنَّ الْقَضَاءُ قَدْ صَحَّ بِدَلِيلٍ مُصَحِّحٍ فَلَا يُنْقَضُ وَلَوْ جَاءَ مُسْلِمًا قَبْلَ أَنْ يَقْضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُسْلِمًا لِمَا ذَكَرْنَا

ترجمہ..... اگر امام المسلمین کی طرف سے مرتد کے بارے میں دار الحرب میں پہنچ جانے کے حکم کے بعد وہ دوبارہ مسلمان ہو کر دارالاسلام میں لوٹ آیا تو اپنے مال میں سے جس مال کو اپنے وارثوں کے پاس بعینہ پائے اس سے اس مال کو واپس مانگ لے۔ کیونکہ اس کا وارث اس کا قائم مقام اسی بناء پر ہوا تھا کہ یہ مرتد اپنے اس مال سے بے پروا ہو گیا تھا (اسے عملاً اس کی فی الحال ضرورت نہیں رہتی تھی)۔ اور جب وہ مسلمان ہو کر لوٹ آیا تو وہ خود اپنے تمام مال کا محتاج اور ضرورت مند ہو گیا ہے۔ لہذا اسی کا حق ہوگا۔ بخلاف اس کے اگر اس کے وارث نے اس مال کو اپنی ملکیت سے نکال دیا ہو تو وہ وارث اس کا ضامن بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اب اس کی ام ولد اور اس کے مدبر جو اس عرصہ



میں آزاد ہو چکے تھے دوبارہ غلام نہیں بنائے جائیں گے۔ کیونکہ ان لوگوں کا آزاد ہو جانا ایسی دلیل سے ثابت ہوا ہے جو صحیح ثابت ہو چکی ہے (قاضی کے فیصلہ دے دینے کے بعد) اس لئے وہ حکم واپس نہیں لیا جاسکتا ہے۔ البتہ اگر اس وقت تک قاضی نے اس کے بارے میں دارالحرب میں پہنچ جانے سے متعلق فیصلہ نہ سنایا ہو پھر وہ واپس آ گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ گویا وہ مرتد نہیں ہوا تھا بلکہ مسلمان ہی تھا (تو اس کی کل ملکیت حسب سابق قائم رہے گی) کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کو دارالحرب میں پہنچ جانے کے بعد اسی وقت مردہ قرار دیا جائے گا جبکہ قاضی اس کا حکم سنا دے۔

مرتد نے نصرانیہ باندی سے وطی کی جو حالت اسلام میں اس کے پاس تھی

چھ ماہ سے زائد پر بچہ لے آئی تو اسکی ام ولد ہوگی

وَإِذَا وَطِئَ الْمُرْتَدُّ جَارِيَةً نَّصْرَانِيَّةً كَانَتْ لَهُ فِي حَالَةِ الْإِسْلَامِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لَّكَثْرٍ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذَارَتَدَّ فَادَّعَاهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَالْوَلَدُ حُرٌّ وَهُوَ ابْنُهُ وَلَا يَرِثُهُ وَإِنْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ مُسْلِمَةً وَرِثَهُ الْإِبْنُ إِنْ مَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَمْ أَصَحَّتْهُ الْإِسْتِيلَادُ فَلَمَّا قُلْنَا وَأَمَّا الْأَرَثُ فَلِأَنَّ الْأُمَّ إِذَا كَانَتْ نَّصْرَانِيَّةً وَالْوَلَدُ تَبَعَ لَهُ لِقُرْبِهِ إِلَى الْإِسْلَامِ لِلْجَبْرِ عَلَيْهِ فَصَارَ فِي حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدُّ لَا يَرِثُ الْمُرْتَدَّ أَمَّا إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً فَالْوَلَدُ مُسْلِمٌ تَبَعًا لَهَا لِأَنَّهَا خَيْرُهُمَا دِينًا وَالْمُسْلِمُ يَرِثُ الْمُرْتَدَّ

ترجمہ..... وَإِذَا وَطِئَ الْمُرْتَدُّ..... الخ اور اگر مرتد نے ایسی نصرانیہ باندی سے وطی کی جو اس کے مسلمان رہنے کی حالت میں اس کی ملکیت میں تھی۔ پھر اس کے مرتد ہونے کے وقت سے چھ ماہ سے زیادہ پر اسے بچہ پیدا ہوا۔ اور مرتد نے اس کے بچہ سے اپنے نسب کا دعویٰ کیا تو یہ باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی۔ اور وہ بچہ آزاد ہو جائے گا۔ اور وہ اس مرتد کا لڑکا بھی ہوگا پھر بھی اس کا وارث نہیں ہوگا اور اگر یہ باندی مسلمان ہو (نصرانیہ نہ ہو) تو یہ لڑکا اس مرتد کا وارث ہوگا۔ اس وقت جبکہ یہ مرتد اپنے مرتد ہونے کی بناء پر قتل کیا جائے یا دارالحرب میں پہنچ جائے اس کے ام ولد ہو جانے کی دلیل تو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں (کہ ام ولد کے دعویٰ کا صحیح ہونا حقیقی ملکیت پر ہی موقوف نہیں ہوتا ہے اسی بناء پر ایسا غلام جسے تجارت کی اجازت مالک سے حاصل ہو چکی ہو (عبد مازون) اور اس نے اپنی کسی باندی سے وطی کر کے اس سے نسب ہونے کا دعویٰ کیا ہو تو وہ نسب ثابت ہو جائے گا۔ مف)۔ اور میراث کے سلسلہ میں یہ بیان ہے کہ اس بچہ کی ماں جبکہ وہ نصرانیہ ہو اور بچہ اس مرتد کے تابع ہوگا کیونکہ وہ اسلام سے قریب تھا اس لئے اسے مجبور کر کے مسلمان رکھا جائے گا۔ پس بچہ جب مرتد کے تابع ہو تو وہ مرتد کے حکم میں ہوگا۔ اور ایک مرتد دوسرے مرتد کا وارث نہیں ہوتا ہے۔ اور جب اس بچہ کی ماں مسلمان باندی ہو تو بچہ ماں کے تابع ہو کر مسلمان ہوگا۔ کیونکہ اس کی ماں ہی دین کے اعتبار سے بہتر ہے تو یہ بچہ اپنے مرتد باپ کا وارث ہوگا۔

مرتد اپنا مال لیکر دارالحرب چلا گیا پھر مسلمانوں نے اس پر فتح پا کر مال لے لیا تو وہ مال غنیمت ہے

وَإِذَا لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِمَالِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ فَهُوَ فِي لَحِقَ ثُمَّ رَجَعَ وَأَخَذَ مَالًا وَالْحَقُّ بِدَارِ الْحَرْبِ فَظَهَرَ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ فَوَجَدَتْهُ الْوَرِثَةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ رُدَّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَالٌ لَمْ يَجْرُ فِيهِ الْإِرْثُ وَالتَّانِي انْتَقَلَ إِلَى الْوَرِثَةِ



## بقضاء القاضی بلحاقہ و کان الوارث مالکاً قديماً

ترجمہ..... اور اگر مرتد اپنا مال لے کر دار الحرب پہنچ گیا۔ پھر مجاہدین نے اس علاقہ پر غلبہ پا کر اس مال پر قبضہ کر لیا تو بالا جماع وہ مال غنیمت ہوگا۔ اور اگر مرتد سامان کے بغیر تنہا دار الحرب پہنچ گیا پھر واپس آ کر اپنا مال لے کر دار الحرب دوبارہ پہنچ گیا۔ پھر مجاہدین نے غالب ہو کر یہ مال اس سے لے لیا۔ اور مرتد کے وارثوں نے اس مال کو اس کی غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے پا لیا تو وہ ان وارثوں کو ہی دے دیا جائے گا۔ ان دونوں صورتوں کی دلیل یہ ہے کہ پہلی صورت جس میں مرتد اپنے ساتھ مال بھی لے گیا تھا اس میں میراث جاری نہیں ہوئی تھی۔ اور دوسری صورت (جس میں مرتد واپس آ کر اپنا مال لے گیا) وہ وارثوں کی طرف منتقل ہو چکا تھا۔ (کیونکہ قاضی نے اس مرتد کے دار الحرب میں پہنچ جانے کا حکم پہلے دے دیا تھا اس لئے وارث اس مال کا پرانا حقدار ہوا۔) اور مال غنیمت میں جب کسی مال کا پرانا مالک کوئی مسلمان ظاہر ہو تو اسی کو دے دیا جاتا ہے۔)

مرتد دار الحرب چلا گیا اور دار الاسلام میں اس کا غلام ہے جس کے بارے میں قاضی نے اسے مل جانے کا فیصلہ کیا پھر بیٹے نے اس غلام کو مکاتب بنادیا اس کے بعد وہی مرتد مسلمان ہو کر واپس آ گیا غلام کے مکاتب بنانے کا حکم

وَإِذَا لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَهُ عَبْدٌ فَقَضَى بِهِ لِإِيْنِهِ وَكَاتَبَهُ الْإِيْنُ ثُمَّ جَاءَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا فَأَمَّا لِمُكْتَابَةِ لِنَفْوِ ذِهَآ بِدَلِيلٍ مُنْقِذٍ فَجَعَلْنَا الْوَارِثَ الَّذِي هُوَ يَكُونُ خَلْفَهُ كَالْوَكِيلِ مِنْ جِهَتِهِ وَحُقُوقُ الْعَقْدِ فِيهِ يَرْجِعُ إِلَى الْمُؤْكَلِ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ يَقَعُ الْعِتْقُ عَنْهُ

ترجمہ..... وَإِذَا لَحِقَ الْمُرْتَدُّ..... الخ اور اگر مرتد دار الحرب پہنچ گیا اور دار الاسلام میں اس کا ایک غلام تھا جس کے بارے میں قاضی نے اس کے بیٹے کو مل جانے کا فیصلہ کر دیا۔ پھر بیٹے نے اس غلام کو مکاتب بنادیا۔ اس کے بعد وہی مرتد دوبارہ مسلمان ہو کر واپس آ گیا تو اس کے غلام کو پہلے مکاتب بنایا جانا صحیح رہے گا اور مال کتابت اور غلام کی ولاء اسی مرتد کی ہوگی جو مسلمان ہو کر واپس آ گیا ہے۔ کیونکہ اس کتابت کو باطل کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیونکہ جس دلیل سے وہ نافذ ہو سکتی تھی اسی سے نافذ ہو چکی ہے (یعنی قاضی نے اس کے وارث کے لئے فیصلہ سنا دیا ہے) لہذا ہم نے اس وارث مذکور (بیٹے) کو جو اس مرتد کا قائم مقام تھا مرتد کی طرف سے بمنزلہ وکیل کے مان لیا اور عقد کتابت میں حقوق کا تعلق مؤکل سے ہوا کرتا ہے یعنی یہاں مال کتابت و ار کے باپ کا ہوگا۔ اور اس کی ولاء بھی اسی کی ہوگی جس کی طرف سے اسے آزادی حاصل ہوتی ہے۔

مرتد نے ایک آدمی کو خطاً قتل کر دیا پھر دار الحرب چلا گیا یا اپنی ردت کی بناء پر قتل کیا گیا دیت کیسے ادا کرے گا

وَإِذَا قَتَلَ الْمُرْتَدُّ رَجُلًا خَطَاً ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ فَالِدِّيَّةُ فِي مَالٍ اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ خَاصَّةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ الدِّيَّةُ فِيمَا اكْتَسَبَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَالرِّدَّةِ جَمِيعًا لِأَنَّ الْعَوَاقِلَ لَا تَعْقِلُ الْمُرْتَدُّ لَا بُدَّ مِنْ



النَّصْرَةَ فَيَكُونُ فِي مَالِهِ وَعِنْدَهُمَا الْكَسْبَانِ جَمِيعًا مَالُهُ لِنُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهِ فِي الْحَالَتَيْنِ وَلِهَذَا يَجْرِي الْإِرْثُ فِيهِمَا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ مَالُهُ الْمُكَتَسَبُ فِي الْإِسْلَامِ لِنَفَاذِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ دُونَ الْمَكْسُوبِ فِي الرَّدَّةِ لِتَوَقُّفِ تَصَرُّفِهِ وَلِهَذَا كَانَ الْأَوَّلُ مِيرَاثًا عَنْهُ وَالثَّانِي فَيْئًا عَنْهُ

ترجمہ..... اور اگر مرتد نے خطا کسی کو قتل کر دیا پھر دارالحرب پہنچ گیا یا اپنی ردت کی بناء پر قتل کیا گیا تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتول کی دیت اس مرتد کے خاص اس مال سے ادا کی جائے گی جو اس نے حالت اسلام میں کمایا ہوگا۔ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک اس کی ادائیگی مرتد کی تمام کمائی سے ہوگی۔ (یعنی خواہ حالت اسلام کی ہو یا حالت ردت کی ہو)۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مرتد کے عاقلہ یعنی مددگار برادری اس مال کے خرچہ کو برداشت نہیں کرے گی۔ کیونکہ مددگاری ختم ہو چکی ہے۔ اس لئے وہ پوری دیت اسی مرتد کے مال میں ہوگی۔ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک اس کی دونوں حالتوں (حالت اسلام اور حالت ارتداد) کی کمائیاں اسی کے مال ہیں کیونکہ حالت اسلام اور حالت ردت دونوں میں اس کے تصرفات موثر ہیں۔ اسی لئے صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک دونوں کمائیوں میں میراث جاری ہوتی ہے۔ اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا مال صرف وہی ہے جو اس نے حالت اسلام میں کمایا ہے کیونکہ اسی میں اس کا تصرف موثر ہوتا ہے۔ اور اپنی ردت کے زمانہ میں اس نے جو کچھ بھی کمایا وہ اس کا مال ہی نہیں ہے۔ کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی اس کمائی میں اس کا تصرف ابھی موقوف ہے۔ اسی لئے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے اسلام کی کمائی میراث ہوتی ہے۔ جبکہ اس کی حالت اور ارتداد کی کمائی مال غنیمت ہو جاتی ہے۔ (یعنی اگر وہ از خود مر گیا یا کسی طرح مارا گیا اور مسلمان نہ رہا تو اس کی ردت کی حالت کی کمائی مال غنیمت ہو جاتی ہے۔

کسی مسلمان کا عمدہ ہاتھ کاٹا گیا اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا پھر اپنی حالت

ردت میں مر گیا یا دارالحرب سے مل گیا پھر مسلمان ہو کر آیا پھر مر گیا تو

قاطع پر کتنی دیت لازم ہے

وَإِذَا قُطِعَتْ يَدُ الْمُسْلِمِ عَمْدًا فَارْتَدَّ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ ثُمَّ مَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ جَاءَ مُسْلِمًا فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى الْقَاطِعِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ لِلْوَرَثَةِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلَأَنَّ السَّرَايَةَ حَلَّتْ مَحَلًّا غَيْرَ مَعْصُومٍ فَاهْدَرَتْ بِخِلَافٍ مَا إِذَا قُطِعَ يَدُ الْمُرْتَدِّ ثُمَّ أَسْلَمَ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِهْدَارَ لَا يُلْحَقُهُ الْإِعْتِبَارُ الْمُعْتَبَرُ فَقَدْ يَهْدَرُ بِالْإِبْرَاءِ فَكَذًا بِالرَّدَّةِ وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ مَا إِذَا لَحِقَ وَمَعْنَاهُ إِذَا قُضِيَ بِلِحَاقِهِ لِأَنَّهُ صَارَ مَيِّتًا تَقْدِيرًا وَالْمَوْتُ يَقْطَعُ السَّرَايَةَ وَإِسْلَامُهُ حَيَوَةٌ حَادِثَةٌ فِي التَّقْدِيرِ فَلَا يَعُودُ حُكْمُ الْجَنَابَةِ الْأُولَى فَإِذَا لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِلِحَاقِهِ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ترجمہ..... اور اگر کسی مسلمان کا ہاتھ عمدہ کاٹا گیا اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ پھر وہ اسی زخم کے اثر سے اپنی ردت



کی حالت میں مر گیا یا دارالحرب میں چلا گیا تھا مگر مسلمان ہو کر واپس آیا۔ اور اسی زخم سے مر گیا تو ہاتھ کاٹنے والے پر واجب ہوگا کہ اپنے مال سے اس کی آدھی دیت اس مرنے والے کے وارثوں کو دے۔ اسی طرح پہلی صورت میں جبکہ وہ حالت ردت میں مرا تھا یہ حکم اس بناء پر ہوگا کہ ہاتھ کاٹنا جو اس کی ذات میں اثر کر گیا جس سے وہ مر گیا وہ ایسے محل میں سرایت کر گیا ہے جو قابل احترام نہیں ہے۔ اس لئے اس کا خون ضائع ہو گیا۔ یعنی اس کا خون بہا (خون کا عوض) لازم نہ آیا۔ بخلاف اس کے اگر مرتد کا ہاتھ کاٹا گیا پھر وہ مسلمان ہو گیا پھر وہ اسی زخم سے مر گیا تو کچھ بھی واجب نہ ہوگا۔ کیونکہ ہاتھ کاٹے جانے کے وقت مرتد رہنے کی وجہ سے اس کا خون یوں ہی ہدر (بے قیمت) تھا۔ اس کے بعد مسلمان ہو جانے سے اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ اور جو قصاص پہلے سے معتبر ہو کبھی بے اثر اور ہدر ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے کہ اسے معاف کر دیا ہو۔ تو اسی طرح مرتد ہو جانے کی وجہ سے بھی وہ ہدر سمجائے گا۔ اور اب دوسری صورت یعنی جبکہ دارالحرب پہنچ چکا ہو۔ یعنی قاضی کی طرف سے بھی اس کے دارالحرب پہنچنے کا اعلان کر دیا گیا ہو وہ پھر مسلمان ہو کر دارالاسلام میں اسی زخم سے مر گیا۔ تو اس کے خون بہا کے باطل ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اگرچہ زندہ تھا مگر حکماً اسے مردہ قرار دیا جا چکا تھا۔ اور مردہ میں زخم اثر نہیں کرتا ہے اور اس بیان کے مطابق اس کا مسلمان ہونا اس کے لئے ایک نئی زندگی ہوگی اس لئے پہلے جرم کا حکم اب نہیں لوٹایا جائے گا۔ یہ ساری تفصیل اس صورت میں ہوگی جبکہ وہ دارالحرب میں پہنچ چکا ہو۔ اور اگر قاضی نے اس وقت تک اس کے بارے میں وہاں پہنچنے کا فیصلہ نہ کیا ہو تو اس صورت میں اختلاف ہے۔ جسے ہم انشاء اللہ آئندہ بیان کرتے ہیں۔

اگر دارالحرب نہیں گیا پھر مسلمان ہونے کے بعد مر گیا تو قاطع پر پوری دیت واجب ہوگی

قَالَ فَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ وَأُسْلِمَ ثُمَّ مَاتَ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرِيُّ جَمِيعَ ذَلِكَ نِصْفُ الدِّيَةِ لِأَنَّ اعْتِرَاضَ الرَّدَّةِ أَهْدَرَ السَّرَايَةَ فَلَا يَنْقَلِبُ إِلَّا بِإِسْلَامٍ إِلَى الضَّمَانِ كَمَا إِذَا قُطِعَ يَدُ مَرْتِدٍ فَأُسْلِمَ وَلَهُمَا أَنَّ الْجَنَايَةَ وَرَدَتْ عَلَى مَحَلٍّ مَعْصُومٍ وَتَمَّتْ فِيهِ فَيَجِبُ ضَمَانُ النَّفْسِ كَمَا إِذَا لَمْ يَتَحَلَّلِ الرَّدَّةُ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرٌ بِقِيَامِ الْعَصْمَةِ فِي حَالِ بَقَاءِ الْجَنَايَةِ وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ قِيَامُهَا فِي حَالِ انْعِقَادِ السَّبَبِ وَفِي حَالِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ وَحَالَةِ الْبَقَاءِ بِمَعْزِلٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَصَارَ كَقِيَامِ الْمَلِكِ فِي حَالِ بَقَاءِ الْيَمِينِ

ترجمہ..... اور اگر اس مرتد کے دارالحرب میں پہنچنے کے بارے میں قاضی نے ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا تھا کہ وہ دوبارہ مسلمان ہو گیا پھر ہاتھ کے زخم سے ہی مر گیا۔ تو ہاتھ کاٹنے والے پر اس کی پوری دیت لازم ہوگی۔ یہ حکم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ و زفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مذکورہ تمام صورتوں میں ہاتھ کاٹنے والے پر نصف دیت ہی لازم ہوگی۔ کیونکہ درمیان میں مرتد ہو جانے کی وجہ سے زخم کھانے کا اثر باطل ہو گیا۔ یعنی یہ کہنا کہ زخمی ہونے کی وجہ سے اس کی جان گئی ہے یہ بات غلط ہوگئی اور اس کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ لہذا اب دوبارہ مسلمان ہو جانے سے اس کی ضمانت نہیں لوٹے گی۔ جیسے کسی مرتد کا ہاتھ کاٹا پھر وہ مسلمان ہو کر اسی زخم سے مرا تو ضمانت نہیں لوٹی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ و ابو یوسف رحمہما اللہ کی دلیل یہ ہے کہ مجرم کا جرم ایک ایسی جگہ سے متعلق ہوا ہے جو معصوم اور بے قصور ہے۔ یعنی جس وقت ہاتھ کاٹا گیا تو یہ ہاتھ ایک مسلمان کا ہاتھ تھا۔ اور وہ جب اسی زخم سے مرا تب بھی وہ مسلمان ہی کا ہاتھ تھا اس لئے اس جرم کا پورا ہونا بھی ایک قابل احترام محل پر ہوا ہے اس لئے اس کے نفس کی



دیت واجب ہوگی۔ جیسے بالفرض اگر درمیان میں وہ مرتد نہ ہوا ہوتا تو اس کا خون بہا واجب ہوتا۔ (کیونکہ جب مرتد حکم ارتداد کے بغیر ہی دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے تو ایسا فرض کر لیا جاتا ہے کہ گویا وہ مرتد نہیں ہوا ہے) اس کی وجہ یہ ہے کہ جرم کی حالت بقاء میں عصمت قائم ہونے کا اعتبار نہیں ہوتا ہے بلکہ عصمت تو اسی وقت معتبر ہے جب ضمان کا سبب پیدا ہوا ہو اور جب حکم ثابت ہوا ہے۔ اور جرم کے باقی رہنے کی حالت ان سب سے دور ہے۔ اس کی مثال ایسی ہوگئی جیسے قسم کے باقی رہنے کے زمانہ میں ملکیت قائم رہنے کا حال ہے۔ مثلاً کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم اس گھر میں داخل ہوئیں تو تم کو طلاق ہے۔ پھر فوراً ایک طلاق بائن دے دی۔ اس کے کئی دنوں بعد اس سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد وہ عورت اس گھر میں داخل ہوگئی تو اسے طلاق ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ طلاق پڑنے کے وقت ملکیت نکاح کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح شرط پائی جانے کے وقت بھی ملکیت نکاح ہونی چاہئے۔ ان دونوں کی درمیانی مدت میں جو قسم کے باقی رہنے کا زمانہ ہے اس میں ملکیت نکاح کے باقی رہنے کا اعتبار نہیں ہے یعنی ملکیت کا باقی رہنا اور نہ رہنا دونوں برابر ہے۔) اسی طرح ہمارے مذکورہ مسئلہ میں ہاتھ کاٹنے کے وقت وہ مسلمان تھا۔ پھر درمیان میں مرتد ہو گیا۔ پھر زخم سرایت کرتے ہوئے جب وہ مرا ہے اس وقت بھی وہ مسلمان ہی تھا۔

مکاتب مرتد ہو کر دارالحرب چلا گیا وہاں مال کمایا پھر اسے مال سمیت

گرفتار کیا گیا انکار اسلام پر قتل کر دیا گیا، مال کا حکم

وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُكَاتِبُ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَاکْتَسَبَ مَالًا فَأُخِذَ بِمَالِهِ وَأُبِي أَنْ يُسَلَّمَ فَقُتِلَ فَإِنَّهُ يُؤْفَى مَوْلَاهُ مُكَاتِبَتُهُ وَمَا بَقِيَ فَلِوَرَثَتِهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى أَصْلِهِمَا لِأَنَّ كَسْبَ الرِّدَّةِ مِلْكُهُ إِذَا كَانَ حُرًّا فَكَذَا إِذَا كَانَ مُكَاتِبًا وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِأَنَّ الْمُكَاتِبَ إِنَّمَا يَمْلِكُ أَكْسَابَهُ بِالْكِتَابَةِ وَالْكِتَابَةُ لَا يُتَوَقَّفُ بِالرِّدَّةِ فَكَذَا أَكْسَابُهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُتَوَقَّفُ تَصَرُّفُهُ بِالْأَقْوَى وَهُوَ الرِّقُّ فَكَذَا بِالْأَذْنَى بِطَرِيقِ الْأُولَى

ترجمہ..... وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُكَاتِبُ..... الخ اگر مکاتب مرتد ہو کر دارالحرب پہنچ گیا حالانکہ اپنے مرتد رہنے کے زمانہ میں مال کمایا ہے پھر امام نے اس کے مال کے ساتھ اسے گرفتار کر لیا۔ اور اسلام لانے سے انکار کیا جس کی بناء پر اسے قتل کیا گیا تو اب جو کچھ بھی مال اس کے پاس ہے اس میں سے اس کے مولیٰ کو مال کتابت ادا کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو کچھ بچے گا وہ اس کے مسلمان وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ تفصیل صاحبین کے اصول پر ظاہر ہے۔ کیونکہ اس کے مرتد رہنے کی کمائی اس کی ملکیت ہے۔ اور وہ آزاد کے حکم میں ہے۔ اسی طرح جب وہ مکاتب ہو تب بھی اس کی ملکیت ہوگی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ حکم اس لئے ہے کہ مکاتب عقد کتابت کرنے کی وجہ سے اپنی کمائی کا مالک ہوتا ہے۔ اور اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے کتابت کو موقوف نہیں کیا جاتا ہے۔ (کیونکہ کتابت تو حقیقی موت سے بھی باطل نہیں رہتی ہے۔) اس لئے اس کی کمائی بھی موقوف نہیں رکھی جائے گی۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ جس وقت وہ صرف خالص غلام تھا اس وقت بھی اس کا تصرف موقوف نہ تھا تو اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے بھی موقوف نہ ہوگا۔ یعنی اس کی غلامی ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تصرف نافذ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس معاملہ میں اس کا مرتد ہونا اس سے کم ہے۔ کیونکہ مرتد کے بھی کچھ تصرفات بالاتفاق نافذ ہوتے ہیں۔ اور مکاتب نے جتنا مال چھوڑا ہے اگر اس سے اس کا بدل کتابت ادا ہو جاتا ہو تو گویا وہ آزاد ہو کر۔



مرا ہے۔

مرد اور عورت دونوں مرتد ہو کر دار الحرب چلے گئے عورت نے حاملہ ہو کر بچہ جنا  
پھر اس بچہ کا بچہ ہوا پھر مسلمان نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا تو دونوں بچے مال  
غنیمت ہوں گے

وَإِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ وَأَمْرَاتُهُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَلِحَقَائِدِ الْحَرْبِ فَحَبَلَتِ الْمَرْأَةُ ذَا الْحَرْبِ وَوَلَدَتْ وَلَدًا وَوُلِدَ  
لِوَلَدِهِمَا وَلَدٌ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا فَأَلَوْكَدَانِ فَيُءَلَّانِ الْمُرْتَدَّةُ تُسْتَرْقُ فَيَتَّبَعُهَا وَلَدُهَا وَيُجْبَرُ الْوَلَدُ الْأَوَّلُ عَلَى  
الْإِسْلَامِ وَلَا يُجْبَرُ وَلَدُ الْوَلَدِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُجْبَرُ تَبَعًا لِلْجَدِّ وَأَصْلُهُ التَّبَعِيَّةُ فِي الْإِسْلَامِ فَهِيَ  
رَابِعَةٌ أَرْبَعَةُ مَسَائِلَ كُلِّهَا عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ وَالثَّانِيَةُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَالثَّلَاثَةُ جُرْأَلَاءُ وَالْأُخْرَى الْوَصِيَّةُ لِلْقَرَابَةِ

ترجمہ..... اور اگر ایک مسلمان مرد اور اس کی بیوی نعوذ باللہ من ذلک دونوں ہی مرتد ہو کر دار الحرب پہنچ گئے۔ اور عورت وہاں حاملہ ہو گئی  
(یا دارالاسلام ہی میں حاملہ ہو چکی تھی)۔ پھر اس سے بچہ پیدا ہوا اور وہ بڑا ہوا۔ یہاں تک کہ اس بچہ کے بھی بچہ ہوا پھر مجاہدین نے  
دار الحرب پر غالب ہو کر دونوں مرتد اور ان کے دونوں بچوں کو بھی گرفتار کر لیا تو یہ دونوں بچے مال غنیمت ہوں گے کیونکہ مرتدہ عورت تو  
باندی بنائی جائے گی۔ اور اس کا بچہ بھی اسی کے تابع ہوگا۔ (کیونکہ آزادی پانے یا غلام بنائے جانے میں بچہ اپنی ماں کے تابع ہوتا ہے)  
اور یہ بچہ مسلمان ہونے پر مجبور کیا جائے گا۔ اور اس بچہ کا جو بچہ ہوا ہے وہ ظاہر الروایۃ میں مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ حسن  
رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ وہ بھی اپنے دادا کے تابع کر کے مجبور کیا جائے گا۔ اس اختلاف کی اصل یہ  
ہے کہ مسلمان ہونے میں حسن رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق دادا کے تابع ہونے کا اعتبار ہے۔ یہ مسئلہ چار مسئلوں میں کا چوتھا مسئلہ  
ہے۔ کہ ان سب میں دو دو روایتیں ہیں (یعنی ایک روایت میں دادا کو باپ کی جگہ پر نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں باپ کی جگہ  
پر کیا جائے گا۔) اور دوسرا مسئلہ صدقہ فطر ہے اور تیسرا مسئلہ ولاء اپنی طرف لانا ہے۔ اور چوتھا قرابت کے لئے وصیت ہے۔ (چنانچہ  
دوسرے مسئلہ میں دادا اپنے پوتے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے اس صورت میں جبکہ لڑکے کا باپ فقیر ہو۔ یہ حسن رحمۃ اللہ علیہ کی  
روایت ہے۔ اور ظاہر الروایۃ میں ادا نہیں کرے گا اور تیسرے مسئلہ میں اگر دادا نے پوتے کو آزاد کیا۔ اور اس کا باپ کسی کا غلام ہو تو حسن  
رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق دادا اپنے پوتے کی ولاء اپنے مولیٰ کی طرف لے آئے گا۔ اور ظاہر الروایۃ میں نہیں۔ اور چوتھا مسئلہ یہ  
ہے کہ اگر اپنے قرابت داروں کے لئے کچھ وصیت کی تو اس وصیت میں باپ داخل نہیں ہے اور حسن رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق  
دادا بھی داخل نہیں ہے لیکن ظاہر الروایۃ کے مطابق داخل ہے۔

نابالغ سمجھدار بچوں کا اسلام قبول کرنا اور ارتداد قبول کرنا صحیح ہوگا یا نہیں

قَالَ وَارْتِدَادُ الصَّبِيِّ الَّذِي يَعْقِلُ ارْتِدَادٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَ مُحَمَّدٍ وَيُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَا يُقْتَلُ وَإِسْلَامُهُ إِسْلَامٌ  
لَا يَرِثُ أَبَوَيْهِ إِنْ كَانَ كَافِرَيْنِ وَقَالَ أَبُو يُونُسَ ارْتِدَادُهُ لَيْسَ بِارْتِدَادٍ وَإِسْلَامُهُ إِسْلَامٌ وَقَالَ زُفَرٌ وَالشَّافِعِيُّ إِسْلَامُهُ  
لَيْسَ بِإِسْلَامٍ وَارْتِدَادُهُ لَيْسَ بِارْتِدَادٍ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ أَنَّهُ تَبَعَ لَا بَوَيْهَ فِيهِ فَلَا يُجْعَلُ أَصْلًا وَلَا نَهْ يُلْزَمُهُ أَحْكَامُ



يَشُوْبَهَا الْمَضْرَّةُ فَلَا يُؤْهَلُ لَهُ وَلَنَافِيهِ أَنْ عَلِيًّا أَسْلَمَ فِي صَبَاهُ وَصَحَّحَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِسْلَامَهُ وَافْتِخَارَهُ بِذَلِكَ مَشْهُورٌ وَلَئِنْ أَتَى بِحَقِيقَةِ الْإِسْلَامِ وَهِيَ التَّصَدِيقُ وَالْإِقْرَارُ مَعَهُ لَأَنَّ الْإِقْرَارَ عَنْ طَوْعٍ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِقَادِهِ عَلَى مَا عُرِفَ وَالْحَقَائِقُ لَا تُرَدُّ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ سَعَادَةُ أَبَدِيَّةٌ وَنَجَاةٌ عَقْبَاوِيَّةٌ وَهِيَ مِنْ أَجْلِ الْمَنَافِعِ وَهُوَ الْحُكْمُ الْأُصْلِيُّ ثُمَّ يَتَّبِعِي عَلَيْهِ غَيْرَهَا فَلَا يُبَالِي بِشَوْبِهِ وَلَهُمْ فِي الرَّدَّةِ أَنَّهُمْ مَضْرَّةٌ مَحْضَةٌ بِخِلَافِ الْإِسْلَامِ عَلَى أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ أَعْلَى الْمَنَافِعِ عَلَى مَا مَرَّ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ وَ مُحَمَّدٍ فِيهَا مَوْجُودَةٌ حَقِيقَةٌ وَلَا مَرَدٌ لِلْحَقِيقَةِ كَمَا قُلْنَا فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ لِمَافِيهِ مِنَ النَّفْعِ وَلَا يَقْتُلُ لِأَنَّهُ عُقُوبَةُ وَالْعُقُوبَاتُ مَوْضُوعَةٌ عَنِ الصَّبِيَّانِ مَرَحْمَةٌ عَلَيْهِمْ وَهَذَا فِي الصَّبِيِّ الَّذِي يَعْقِلُ وَمَنْ لَا يَعْقِلُ مِنَ الصَّبِيَّانِ لَا يَصِحُّ ارْتِدَادُهُ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى تَغْيِيرِ الْعَقِيدَةِ وَكَذَا الْمَجْنُونُ وَالسُّكْرَانُ الَّذِي لَا يَعْقِلُ

ترجمہ..... کہا امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک نابالغ مگر سمجھدار بچے کا مرتد ہونا بھی ارتداد ہے۔ (یعنی معتبر اور قابل گرفت ہے) اس لئے اس پر بھی اسلام لانے کے لئے جبر کیا جائے گا۔ لیکن اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کا اسلام قبول کرنا بھی اسلام ہے (معتبر ہے) یہاں تک کہ اگر اس کے والدین کافر ہوں تو وہ ان کا وارث نہ ہوگا۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس بچے کا مرتد ہونا تو ارتداد نہ ہوگا۔ لیکن مسلمان ہونے سے اس کا اسلام معتبر ہوگا۔ اور زفر و شافعی رحمہما اللہ نے کہا ہے کہ اس کا مسلمان ہونا اسلام نہیں ہوگا اور مرتد ہونا بھی ارتداد نہ ہوگا۔ (میں مترجم کہتا ہوں کہ اس کے اسلام کے معتبر ہونے میں اختلاف کو بہت کم گنجائش ہے) (تقریباً کوئی اختلاف نہیں ہے) اس مسئلہ میں اصل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اسلام قبول کرنا ہے۔ چنانچہ ہم یہ بات آئندہ بیان کریں گے۔

لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ..... الخ ان دونوں یعنی امام زفر و شافعی رحمہما اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اسلام لانے میں وہ اپنے والدین کے تابع ہے اس لئے اس کا اسلام اصلی اسلام نہیں قرار دیا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تابع بھی ہو اور اصلی بھی ہو۔ اور اسی دلیل سے بھی کہ اس کے اسلام کا اعتبار کر لینے میں اس کو کچھ ایسے احکام لازم ہو جائیں گے جن سے نقصان لازم آئے گا۔ اس لئے اس میں اہلیت اسلام کا اعتبار نہیں ہوگا (مثلاً اپنے کافر والدین کی میراث سے وہ محروم ہو جائے گا اور ہماری حجت اس کے اسلام کے صحیح ہونے میں یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے بچپن میں ہی اسلام لائے تھے اور رسول اللہ نے ان کے اسلام کو صحیح کہا اور اسے قبول فرمایا اور حضرت علی نے اس پر افتخار کیا جو مشہور بات ہے۔

ولأنه أتى الخ اور بچہ کا اسلام اس دلیل سے بھی صحیح ہے کہ اس نے اسلام کی حقیقت کو یعنی دل سے تصدیق کے ساتھ زبان سے اس کا اقرار کیا ہے۔ کیونکہ خوشی کے ساتھ اقرار کرنا اعتقاد کی دلیل ہے جیسے کہ اپنے موقع (بالکل ابتداء کتاب میں) پر معلوم ہو چکا ہے۔ اور حقیقت رفع نہیں ہوتی ہے۔ اور اس اسلام سے جس چیز کا تعلق ہوتا ہے وہ ہمیشہ کی سعادت حاصل کرنا۔ اور آخرت میں نجات پانا ہے جبکہ یہی نفع دنیاوی منافع میراث وغیرہ کے مقابلہ میں بہت بڑا نفع ہے۔ اور اسلام کا حکم اصلی بھی یہی ہے۔ اور باقی باتیں اسی سے بنتی اور آگے بڑھتی ہیں۔ اس لئے اگر میراث وغیرہ کا کچھ نقصان بھی بالفرض ہو جائے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ تفصیل تو اس کی اسلام کے صحیح ہونے کے بارے میں ہے۔ اور اب اس کے مرتد ہونے کے بارے میں۔ تو امام ابو یوسف و زفر و شافعی رحمہما اللہ کے نزدیک صحیح



نہیں ہے۔ جیسا کہ اوپر گزر گیا۔

وَلَهُمْ فِي الرَّدِّ قَالِحٌ اور لڑکے کے ارتداد کے صحیح نہ ہونے کے بارے میں امام ابو یوسف و زفر و شافعی رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ مرتد ہو جانا سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ (اور جو چیزیں صرف نقصان دہ ہوں ان کو بچہ کی طرف منسوب کرنا اور اس سے صادر ہونا جائز نہیں ہے۔ اسی بناء پر اس کی نہ طلاق واقع ہوتی ہے اور نہ عتاق) (اپنے غلام کی اس سے آزادی) قابل تسلیم ہوتی ہے۔ بخلاف اسلام کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اصل کی بناء پر کیونکہ اس کے اسلام کو تسلیم کر لینے سے سب سے بڑا نفع تو یہی ہے کہ اسی پر آخرت میں نجات پانا موقوف ہوتا ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بچہ کے ارتداد کے صحیح ہونے کے بارے میں دلیل یہ ہے کہ وہ ایک حقیقت ہے اور درحقیقت ارتداد موجود ہے۔ اور حقیقت کبھی رد نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم اسلام میں بیان کر چکے ہیں۔ پھر بھی مرتد لڑکے کو اسلام لانے پر مجبور کیا جائے گا کیونکہ اسی میں اس کا نفع ہے۔ بہر حال اسے قتل بھی نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ قتل ایک بڑی سزا ہے۔ جبکہ بچوں پر رحم کھانے کا تقاضا یہ ہے اسے ایسی سزائیں نہ دی جائیں۔ اسی لئے اس سے سزائیں اٹھالی گئی ہیں۔ پھر یہ سب اختلاف ایسے لڑکے کے بارے میں ہیں جو اسلام اور کفر کو سمجھتا ہو اور جو بچہ اسے نہ سمجھتا ہو اس کا مرتد ہونا ہی صحیح نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کے اسلام کا اقرار عقیدہ کے بدلنے کی دلیل نہیں ہے۔ اور یہی حکم مجنون اور ایسے مست کا بھی ہے جس کی سمجھ ختم ہو چکی ہو۔ یعنی اس کا مرتد ہونا یا اسلام لانا بالاجماع صحیح نہیں ہے۔

تشریح: وَلَنَافِيهِ أَنْ عَلِيًّا أُسْلِمَ الخ نابالغ کا اسلام قبول کرنا ہمارے نزدیک صحیح ہونے کی اصل دلیل حضرت علیؓ کا عمل ہے جسے رسول اللہؐ نے بھی تسلیم کیا ہے اور حضرت علیؓ نے اس پر فخر کا اظہار کیا ہے۔ جو مشہور ہے۔ یہ افتخار حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ کے مقابلہ میں کیا ہے جبکہ ان کو حضرت ابو سفیانؓ نے یہ لکھا تھا کہ اے ابوالحسن (علیؓ) میرے فضائل ہیں۔ جس کے جواب میں آپؐ نے چند اشعار لکھے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہؐ میرے بھائی اور خسر ہیں اور سید الشہداء حمزہؓ میرے چچا ہیں اور جعفر طیارؓ میرے بھائی ہیں۔ اور رسول اللہؐ کی صاحبزادی میری بیوی ہیں۔ دونوں کا خون اور گوشت میرے خون اور گوشت سے ملا ہوا ہے۔ اور رسول اللہؐ کے دونوں نواسے میرے لڑکے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم میں سے کون میری برابری کر سکتا ہے۔ پھر میں اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے ہوں کہ میں اس وقت بالغ بھی نہیں ہوا تھا۔ اور اسلام لے آیا۔ عقیف بن عمرؓ نے طویل قصہ بیان کیا ہے۔ جس میں اس طرح بیان کیا ہے کہ پھر ایک لڑکا جو قریب البلوغ تھا آیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا تو میں نے عباسؓ سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو جواب دیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے محمد بن عبد اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں۔ جن کی پیروی چند آدمیوں کے سوا کسی نے نہیں کی ہے جو یہ ہیں۔ خود ان کی بیوی خدیجہ بنت خویلد اور یہ بچہ علی بن ابی طالب۔ عقیف بن عمرؓ نے کہا کہ مجھے اس بات کی تمنا رہ گئی کہ کاش میں اسی وقت مسلمان ہو جاتا۔ تاکہ اسلام لانے والوں میں میں چوتھا ہوتا۔ حاکم اور نسائی نے اس کی روایت کی ہے۔ اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں حضرت عمروؓ سے روایت کی ہے کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ جس وقت اسلام لائے صرف آٹھ برس کے تھے۔ اور حاکم کی روایت میں جو ابن اسحاقؓ سے ہے کہ وہ دس برس کے تھے۔ اور یہی ابن سعدؓ کی روایت مجاہدؓ سے ہے۔ اور بعض روایات میں نو برس ہیں۔ ذہبی نے بخاری کی روایت کو ترجیح دی ہے۔ اور ابن ابی بوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام احمدؓ سے یہی روایت کی ہے۔ اور کہا ہے کہ حساب سے



آپ کی عمر بھی ساٹھ برس کے قریب ہے۔ پھر جعفر ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت اپنے باپ محمد بن علی سے ذکر کی یعنی محمد بن علی بن الحسین سے ذکر کی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب شہید ہوئے اس وقت وہ اٹھاون برس کے تھے۔ لیکن ثعلبی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ و ابو بکر و عمر و علیؓ میں سے ہر ایک کی عمر تریسٹھ (۶۳) برس کی تھی۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب میں لکھا ہے کہ آپ نے رمضان ۴۰ھ میں شہادت پائی ہے۔ اس حال میں کہ اس وقت ساری روئے زمین پر تمام بنی آدم سے افضل تھے۔ تمام اہل سنت کا اسی پر اجماع ہے۔ اور قول رائج کے مطابقت بق آپ کی عمر شریف تریسٹھ (۶۳) کی تھی۔ اور ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے پینسٹھ (۶۵) کے قریب بیان کی ہے۔ اس طرح ابتداء کے اور انتہاء کے ناقص سال نکال کر باقی پورے تریسٹھ (۶۳) سال ہوتے ہیں۔ اس تفصیل کے مطابق لازم آتا ہے کہ آپ کی عمر قبول اسلام کے وقت دس برس ہو۔ اس کے بعد تیس (۲۳) برس رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ اور آپ کے بعد بھی تیس (۳۰) برس زندہ رہے اس طرح مجموعہ تریسٹھ (۶۳) سال ہوئے اور واضح ہو کہ حضرت خدیجہ عورتوں میں سب سے اول اور سب سے افضل ہیں۔ سوائے اپنی بیٹی فاطمہؓ کے کہ رائج قول کے مطابق حضرت سیدۃ النساء اپنی والدہ سے افضل ہیں۔ پھر مردوں میں صحیح روایتوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہے۔ بعض میں حضرت علیؓ اول ہیں اور بعض میں ابو بکر اور بعض میں بلال۔ اور بعض میں زید بن حارثہ ہیں۔ اسی لئے علماء نے کہا ہے کہ شاید راویوں نے اقسام کے اعتبار سے ہر قسم کے اول کو بیان کیا ہے۔ خواہ اس طرح کہ اہل خاندان میں سے اول حضرت خدیجہ و حضرت علیؓ ہیں یا اس طرح مراد ہو کہ عورتوں میں اول حضرت خدیجہؓ ہیں اور مردوں میں ابو بکرؓ ہیں اور لڑکوں میں علیؓ ہیں اور موالی میں زید بن حارثہؓ ہیں اور غلاموں میں بلالؓ ہیں الحاصل تمام روایتیں اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بلوغ سے پہلے اپنی طفولیت ہی میں اسلام لائے اور رسول اللہ نے آپ کے اسلام کو صحیح رکھا۔ چنانچہ ابوطالب کی میراث (غیر مسلم ہونے کی بناء پر) صرف طالب و عقیل نے پائی۔ اسی لئے مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مؤطائیں نقل کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے (اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے اپنے غیر مسلم دادا کی) میراث نہیں پائی۔ اور بات ان کے اسلام کے صحیح ہونے کی ایک بڑی دلیل ہے۔

## بَابُ الْبُغَاةِ

ترجمہ..... باب، باغیوں کے احکام کا بیان

تشریح..... بَابُ الْبُغَاةِ..... الخ باغی کی جمع بغاۃ جیسے قاضی کی جمع قضاۃ نفی سے مشتق ہے۔ امام المسلمین کی اطاعت و فرمانبرداری سے نکل جانے والے۔ واضح ہو کہ باغی وہ لوگ کہلائیں گے جو امام حق کی اطاعت سے ناحق نکل جائیں۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے بالاتفاق کسی ایک کو اپنا امام مان لیا۔ اور امن کے ساتھ اس کے سایہ میں آ گئے۔ پھر مسلمانوں میں کچھ لوگ اس کی اطاعت و فرمانبرداری سے کنارہ کش ہو جائیں۔ تو دیکھنا چاہئے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اگر واقعہ امام نے ان پر کچھ ظلم کیا ہے تو یہ باغی نہیں کہلائیں گے بلکہ امام پر واجب ہوگا کہ وہ اپنا ظلم ختم کر کے ان کے ساتھ انصاف کرے۔ اور دوسرے لوگوں کو بھی چاہئے کہ نہ ان لوگوں کی مدد کریں اور نہ امام کی اعانت کریں۔ اور اگر امام نے شرع کے اعتبار سے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ لوگ صرف اپنے حق کا دعویٰ کرتے رہے تو یہی لوگ باغی ہوں گے۔ اس وقت جو کوئی بھی قتال کر سکتا ہو اس پر واجب ہے کہ امام کی اعانت میں ان لوگوں کے خلاف قتال کرے۔ کیونکہ





نے فرمایا ہے اِنْ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰہِ۔ لوگوں کو منصف ٹھہرانے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ حضرت علیؑ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو اپنے اور حضرت معاویہؓ کے درمیان ثالث مقرر کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علیؑ نے قتال کیا اور (ان پر غالب بھی ہوئے اس کے باوجود) ان لوگوں کی بیوی بچوں کو قید نہیں کیا اور نہ ہی ان کا مال لوٹا۔ اب اگر وہ لوگ جن سے قتال کیا تھا کافر تھے تو ان کے مال اور ان کی جانیں ہمارے لئے حلال ہونی چاہئیں۔ اور اگر وہ مسلمان تھے تو ہمارا ان سے قتال کرنا حرام ہوا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت علیؑ نے حکم نامہ میں اپنے نام سے امیر المؤمنین کا لفظ مٹا دیا تھا۔ اب اگر وہ امیر المؤمنین نہیں ہیں تو (یقیناً اس کے برعکس) امیر الکافریں ہیں۔ پس میں نے ان سے کہا کہ اگر میں تم کو ان کے جواب کتاب اللہ اور حدیث رسول سے دے دوں جس سے تمہارا اعتراض دور ہو جائے تو کیا تم اپنے اس قول سے پھر جاؤ گے اور مخالفت چھوڑ دو گے۔ انہوں نے کہا ہاں واللہ ہم مخالفت چھوڑ دیں گے۔ تب میں نے کہا فرمان باری تعالیٰ ہے لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ یہاں تک کہ فرمایا یَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ (مائدہ: ۹۵)۔ یعنی احرام کی حالت میں جو شخص شکار کرے اس کی قیمت متعین کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں سے دو عادل آدمیوں پر ذمہ داری ڈالی۔ اسی طرح عورت کے بارے میں بھی ثالث مقرر کیا چنانچہ فرمایا فَاَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِہِ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِہَا (النساء: ۳۵)۔ یعنی ایک ثالث شوہر کی طرف سے اور ایک ثالث عورت کی طرف سے بھیجو۔ اب میں تم کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ آدمیوں کو ثالث مقرر کرنا ان کی جانوں اور مالوں کے حق میں اس سے زیادہ واجب ہے کہ ایک خرگوش کے بارے میں (احرام کی حالت میں شکار کر لینے پر جرمانہ دینے کے لئے) جس کی قیمت چوتھائی درہم ہو۔ اور اب تم یہ بتاؤ کہ کیا میں نے تمہارے اعتراض کا جواب دے کر تم کو مطمئن کر دیا یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تب میں نے کہا۔ تم جو یہ کہتے ہو کہ جن سے قتال کیا ان کو لونڈی اور غلام نہیں بنایا۔ اور ان کے مال کو غنیمت کا حکم نہیں دیا۔ تو اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ حضرت علیؑ نے کوفہ میں صرف حضرت عائشہؓ اور ان کے ساتھیوں سے قتال کیا۔ اب ذرا بتاؤ کہ تم اپنی ماں عائشہؓ کو گرفتار کر کے ان کے ساتھ ان باتوں کو حلال سمجھ لو جو جہاں میں حاصل ہونے والی باندیوں سے حلال جانتے ہو حالانکہ وہ تنہا ماں ہیں اگر ایسا کرو تو تم کافر ہو۔ اب بتاؤ کہ اس اعتراض کا بھی میں نے تم کو شافی جواب دیا یا نہیں۔ جواب دیا۔ درست ہے۔ اطمینان بخش جواب ہے۔ فرمایا اب تمہارا یہ تیسرا اعتراض کہ انہوں نے اپنے نام سے امیر المؤمنین کا لفظ مٹا دیا تو کیا وہ امیر الکافریں تھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ حدیبیہ میں قریش کے ساتھ صلح نامہ لکھا گیا تو آپؐ نے اپنے نام پر محمد رسول اللہ ﷺ لکھا تھا جس پر قریش نے کہا کہ اگر ہم آپؐ کو رسول اللہ مان لیتے تو آپؐ کو خانہ کعبہ میں جانے سے نہیں روکتے۔ تب آپؐ نے فرمایا کہ لکھو محمد بن عبد اللہ۔ اب تم یہ بتاؤ کہ رسول اللہؐ تو حضرت علیؑ سے کہیں بہتر ہیں اس کے باوجود آپؐ نے اپنے نام سے رسالت (رسول اللہ) کا لفظ مٹا دیا اس کے باوجود آپؐ اپنی نبوت سے خارج نہیں ہو گئے۔ اب بتلاؤ کہ میں نے تمہارے اس اعتراض کا بھی تم کو اطمینان بخش جواب دیا یا نہیں وہ کہنے لگے اب اطمینان ہو گیا۔ اس جواب کے بعد ان چھ ہزار باغیوں میں سے دو ہزار اس جماعت سے توبہ کر کے میرے ساتھ نکل آئے۔ اور باقی اپنی ضد پر قائم رہے بالآخر مارے گئے۔ اس کی روایت نسائی و احمد و عبد الرزاق و طبرانی اور حاکم نے کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَ اِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا..... الْآیۃ (الحجرات)

یعنی اگر مومنوں میں سے دو جماعتیں آپس میں قتال کریں..... آخر تک

بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جماعتوں کو مومن فرمایا ہے۔ اس موقع میں خارجیوں کا یہ کہنا کہ قتال کرنے



سے کفر ہو جاتا ہے بالکل غلط ہے اور مردود ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باغیوں کا ذکر کیا اور حکم دیا کہ باغی جماعت سے قتال کرو۔ یہاں تک کہ وہ حکم الہی کی طرف رجوع کر لیں۔ پس وہ لوگ اسی وقت تک باقی ہیں جب تک کہ وہ اطاعت کر کے رجوع نہ کر لیں۔

### باغیوں سے ابتداء قتال کی ممانعت

وَلَا يَبْدَأُ بِقِتَالٍ حَتَّى يَبْدَأُوهُ فَإِنْ بَدَأُوهُ قَاتِلَهُمْ حَتَّى يُفَرِّقَ جَمْعُهُمْ قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ هَكَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَذَكَرَ الْإِمَامُ الْمَعْرُوفُ بِخَوَاهِرِ زَادَهُ أَنَّ عِنْدَنَا يَجُوزُ أَنْ يَبْدَأَ بِقِتَالِهِمْ إِذَا تَعَسَّكُرُوا أَوْ اجْتَمَعُوا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَبْدَأُوا بِالْقِتَالِ حَقِيقَةً لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُ الْمُسْلِمِ إِلَّا دَفْعًا وَهُمْ مُسْلِمُونَ بِخِلَافِ الْكَافِرِ لِأَنَّ نَفْسَ الْكُفْرِ مُبِيعٌ عِنْدَهُ وَلَنَا أَنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَى الدَّلِيلِ وَهُوَ الْاجْتِمَاعُ وَالْإِمْتِنَاعُ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَوْ أَنْتَظَرْنَا الْإِمَامَ حَقِيقَةً قَاتِلَهُمْ رَبَّمَا لَا يُمَكِّنُهُ الدَّفْعُ فَيُدَارُ عَلَى الدَّلِيلِ ضَرُورَةً دَفْعَ شَرِّهِمْ وَإِذَا بَلَغَهُ أَنَّهُمْ يَشْتَرُونَ السَّلَاحَ وَيَتَأَهَّبُونَ لِلْقِتَالِ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَهُمْ وَيَحْبِسَهُمْ حَتَّى يُقْلِعُوا عَنْ ذَلِكَ وَيُحْدِثُوا تَوْبَةً دَفْعًا لِلشَّرِّ بِقُدْرِ الْإِمْكَانِ وَالْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ لُزُومِ الْبَيْتِ مُحْمُولٌ عَلَى حَالِ عَدَمِ الْإِمَامِ أَمَّا إِعَانَةُ الْإِمَامِ الْحَقِّ فَمِنْ الْوَاجِبِ عِنْدَ الْغِنَاءِ وَالْقُدْرَةِ

ترجمہ..... اور باغیوں سے قتال کرنے میں امام ابتداء نہ کرے۔ باغی جب خود قتال کرنے میں پہل کر دیں تب امام ان سے قتال کرے اور اتنا ہی ان سے قتال کرے کہ ان کی جماعت منتشر ہو جائے۔ اس بندہ ضعیف (مصنف ہدایہ) نے کہا ہے کہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مختصر میں ایسا ہی کہا ہے۔ اور شیخ الاسلام خواہر زادہ نے لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک جب باغی اپنا لشکر اور اپنی جماعت کو تیار کر لیں تو اسی وقت ان سے قتال شروع کر دینا جائز ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب تک وہ لوگ حقیقتاً قتال شروع نہ کر دیں تب تک ان سے قتال جائز نہیں ہے۔ کیونکہ مسلمان سے قتال کرنا صرف اسی صورت میں جائز ہوتا ہے کہ ان سے دفاع کرنا مقصود ہو۔ اور یہ باغی بھی تو آخر مسلمان ہی ہیں۔ برخلاف کافر کے کہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا کافر رہنا ہی اس کے قتال کو جائز کر دیتا ہے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ حکم کا مدار دلیل پر ہوتا ہے۔ یہاں دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ مقابلہ کی نیت سے اکٹھے ہوئے اور امام کی فرمانبرداری سے انکار کرنے لگے اس لئے ان سے قتال جائز ہو گیا۔ کیونکہ اگر امام ان کے حقیقی اور واقعی قتال شروع کر لینے کا انتظار کرے تو بسا اوقات (وہ اتنے آگے نکل جائیں کہ) ان سے دفاع کرنا بھی ممکن نہ ہوگا۔ (یعنی وہ جماعت بڑھ جائے گی اور ان کی طاقت بھی زیادہ ہو جائے گی)۔ (تو ان کی برائی اور نقصان کو دور کرنے کے لئے قتال کرنا اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوئی۔ اور جیسے ہی امام کو یہ خبر پہنچے کہ باغی لوگ ہتھیار خریدنے اور قتال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو چاہئے کہ وہ اسی وقت ان لوگوں کو گرفتار کر کے قید خانہ میں ڈال دے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ اس خیال سے بالکل توبہ کر لیں اور اپنی حرکت سے باز آجائیں۔ اس خیال سے کہ جہاں تک ممکن ہو فتنہ کو جلد از جلد دبا دیا جائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو یہ بات مشہور ہے کہ جب مسلمانوں میں فتنہ پھیلے تو اپنے گھر میں بیٹھ جانا چاہئے۔ یہ بات اس حالت پر محمول ہوگی کہ اس وقت کوئی امام نہ ہو۔ کیونکہ امام حق موجود ہو تو جہاں تک طاقت و اختیار ہو اس کی اعانت واجب ہے)۔ کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ یعنی مومنوں کی اس جماعت سے قتال کرو جو قتال کرتی ہو۔ یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی جانب جھک جائے۔ اس آیت میں حکم کیا ہے۔ اس لئے امام کا ساتھ دینا واجب ہوا۔ اور آیت سے یہ بات بھی صراحتہ معلوم ہوئی کہ



باغی جماعت بھی مومن ہی رہتی ہے۔ اگرچہ وہ گنہگار ہی ہو۔

### باغیوں کی مددگار جماعت کیساتھ کیا سلوک کیا جائے

فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ فِتْنَةٌ أُجْهِزْ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَأَتَّبِعْ مُوَلِّيَهُمْ دَفْعًا لِّلشَّرِّ لَّهُمْ كَيْلًا يَلْتَحِقُوا بِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِتْنَةٌ لَّهُمْ يُجْهِزْ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَلَمْ يَتَّبِعْ مُوَلِّيَهُمْ لِأَنِّدْفَاعِ الشَّرِّ ذُوْنَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ ذَالِكُ فِي الْحَالِيْنَ لِأَنَّ الْقِتَالَ إِذَا تَرَكَوْهُ لَمْ يَنْقُ قَتْلُهُمْ دَفْعًا وَجَوَابُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ دَلِيلُهُ لِحَقِيقَتِهِ

ترجمہ۔۔۔ اور اگر کوئی دوسری جماعت ان باغیوں کی مددگار ہو تو جو لوگ ان کی طرف سے اس لڑائی میں زخمی ہوئے ہوں ان کو قتل کر دینا چاہئے۔ اور ان کے بھاگنے والوں کا پیچھا کرنا چاہئے۔ تاکہ ان کا فتنہ دور ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اپنی جماعت سے مل جائیں اور اگر ان کی کوئی مددگار جماعت نہ ہو تو ان زخمیوں کو قتل نہیں کیا جائے۔ اور پریشان بھاگے ہوئے لوگوں کا پیچھا نہیں کیا جائے کیونکہ ایسا کئے بغیر ہیں تو ان کا فتنہ دور ہو چکا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دونوں صورتوں میں سے کسی میں بھی زخمیوں کو قتل نہیں کیا جائے اسی طرح بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کیا جائے۔ کیونکہ جب ان لوگوں نے قتال ختم کر دیا تو اب ان کو قتل کرنا فتنہ کو دور کرنا نہیں ہوا۔ مگر اس کا بھی جواب وہی ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اس موقع میں اصل قتال کرنے کا اعتبار نہیں ہے بلکہ دلیل قتال معتبر ہے۔ (اور اس صورت میں جبکہ ان کی مددگار جماعت کوئی موجود ہو تو بھاگنے والوں کا ان سے ملنا قتال کی دلیل اس طرح ہے کہ وہ قتال ہی کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ اسی واسطے ان کے زخمیوں کو قتل دیا جاتا ہے تاکہ وہ اچھے ہو کر دوبارہ قتال کو نہ آئیں)۔

### باغیوں کے بچوں کو قیدی اور ان کے اموال کو تقسیم نہیں کیا جائے گا

وَلَا يُسْبَى لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ وَلَا يُقَسَّمُ لَهُمْ مَالٌ لِّقَوْلِ عَلِيٍّ يَوْمَ الْجَمَلِ وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ وَلَا يُكْشَفُ سِتْرٌ وَلَا يُؤْخَذُ مَالٌ وَهُوَ الْقِدْوَةُ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَوْلُهُ فِي الْأَسِيرِ تَأْوِيلُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِتْنَةٌ فَإِنْ كَانَتْ يَقْتُلُ الْإِمَامُ الْأَسِيرَ وَإِنْ شَاءَ حَبْسَهُ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَا تَهُمُ مُسْلِمُونَ وَالْإِمَامُ يَعْصِمُ النَّفْسَ وَالْمَالَ وَلَا بَأْسَ بَأَن يُقَاتِلُوا بِسِلَاحِهِمْ إِنْ احتَاجَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ وَالْكَرَاءُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَهُ أَنَّهُ مَالُ مُسْلِمٍ فَلَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ إِلَّا بِرِضَاهُ وَلَنَا أَنَّ عَلِيًّا قَسَمَ السِّلَاحَ فِيمَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ بِالْبَصْرَةِ وَكَانَتْ قِسْمَتُهُ لِلْحَاجَةِ لَا لِلتَّمْلِكِ وَلَٰنَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ ذَالِكَ فِي مَالِ الْعَادِلِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَفِي مَالِ الْبَاغِي أَوْلَى وَالْمَعْنَى فِيهِ الْحَاقُّ الضَّرَرَ الْأَذْنَى لِدَفْعِ الْآ عَلَى

ترجمہ۔۔۔ وَلَا يُسْبَى لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ..... الخ اور ان باغیوں کی ذریات یعنی بیوی اور بچے وغیرہ جس طرح جہاد میں کافروں کے بچے وغیرہ غلام اور باندی بنائے جاتے ہیں اس طرح یہ لوگ غلام اور باندی نہیں بنائے جائیں گے۔ اور نہ ان کا مال غنیمت کے طور پر تقسیم کیا جائے گا۔ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جنگ جمل کے دن صاف طور سے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ ان کے قیدیوں میں سے کوئی بھی قتل نہیں کیا جائے۔ اور نہ کسی عورت کی بے پردگی اور بے عزتی کی جائے۔ اور نہ ان کا کوئی مال لیا جائے۔ (ابن شیبہ نے اس کی روایت کی ہے۔ آپ (حضرت علیؑ) ہی سے تو ہمیں اہل قبلہ سے لڑائی کرنے کا خاص طریقہ معلوم ہوا ہے)۔ وہی اس مسئلہ میں ہمارے پیشوا ہیں (یعنی آپ نے جو



کچھ بھی حضرت عائشہؓ اور ان کی جماعت کے ساتھ سلوک کیا وہی ہمیں بھی کرنا واجب ہے) اور قیدی کے بارے میں جو کچھ آپؐ نے فرمایا ہے تو اس کی تاویل یہ ہے کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ باغیوں کی مددگار جماعت کوئی نہ ہو۔ اور اگر باغیوں کی مددگار اور پناہ گاہ دوسری کوئی جماعت ہو تو امام کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دے یا چاہے تو ان کو قیدی بنا کر رکھ لے۔ (ایسا کرنے سے ان کا اثر اور فتنہ دور ہوگا)۔ اور اس لئے بھی کہ یہ لوگ مسلم ہیں۔ اور امام کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرے۔ اور باغیوں سے ہتھیار چھین کر بوقت ضرورت ان ہی ہتھیاروں سے ان کے خلاف قتال کرنے میں کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہتھیاروں سے مقاتلہ کرنے کو جائز نہیں کہتے ہیں۔ یہی اختلاف ان کے گھوڑوں اور اونٹوں کو استعمال کرنے میں بھی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے انکار کرنے کی دلیل یہ ہے کہ یہ سب مال مسلمان کا مال ہے۔ جسے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بصرہ میں مجاہدوں کے درمیان ہتھیاروں کو تقسیم کر دیا تھا۔ (اور ان کے سواری کے جانوروں کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ ابن ابی شیبہ نے محمد بن الحنفیہ سے اس کی روایت کی ہے)۔ انہوں نے اپنے مجاہدین کی ضرورت کی بناء پر یہ چیزیں تقسیم کی تھیں۔ ان کو مالک بنانے کے لئے ان کو نہیں دیا تھا۔ اور اس دلیل سے بھی کہ جب امام کے لئے اہل عدل کے مال کو بھی ضرورت پڑنے سے اسی طرح تقسیم کر دینا جائز ہے تو باغیوں کے مال کو تقسیم کر دینا بدرجہ اولیٰ جائز ہوگا۔ ایسا کرنے کی بنیادی بات یہ ہے کہ بڑے نقصان کو دور کرنے کے لئے چھوٹے اور کمتر نقصان کو برداشت کرنا ثابت ہے۔ (یعنی ایک چھوٹی سی باغیوں کی جماعت سے یہ سامان اور ہتھیار لے کر عام مسلمانوں کے نقصان کو دور کرنا۔ بلکہ یہ باغی افراد ان ہی ہتھیاروں سے عام مسلمانوں اور ان کے امام سے قتال کر کے گنہگار ہوتے۔ تو ان سے یہ ہتھیار چھین لینے سے نقصان اور گناہ کم ہو گیا اس گناہ سے جو ان سے قتال کرنے سے ان کو ہوتا ہے۔ اس بیان سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اگر باغی لوگ حقیقت میں باغی نہ ہوں یعنی کسی دلیل اور شبہ کی وجہ سے وہ لوگ قتال کرتے ہوں تو ان سے بھی ہتھیار چھین لینا جائز ہے۔ کیونکہ گہرے مطالعہ اور باریک تحقیق کے بعد یہی ثابت ہوگا کہ ان کا شبہ غلط ہے۔ اس لئے حقیقت میں ان کا قتال بے فائدہ اور ہراسہ نقصان دہ ہے)۔

تشریح..... فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ..... الخ ترجمہ سے مطلب واضح ہے۔ حضرت علیؓ نے جنگ جمل کے آخر میں جو اعلان فرمایا تھا اس کے بارے میں ابن ابی شیبہ نے ضحاک سے روایت کی کہ جب حضرت طلحہؓ و زبیرؓ اور ان کے ساتھیوں نے شکست کھائی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس طرح عام اعلان کر دیا کہ خبردار کوئی آنے والا اور کوئی بھاگنے والا قتل نہ کیا جائے اور کوئی دروازہ نہ کھولا جائے۔ اور کوئی عورت یا مال حلال نہ سمجھا جائے۔ ابن ابی شیبہ نے عبد خیر سے روایت کی ہے کہ حضرت علیؓ نے جنگ جمل کے دن فرمایا کہ کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرو۔ کسی زخمی کو قتل نہ کرو۔ جو شخص اپنا ہتھیار ڈال دے اسے امان ہے۔ ابن ابی شیبہ نے محمد بن علی بن الحسین سے روایت کی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یوم البصرہ میں حکم دیا کہ پکار کر کہنے والا کوئی بول اعلان کر دے کہ خبردار! کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، زخمی کوئی قتل نہ کیا جائے۔ کوئی قیدی قتل نہ کیا جائے۔ جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے اور جو اپنا ہتھیار ڈال دے اسے امان ہے آپؐ نے باغیوں کے اسباب میں سے کچھ نہیں لیا۔ اسی طرح عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کی ہے۔ اور بیہقی و حاکم نے بھی یہی حدیث ابن عمرؓ سے روایت کی ہے۔ اور ابن ابی شیبہ نے محمد بن الحنفیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یوم جمل کو باغیوں کے ہتھیار و گھوڑے لشکر میں بانٹ دیئے۔ اور ابن سعد میں طبقات میں محمد بن الحنفیہ سے روایت کی ہے کہ



حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ کسی زخمی کو قتل نہ کرو اور بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرو۔ اور باغیوں نے جن ہتھیاروں اور گھوڑوں سے قتال کیا تھا وہ لشکر میں بانٹ دیئے۔ اور ابن ابی شیبہ نے ابوالہتتری سے روایت کی ہے کہ جب اہل جمل بھاگے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جو شخص لشکر سے باہر ہو گیا اس کا پیچھا نہ کرو۔ اور جو کچھ ہتھیار اور گھوڑے ہوں وہ تو تمہارے ہیں۔ لیکن کوئی عورت تمہارے لئے حلال نہیں ہے۔ جس عورت کا شوہر مارا گیا ہو وہ چار مہینے دس دن عدت میں گزارے۔ لیکن آپ کے لشکر نے آپس میں اختلاف کیا اور کہا اے امیر المؤمنین ان کے خون ہمارے لئے حلال ہیں۔ لیکن ان کی عورتیں ہمیں کیوں حلال نہیں ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے انتہائی غصہ میں آ کر فرمایا اپنی عورتیں لاؤ اور ام المؤمنین عائشہ پر قمر عڈالو کیونکہ وہی ان سبھوں کی سردار ہیں۔ اس وقت لشکر والے اصل بات سمجھ گئے۔ (کہ یہ کافر حربی نہیں بلکہ مؤمنین ہی ہیں اور دونوں کے احکام بہت مختلف ہوتے ہیں) اس لئے سبھوں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین ہم اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہمیشہ یہی حکم دیتے رہے کہ کوئی قتل نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی مددگار کوئی دوسری جماعت نہ تھی۔ کہ ان کے پاس پہنچتے اور ان سے مزید مدد حاصل کرتے یا پناہ لیتے۔

### باغیوں کے اموال کو روکنے کا حکم

وَيَحْبِسُ الْإِمَامُ أَمْوَالَهُمْ وَلَا يَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ وَلَا يَقْسِمُهَا حَتَّى يَتُوبُوا فَيَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ أَمَّا عَدَمُ الْقِسْمَةِ فَلَمَّا بَيَّنَّاهُ وَأَمَّا الْحَبْسُ فَلِدَفْعِ شَرِّهِمْ بِكُسْرِ شَوْكِهِمْ وَلِهَذَا يَحْبِسُهَا عَنْهُمْ وَإِنْ كَانَ لَا يَخْتِاجُ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْهُ يَبِيعُ الْكُرَاعَ لِأَنَّ حَبْسَ الثَّمَنِ أَنْظَرُوا أَيْسَرُوا وَأَمَّا الرَّدُّ بَعْدَ التَّوْبَةِ فَلِإِنْدِفَاعِ الضَّرُورَةِ وَلَا سِتْغْنَامَ فِيهَا

ترجمہ..... وَيَحْبِسُ الْإِمَامُ الْخ اور باغیوں کے مالوں کو امام روک کر رکھے یعنی نہ ان کو واپس کرے اور نہ ہی اپنے مجاہدین میں تقسیم کرے۔ یہاں تک کہ جب باغی اپنی حرکت سے توبہ کر لیں تو ان کا مال و اسباب ان کو واپس کر دے۔ یہاں تک کہ ہم نے مجاہدین میں مال تقسیم نہ کرنے کی دلیل بیان کر دی ہے۔ (یعنی حضرت علیؑ کا فرمان یہ کہ وہ مسلمانوں کا مال ہے اور یہ کہ ان کے ہتھیار چھین لینے سے ان لوگوں کو بڑے گناہ یعنی عام مسلمانوں کے قتل کے خیال اور عمل سے روک کر ان کو بچانا ہے)۔ اس سے باغیوں کی برائی ختم کرنا ہے۔ تاکہ ان کا زور ٹوٹ جائے اور قوت کمزور ہو جائے۔ اسی لئے یہ سامان ان باغیوں کو آسانی سے واپس نہ کرے۔ اگرچہ خود امام کو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہ ہو۔ البتہ امام کو چاہئے کہ ان کے سواری کے جانوروں کو بچ کر ان کی قیمت محفوظ رکھے لے کیونکہ قیمت کی حفاظت جانوروں کی حفاظت کے مقابلہ میں بہت آسان ہے۔ پھر جب کبھی وہ توبہ کر لیں تو ان کی قیمت ان کو واپس کر دے کیونکہ مقصد پورا ہو چکا ہے۔ اور ان جانوروں کو غنیمت کا مال نہیں مانا گیا ہے۔

باغیوں نے مسلمانوں کے علاقے پر غلبہ پا کر خراج اور عشر وصول کر لیا

امام فتح پانے کے بعد دوبارہ عشر و خراج وصول نہیں کرے گا

قَالَ وَمَا جَاءَهُ أَهْلُ الْبَغْيِ مِنَ الْبِلَادِ الَّتِي غَلَبُوا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَالْعُشْرِ لَمْ يَأْخُذْهُ الْإِمَامُ ثَانِيًا لِأَنَّ وَلَا يَتَّخِذُهَا بِأَعْيَارِ الْحِمَايَةِ وَلَمْ يَحْمِلْهُمْ فَإِنْ كَانُوا صَرَفُوهُ فِي حَقِّهِ أَجْزَى مِنْ أَخْذِهَا لِيُصُولَ الْحَقُّ إِلَى

مُسْتَحِقِّهِ وَإِنْ لَّمْ يَكُونُوا صَرَفُوهُ فِي حَقِّهِ فَعَلَى أَهْلِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَعِيدُوا ذَٰلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ قَالُوا لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِمْ فِي الْخَرَاجِ لِأَنَّهُمْ مُقَاتِلَةٌ فَكَانُوا مَصَارِفَ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ وَفِي الْعُشْرَانِ كَانُوا أَفْقَرَاءَ كَذَٰلِكَ لِأَنَّهُ حَقُّ الْفُقَرَاءِ وَقَدْ بَيَّنَّا فِي الزَّكَاةِ وَفِي الْمُسْتَقْبَلِ يَأْخُذُهُ الْإِمَامُ لِأَنَّهُ يَحْمِيهِمْ فِيهِ لِيُظْهِرَ وَلَا يَتَّهِ

ترجمہ..... اور باغیوں نے مسلمانوں کے جن علاقوں پر غلبہ پا کر وہاں کے لوگوں سے خراج اور عشر جو کچھ وصول کر لیا ہے۔ امام ان پر فتح پانے کے بعد ان سے دوبارہ خراج و عشر وصول نہیں کرے گا۔ کیونکہ امام کو وہاں کے رہنے والوں پر ولایت اور حکومت جو کچھ حاصل ہے وہ اسی بناء پر ہے کہ وہ ان لوگوں کی حمایت اور حفاظت کرے گا اور اس کے عوض ان سے خراج و عشر وصول کرے گا۔ اب جبکہ اس عرصہ میں امام ان لوگوں کی حفاظت اور حمایت نہیں کر سکا اور باغیوں نے بھی اپنے طور پر اس مال کو جس موقع میں خرچ کرنا چاہئے تھا وہاں خرچ کر دیا تو جن لوگوں سے یہ چیزیں اس عرصہ میں لے لی گئیں ان کا دینا کافی ہو گیا۔ ساتھ ہی حق حقدار مستحقین کو پہنچ چکا ہے اس لئے دوبارہ ان پر لازم کرنا اور امام کو وصول کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر باغیوں نے لوگوں سے وصول کر کے اس رقم کو اس کے صحیح مصرف میں خرچ نہیں کیا ہے تو جن لوگوں نے ادا کر دیا ہے ان پر ان کی دینداری کا تقاضا یہی ہوگا کہ اللہ اور اپنے درمیان بہتر تعلق ادائیگی کے خیال سے اس مقدار کو اس کے مستحقین پر خرچ کرنے کے لئے وجوہاً دوبارہ ادا کر دیں کیونکہ حق اپنے حقدار تک نہیں پہنچا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ خراج کے بارے میں خراج دینے والوں پر دوبارہ دینا لازم نہیں ہے (کیونکہ خراج جہاں خرچ کیا جاتا ہے ان میں سے لڑنے والے سپاہیوں پر بھی خرچ کیا جاتا ہے تو اس کے اصل خود یہ باغی بھی ہو گئے) کیونکہ یہ بھی جہاد و قتال کے مستحق ہیں اس لئے خراج پانے اور خرچ کئے جانے کے مستحق ہو گئے اگرچہ وہ مالدار ہی ہوں اور عشر کی صورت میں اگر وہ لوگ (باغی) فقیر ہوں تو بھی یہی حکم ہوگا کہ دوبارہ ادا کرنا ضروری نہ ہوگا کیونکہ عشر فقیروں کا حق ہے اور یہ بات ہم باب الزکوٰۃ میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے سالوں میں امام ان سے از سر نو وصول کرے گا کیونکہ اس کے بعد سے امام کی ولایت مکمل ہو جانے کی وجہ سے ان کی حمایت و حفاظت کر سکے گا۔

باغیوں کے لشکر میں ایک نے دوسرے کو مار ڈالا پھر امام کسی وقت ان پر غالب آ

گیا تو قاتل پر قصاص یا دیت کچھ بھی واجب نہیں ہوگا

وَمَنْ قَتَلَ رَجُلًا وَهُمَا مِنْ عَسْكَرِ أَهْلِ الْبَغْيِ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِإِمَامِ الْعَدْلِ حِينَ الْقَتْلِ فَلَمْ يَنْعَقِدْ مُوجِبًا كَالْقَتْلِ فِي دَارِ الْحَرْبِ

ترجمہ..... وَمَنْ قَتَلَ رَجُلًا وَهُمَا مِنْ عَسْكَرِ..... الخ اور باغیوں کے لشکر میں سے ایک شخص نے دوسرے کو مار ڈالا۔ اس کے بعد کسی وقت امام ان پر غالب آ گیا تو اس قاتل پر اس قتل کے بارے میں قصاص یا دیت کچھ بھی واجب نہیں ہوگی۔ کیونکہ فعل قتل ہوتے وقت ان پر امام عادل کی ولایت نہیں تھی۔ اس لئے یہ قتل قصاص یا دیب کا سبب نہیں ہوا۔ جس طرح اگر دار الحرب میں قتل واقع ہو جاتا تو وہ بھی موجب قصاص یا دیت نہ ہوتا۔ یعنی مسلمان افراد میں سے ایک نے دوسرے کو دار الحرب میں مار ڈالا اس کے بعد قاتل



دارالاسلام آگیا تو اس قتل کے عوض یہاں اس سے دیت یا قصاص نہیں لیا جائے گا۔

باغیوں کی جماعت کسی شہر پر غالب آگئی اہل شہر میں سے ایک نے  
دوسرے شہری کو قتل کر دیا قاتل سے قصاص لیا جائے گا

وَإِنْ غَلَبُوا عَلَى مِصْرٍ فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ عَمْدًا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى الْمِصْرِ فَإِنَّهُ  
يُقْتَصُّ مِنْهُ وَتَأْوِيلُهُ إِذَا لَمْ يَجْزُ عَلَى أَهْلِهِ أَحْكَامُهُمْ وَأُزْعِجُوا قَبْلَ ذَلِكَ وَفِي ذَلِكَ لَمْ تَنْقَطِعْ وَلَا يَةُ  
الْإِمَامِ فَيَجِبُ الْقِصَاصُ

ترجمہ..... اور اگر باغیوں کی جماعت کسی شہر پر غالب آگئی۔ اس کے بعد ہی شہریوں میں سے ایک نے دوسرے کو عمداً قتل کر دیا۔ پھر امام  
عادل اس شہر پر غالب ہو گیا تو اس قاتل سے قصاص لیا جائے گا۔ فخر الاسلام نے اس حکم کی تاویل یہ بیان کی ہے کہ یہ حکم اس صورت میں  
ہوگا کہ شہر پر پورے طور سے باغیوں کا قبضہ نہیں ہو سکا تھا کہ اس سے پہلے ہی باغیوں کا قبضہ وہاں سے تم کر لیا گیا۔ اور صرف تھوڑی سی  
مدت کے لئے حاکم عادل کی حکومت باقی نہیں رہ سکی ہو۔ اس لئے قصاص لینے کا حکم وجوہاً نافذ ہوگا۔ اس کا حاصل مسئلہ یہ ہوا کہ اس شہر پر  
باغیوں کا پورا قبضہ نہ ہوا ہو۔

اہل عدل میں سے کسی نے اپنے مورث باغی کو قتل کر دیا قاتل وارث ہوگا

وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ بَاغِيًا فَإِنَّهُ يَرِثُهُ فَإِنْ قَتَلَهُ الْبَاغِي قَالَ قَدْ كُنْتُ عَلَى حَقٍّ وَأَنَا الْآنَ عَلَى حَقٍّ وَرِثَتُهُ  
وَإِنْ قَالَ قَتَلْتُهُ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنِّي عَلَى الْبَاطِلِ لَمْ يَرِثْهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَرِثُ الْبَاغِي  
فِي الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأُضِلُّهُ أَنَّ الْعَادِلَ إِذَا تَلَفَ نَفْسَ الْبَاغِي أَوْ مَالَهُ لَا يَصْمَنُ وَلَا يَأْتِمُ لِأَنَّهُ  
مَأْمُورٌ بِقِتَالِهِمْ دَفْعًا لَشَرِّهِمْ وَالْبَاغِي إِذَا قَتَلَ الْعَادِلَ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ عِنْدَنَا وَيَأْتِمُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ أَنَّهُ  
يَجِبُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ وَقَدْ تَلَفَ نَفْسًا أَوْ مَالًا لَهُ أَنَّهُ أَتَلَفَ مَالًا مَعْصُومًا أَوْ قَتَلَ نَفْسًا مَعْصُومَةً  
فَيَجِبُ الضَّمَانُ إِعْتِبَارًا بِمَاقَبِلِ الْمَنَعَةِ وَلَنَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَلِأَنَّهُ أَتَلَفَ عَنْ تَأْوِيلِ فَاسِدٍ  
وَالْفَاسِدُ مِنْهُ مُلْحَقٌ بِالصَّحِيحِ إِذَا ضَمَّتْ إِلَيْهِ الْمَنَعَةُ فِي حَقِّ الدَّفْعِ كَمَا فِي مَنَعَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَتَأْوِيلُهُمْ وَهَذَا  
لِأَنَّ الْأَحْكَامَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنَ الْإِلْزَامِ أَوِ الْإِلْتِزَامِ وَلَا الْإِلْتِزَامَ لَا عِتْقَادَ الْإِبَاحَةِ عَنْ تَأْوِيلِ وَلَا الْإِلْزَامَ لِعَدَمِ الْوَلَايَةِ  
لِوُجُودِ الْمَنَعَةِ وَالْوَلَايَةُ بَاقِيَةٌ قَبْلَ الْمَنَعَةِ وَعِنْدَ عَدَمِ التَّأْوِيلِ ثَبَتَ الْإِلْتِزَامُ اعْتِقَادًا بِخِلَافِ الْإِثْمِ لِأَنَّهُ لَا مَنَعَةَ فِي  
حَقِّ الشَّارِعِ إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ قَتْلُ الْعَادِلِ الْبَاغِي قَتْلٌ بِحَقٍّ فَلَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ وَلَا أَبِي يُوسُفَ فِي قَتْلِ الْبَاغِي  
الْعَادِلَ أَنَّ التَّأْوِيلَ الْفَاسِدَ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ الدَّفْعِ وَالْحَاجَةُ هُنَا إِلَى اسْتِحْقَاقِ الْإِرْثِ فَلَا يَكُونُ التَّأْوِيلُ  
مُعْتَبَرًا فِي حَقِّ الْإِرْثِ وَلَهُمَا فِيهِ أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى دَفْعِ الْجُرْمَانِ أَيْضًا إِذَا الْقَرَابَةُ سَبَبُ الْإِرْثِ فَيُعْتَبَرُ الْفَاسِدُ فِيهِ  
إِلَّا أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ بَقَاؤُهُ عَلَى دِيَانَتِهِ فَإِذَا قَالِ كُنْتُ عَلَى الْبَاطِلِ لَمْ يَوْجَدْ الدَّفْعُ فَوَجِبَ الضَّمَانُ

ترجمہ..... اور اگر اہل عدل میں سے کسی نے اپنے مورث باغی کو قتل کر دیا تو بھی وہ اس قاتل کا وارث ہوگا۔ (حالانکہ اپنے مورث کو قتل



کرنے والا اس کا وارث نہیں ہوتا ہے۔) اور اگر باغی نے اپنے عادل مورث کو قتل کر دیا تو اس میں دو صورتیں اس طرح ہوں گی کہ اگر باغی نے کہا کہ میں قتل کرنے سے پہلے بھی خود کو حق پر سمجھتا تھا اور اب بھی حق پر سمجھتا ہوں۔ تو وہ اس مقتول کا وارث ہو جائے گا۔ اور اگر قاتل نے کہا میں قتل کے وقت خود کو باطل پر سمجھتا تھا تو اس صورت میں اس کا وارث نہیں ہوگا۔ یہ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے دونوں صورتوں میں سے کسی میں بھی وارث نہیں ہوگا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ اس اختلاف کی اصل یہ ہے کہ اگر عادل نے کسی باغی کا مال یا اس کی جان برباد کی تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔ اور گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ باغیوں کے خلاف قتال کرنے کا اسے حکم ہے۔ تاکہ باغیوں کا فتنہ دور ہو۔ اور اگر باغی نے عادل کو قتل کیا تو ہمارے نزدیک ضمان واجب نہیں ہوگا مگر گنہگار ہوگا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول قدیم میں کہا ہے کہ ضمان بھی واجب ہوگا (امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔) اسی طرح اگر مرتد نے توبہ کر لی اس سے پہلے حالت ارتداد میں اس نے جان و مال برباد کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی ایسا ہی اختلاف ہے۔ (اور اگر باغی کے ساتھ بڑی جماعت یا بڑی طاقت نہ ہو اور اس حالت میں اس نے کوئی جان یا مال برباد کیا تو بالاتفاق اس پر ضمان واجب ہوگا۔) اس صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ باغی نے مال محترم یا معصوم جان برباد کی ہے اس لئے اس پر ضمان واجب ہوگا۔ جیسے طاقت حاصل ہونے سے پہلے قتل کرنے میں واجب ہوتا ہے اور ہماری دلیل صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ جس کو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ (وہ روایت یہ ہے کہ سلیمان بن ہشام نے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے پاس سے نکل گئی۔ اور دعویٰ کیا کہ میری قوم مشرک ہے۔ اور خوارج سے جا کر مل گئی ہے اور وہاں اس نے نکاح کر لیا۔ پھر توبہ کر کے لوٹ آئی۔ تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس پر زہری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ جس وقت خوارج کا فتنہ پھیلا اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ بہت سے ایسے صحابہ کرام بھی تھے جو غزوہ بدر میں شریک تھے ان سے مشورے کرے پر سب کی رائے متفقہ طور پر یہ ہوئی کہ اگر خوارج نے قرآن کی تاویل کے ساتھ کسی عورت کو حلال کر لیا تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ اور اگر قرآنی تاویل سے کسی شخص کو حلال سمجھ کر قتل کیا تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اور اگر خارجیوں کے پاس کسی مسلمان کا مال بعینہ (بغیر کسی رد و بدل کے) پایا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے۔ پس میرے علم کے مطابق فیصلہ یہ ہے کہ تم اس عورت کو اس کے شوہر کے پاس واپس کر دو۔ اور اگر کوئی شخص اس عورت پر بدکاری کا بہتان لگائے تو تم اس کو حد قذف لگاؤ۔ ابن ابی شیبہ نے عن معمر بن الزہری اس کی روایت کی ہے۔)

اور دوسری دلیل یہ ہے کہ باغی نے فاسد تاویل کر کے تلف کیا ہے۔ اور فاسد تاویل بھی صحیح تاویل کے ساتھ مل جاتی ہے۔ (یعنی صمان دور کرنے میں فاسد تاویل بھی صحیح تاویل کے حکم میں ہوتی ہے) بشرطیکہ فاسد تاویل کرنے والوں کو قوت اور طاقت حاصل ہو۔ جیسے حربی کافروں اور ان کی تاویل میں جو طاقت اور قوت ہے کا یہی حکم ہے۔ (یعنی اگر حربیوں نے لڑائی میں کئی مسلمان قتل کر دیئے یا ان کے مال برباد کر دیئے پھر سب مسلمان ہو گئے تو ان پر قصاص یا ضمان لازم نہیں ہے) اس کی وجہ یہ ہے کہ احکام شرع میں الزام یا التزام ضروری ہے (یعنی حاکم لازم کر دے یا اپنی خوشی سے خود پر لازم کرے) اور باغی نے التزام نہیں کیا ہے کیونکہ وہ اپنی تاویل فاسد سے (اہل عدل کی جان اور مال کو) حلال جانتا ہے۔ اور باغی پر امام کی طرف سے بھی لازم کرنا نہیں پایا جاتا ہے۔ (کیونکہ امام کا اس پر کوئی حکومت اور اختیار نہیں ہوتا ہے)۔ کیونکہ باغیوں کے پاس خود اپنی قوت مدافعت موجود ہوتی ہے۔ اور جب تک ان کو مقابلہ کی طاقت حاصل نہیں تھی اس وقت تک



امام کی حکومت اور ولایت باقی تھی۔ (اس لئے ضمان واجب ہونے کا حکم اس کی طرف سے ہوتا تھا) اور اسی طرح جب باغی نے تاویل نہیں کی تو التزام ثابت ہے (یعنی اس کے اپنے اعتقاد میں وہ عادل کو قتل کرنا یا اس کا مال لینا حرام جانتا ہے۔ برخلاف گناہ کے کہ وہ تو ہر صورت سے ثابت ہے) کیونکہ حق شرع میں منعت کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ پس جب یہ اصل ثابت ہوگئی تب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب عادل نے باغی کو قتل کیا تو یہ قتل برحق ہے اس لئے عادل اس مورث کی میراث سے محروم نہ ہوگا۔ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کہا ہے کہ اگر باغی نے عادل کو قتل کیا تو وہ ہر حال میں میراث سے محروم ہوگا۔ اس دلیل سے کہ تاویل فاسد کا اعتبار صرف ضمان دور ہونے میں ہوتا ہے۔ اور یہاں استحقاق ارث کی حاجت ہے اس لئے ارث کے بارے میں فاسد تاویل کا اعتبار نہ ہوگا۔ یعنی باغی قاتل اپنے مورث عادل کا وارث نہ ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہ و محمد رحمہما اللہ کہتے ہیں کہ یہاں محرومی کے ختم ہونے کی بھی ضرورت ہے یعنی اس لئے کہ آپس کی قرابت ہی سبب ارث ہے تو محرومی دور ہونے میں بھی فاسد تاویل معتبر ہو جائے گی۔ لیکن معتبر ہونے کی شرط یہ ہے کہ حقیقت میں وہ اس تاویل کو بیچ جانتا ہو یعنی یہ کہے کہ میں اس وقت حق پر تھا اسی لئے اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں باطل پر تھا تو ضمان ختم کرنے والی تاویل صحیح نہیں ہو سکے گی۔ اس لئے ضمان واجب ہو جائے گا۔ اس طرح وہ میراث سے بھی محروم ہو جائے گا۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جس وقت باغی نے قرآن و حدیث سے اپنے نزدیک ایک معنی نکالے اگرچہ حقیقت میں وہ معنی اس کی غلط سوچ اور فاسد سمجھ ہو۔ لیکن اس بناء پر جو اس نے جان اور مال برباد کیا ہے اس کا قصاص نہ لئے جانے کے لئے یہ تاویل معتبر ہوگی۔ جیسا کہ جب کافر لڑائی کے بعد مسلمان ہو جائیں تو ان پر قصاص لازم نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہ وہ اپنے اعتقاد میں شرک کو حق جانتا تھا حالانکہ وہ محض شیطان کی تاویل تھی جس کا اعتبار بھی کر لیا گیا یعنی اس سے قصاص نہیں لیا گیا۔ لہذا باغی کی تاویل جو قرآن سے ہے اس بارے میں بدرجہ اولیٰ معتبر ہوگی۔ کہ اس سے قصاص نہ لیا جائے۔

اب اس شبہ کا جواب کہ اس نے لڑائی میں ایسے مورث کو قتل کیا اور قانوناً قتل کرنے والا میراث سے محروم ہو جاتا ہے تو اب قاتل بھی میراث سے محروم ہوگا یا نہیں۔ حالانکہ اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر امام کے ساتھ ایک شخص اہل عدل میں سے ہو اور اس کا باپ باغیوں کے ساتھ ہو پھر بیٹے کے ہاتھ سے باپ مارا جائے تو بالاتفاق بیٹا اس کی میراث سے محروم نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باغیوں کے ساتھ قتال کا حکم دیا ہے۔ اور اگر باغی باپ کے ہاتھ سے بیٹا مارا جائے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ و امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا باپ مطلقاً محروم ہوگا۔ کیونکہ اس نے ناحق قتل کیا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی فاسد تاویل یہاں بھی کارآمد ہوگی۔ جیسے کفار کی بدعتی تاویل اس کے مسلمان ہو جانے کے بعد میراث سے محروم نہیں کرتی ہے۔ اسی لئے اگر باغی نے یہ کہا کہ میں اس وقت بھی حق پر تھا اور اب بھی حق پر ہوں۔ یعنی میں نے شریعت کے حکم کو جس حد تک سمجھا ہے یہی حق ہے۔ تو وہ محروم نہ ہوگا۔ اور اگر اب یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت باطل پر تھا تو گویا یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے مورث کو ناحق قتل کیا ہے اس لئے محروم ہو جائے گا۔

اہل فتنہ کے ہاتھ ہتھیار بیچنا مکروہ ہے

قَالَ وَيَكْرَهُ بَيْعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ وَفِي عَسَاكِرِهِمْ لِأَنَّهُ إِغَاةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَلَيْسَ بِبَيْعِهِ بِالْكُوفَةِ مِنْ أَهْلِ

الْكُوفَةُ وَمَنْ لَمْ يُعْرِفْ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ بَأْسَ لَأَنَّ الْغَلْبَةَ فِي الْأَمْصَارِ لِأَهْلِ الصَّلَاحِ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ بَيْعُ نَفْسِ السِّلَاحِ لَا بَيْعُ مَا لَا يُقَاتَلُ بِهِ إِلَّا بِصُنْعَةِ الْآتَرَى أَنَّهُ يُكْرَهُ بَيْعُ الْمَعَارِفِ وَلَا يُكْرَهُ بَيْعُ الْخَشَبِ وَ عَلَى هَذَا الْخَمْرُ مَعَ الْعَنْبِ

ترجمہ..... وَیُکْرَهُ بَيْعُ السِّلَاحِ..... الخ واضح ہو کہ اہل فتنہ کے ہاتھ اور ان کے لشکر میں ہتھیار بیچنا مکروہ ہے۔ کیونکہ اس طرح دوسرے کو گناہ کرنے پر مدد پہنچانا ہے۔ اور کوفہ میں وہاں کے باشندوں کے ہاتھ اور جس کو فتنہ بازوں (خوارج) میں سے کوئی نہ پہچانتا ہو اس کے ہاتھ ہتھیار بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ شہروں میں صالحین عادل بہت سے ہوتے ہیں۔ پھر مکروہ کام تو خود ہتھیاروں کو بیچنا ہے اور ایسی چیز بیچنا مکروہ بھی نہیں ہے جس سے بغیر بنائے ہوئے قتال نہیں ہو سکتا ہو جیسے لوہا وغیرہ۔ جیسا کہ ظنہورہ و ستارہ وغیرہ کو بیچنا تو مکروہ ہے۔ لیکن اس کی لکڑی وغیرہ کو بیچنا (جس سے کہ ظنہورہ بنتا ہے) مکروہ نہیں ہے۔ یہی حال شراب اور انگور کا ہے۔ (یعنی شراب بیچنا حرام ہے حالانکہ انگور بیچنا جائز ہے)۔





## کِتَابُ اللَّقِیْطِ

ترجمہ..... کتاب، لقیط کے بیان میں

لقیط کی وجہ تسمیہ اور لقیط اٹھانے کا حکم

اللَّقِیْطُ سُمِّیَ بِهِ بِاعْتِبَارِ مَالِهِ لِمَا أَنَّهُ یُلْقَطُ ۖ وَالْأُولَیْ لِقَاطُ مَنْذُوبٍ إِلَیْهِ لِمَافِیْهِ إِحْیَائُهُ وَإِنْ غَلَبَ عَلَیْ ظَنُّهُ ضِیَاعُهُ فَوَاجِبٌ

ترجمہ..... (یعنی آدمی کا بچہ جو کسی مقام پر لا وارث پڑا ہوا ملے۔ اور یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کس شخص کا بچہ ہے) لقیط (پڑے ہوئے بچہ) کا اس کے انجام کے لحاظ سے لقیط نام رکھا گیا ہے۔ کیونکہ وہ بچہ راہ سے اٹھایا جاتا ہے۔ (یعنی لقیط کے معنی لغت میں ہیں اٹھایا ہوا) اس طرح کے پڑے ہوئے بچہ کو اٹھالینا مستحب ہے کیونکہ ایسا کرنے سے اس بچہ کی پرورش ہوتی ہے۔ اور اگر اس دیکھنے والے کا گمان غالب یہ ہو کہ میرے نہ اٹھانے سے یہ ہلاک ہو جائے گا تو اسے اٹھالینا اس پر واجب ہوگا۔

لقیط آزاد ہے

قَالَ اللَّقِیْطُ حُرٌّ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِیْ بَنَى آدَمَ إِنَّمَا هُوَ الْحُرِّیَّةُ وَكَذَا الدَّارُ دَارُ الْأَحْرَارِ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْغَالِبِ وَنَفَقَتُهُ فِی بَيْتِ الْمَالِ هُوَ الْمَرْوُوعُ عَنْ عُمَرُ وَعَلِیٍّ وَلِأَنَّهُ مُسْلِمٌ عَاجِزٌ عَنِ التَّكْسِبِ وَلَا مَالَ لَهُ وَلَا قَرَابَةَ فَأَشْبَهَ الْمُقْعَدَ الَّذِیْ لَا مَالَ لَهُ وَلِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَالْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ وَلِهَذَا كَانَتْ جَنَائِزُهُ فِیْهِ وَالْمُلْتَقَطُ مُتَبَرِّعٌ فِی الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْوَلَایَةِ إِلَّا أَنْ یَأْمُرَهُ الْقَاضِیُّ بِهِ لِيَكُونَ دِیْنًا عَلَيْهِ لِعُمُومِ الْوَلَایَةِ

ترجمہ..... کہا کہ ایسا اٹھایا ہوا بچہ (لقیط) آزاد ہوتا ہے (غلام نہیں ہوتا ہے) کیونکہ آدمی میں اصل آزادی ہے۔ ویسے بھی دارالاسلام آزاد لوگوں کا ملک ہوتا ہے کیونکہ اس کے اکثر افراد ضرور آزاد ہوتے ہیں جبکہ اکثر کا اعتبار ہوتا ہے۔ (یعنی دارالاسلام میں اکثر لوگ آزاد ہیں تو ان کے لحاظ سے ان ہی کی طرح وہ بچہ بھی آزاد سمجھا جائے گا اور اگر (اتفاق سے) اس کے ساتھ کچھ مال بھی موجود ہو تو اس کا اصل خرچ نان و نفقہ اسی مال سے ہوگا۔ اور اس کو اٹھا کر لانے والا اسے اتھا کر صرف اسی مال سے اس کی پرورش کرے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کچھ مال وغیرہ نہ ہو تو نفقہ فی بیت المال الخ) تو اس کا خرچ بیت المال سے ہوگا۔ یہی بات حضرت عمر و علیؓ سے مروی ہے۔ (چنانچہ مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا میں اور عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف میں روایت کیا۔ ت) اور اس دلیل سے بھی کہ یہ لقیط مسلمان ہے جو کمانے اور آمدنی کرنے سے عاجز ہے اور کسی سے اس کا کوئی تعلق اور رشتہ داری بھی نہیں ہے۔ تو وہ ایسے لٹے کے مشابہہ ہو گیا جس کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو۔ (یعنی جس طرح اس لٹے کا نفقہ بیت المال سے ہوتا ہے اسی طرح اس لقیط کا نفقہ بھی بیت المال سے ہی ہوگا)۔

اور اس دلیل سے بھی کہ اگر اس لقیط کے پاس مرتے وقت کچھ مال موجود ہو تو وہ (اس کی میراث) بھی بیت المال میں جمع ہوتا ہے۔ اور بظاہر جس کو آمدنی حاصل ہو (پانے والا) وہی اس کا خرچ بھی برداشت کرے۔ اسی لئے اگر لقیط کوئی جرم کر لیتا ہے تو اس



کا خرچ بیت المال سے ہی پورا کیا جاتا ہے۔ اس لقیط کو اٹھانے والا (ملتقط) اس کی پرورش میں جو کچھ بھی اس کی ذات پر کرے گا وہ احسان کے طور پر ہوگا۔ کیونکہ اس لقیط (بچہ) پر اس پانے والے (ملتقط کو) کو کچھ حکومت اور ولایت نہیں ہے۔ لیکن اگر قاضی اس پر خرچ کرنے کے لئے اس ملتقط کو (اختیار بلکہ) حکم دے دے کہ تم اس پر خرچ کرتے رہو تا کہ تمہارا خرچ اس شخص پر قرض رہ جائے (یعنی اس کے بالغ ہونے کے بعد اس سے وصول کر لینا۔ تو ایسا ہی کرنا ہوگا) کیونکہ قاضی کی ولایت ہر شخص پر عام ہے۔ (اور اگر قاضی نے اس سے یہ بات نہیں کہی ہو کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس لقیط پر قرض رہے گا تو صرف پرورش کا حکم دینے سے اس لقیط پر قرض باقی نہیں رہے گا۔ یہی قول اصح ہے۔)

سب سے پہلے اٹھانے والا زیادہ مستحق ہے

قَالَ فَإِنِ التَّقْطَةُ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ ثَبَتَ حَقُّ الْحِفْظِ لَهُ لِسَبْقِ يَدِهِ

ترجمہ..... پھر اگر اس بچہ کو کوئی اٹھا کر لے آیا تو کسی دوسرے کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ اس ملتقط سے چھین لے یا مانگ لے کیونکہ پہلے لینے والے کو حفاظت کا حق حاصل ہو گیا ہے۔ اس لئے کہ اس کا ہاتھ اس پر پہلے پہنچا ہے۔

کسی نے لقیط کے نسب کا دعویٰ کیا تو کب معتبر ہوگا

فَإِنِ ادَّعَى مُدْعَى أَنَّهُ ابْنُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ يَدَّعِ الْمُتْلَقُ نَسَبَهُ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يُقْبَلَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ إِبْطَالَ حَقِّ الْمُتْلَقِ وَجْهُ الاسْتِحْسَانِ أَنَّهُ إِقْرَارٌ لِلصَّبِيِّ بِمَا يَنْفَعُهُ لِأَنَّهُ يَتَشَرَّفُ بِالنَّسَبِ وَ يُعِيرُ بَعْدَهُ ثُمَّ قِيلَ يَصَحُّ فِي حَقِّهِ دُونَ إِبْطَالِ يَدِ الْمُتْلَقِ وَقِيلَ يَتَنَبَّى عَلَيْهِ بَطْلَانٌ يَدِهِ وَلَوْ ادَّعَاهُ الْمُتْلَقُ قِيلَ يَصَحُّ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ عَلَى الْقِيَاسِ وَالْإِسْتِحْسَانِ وَقَدْ عُرِفَ فِي الْأَصْلِ.

ترجمہ..... اس کے بعد اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اسی کی بات مقبول ہوگی۔ اس مسئلہ کی صورت یہ ہوگی کہ پانے والے نے اس بچہ پر اپنے نسب کا دعویٰ کبھی نہیں کیا) بلکہ صرف پانے کا دعویٰ کیا ہے اور اس دوسرے نے تو اس پر اپنے نسب کا دعویٰ کیا ہے۔ اور ایسا نسب صرف دعویٰ سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ (یہ حکم استحسان کے ساتھ ہے۔ کیونکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا صرف دعویٰ نسب مقبول نہ ہو۔ کیونکہ وہ یہ دعویٰ کر کے اس پانے والے کی حفاظت کے حق کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ اس مدعی نسب کا قول اس بچہ کے حق میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات سے بچہ کو فائدہ حاصل ہو جائے۔ کیونکہ اس بچہ کا نسب ثابت ہونے سے اس کی بڑائی اور بزرگی بڑھتی ہے اور یہ نہ ہونے سے وہ ہمیشہ کے لئے ثبوت نسب سے محروم ہونے کے احساس سے شرمندہ ہوتا رہے گا۔ پھر ایک قول یہ ہے کہ مدعی کا دعویٰ صرف اس سے نسب ہونے میں صحیح ہوگا۔ لیکن اس سے اٹھا کر لانے والے کا قبضہ ختم نہیں ہوگا) کیونکہ وہ اسی کے پاس رہے گا۔ (اور دوسرا قول یہ ہے کہ نسب ثابت ہو جانے کی وجہ سے اس پانے والے کا قبضہ بھی اس سے باطل ہو جائے گا) (بچہ اس کے پاس سے چلا جائے گا) اور اگر پانے والے نے خود بھی اس بچہ پر نسب کا دعویٰ کر دیا تو کہا گیا ہے کہ قیاس اور استحسان دونوں اعتبار سے اس کا کہنا صحیح ہوگا۔ لیکن اصح قول یہ ہے کہ اس صورت میں بھی قیاس میں صحیح نہ ہوگا۔ اگرچہ استحسان سے صحیح ہوگا چنانچہ

مبسوط میں اس کی تصریح موجود ہے۔

دو مدعیوں نے نسب کا دعویٰ کیا اور ایک نے اس کے جسم پر علامت بتائی وہ زیادہ حقدار ہے

وَإِنْ ادَّعَاهُ إِنْسَانٌ وَوَصَفَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً فِي جَسَدِهِ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ لِمُوَافَقَةِ الْعَلَامَةِ كَلَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَصِفْ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً فَهُوَ ابْنُهُمَا لِاسْتَوَائِهِمَا فِي السَّبَبِ وَلَوْ سَبَقَتْ دَعْوَةُ أَحَدِهِمَا فَهُوَ ابْنُهُ لِأَنَّهُ ثَبَتَ حَقُّهُ فِي زَمَانٍ لَا مُنَازَعَ لَهُ فِيهِ إِلَّا إِذَا أَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ أَقْوَى

ترجمہ..... اور اگر اس پانے والے کے سوا دو آدمیوں نے اس پر نسب کا دعویٰ کر دیا لیکن ان میں سے ایک نے اس پائے ہوئے بچہ کے بدن میں کوئی خاص علامت بتائی تو وہی زیادہ حقدار اور اولیٰ ہوگا۔ کیونکہ بظاہر گواہ اسی کے ساتھ ہے۔ کیونکہ یہ علامت اس کے دعویٰ کے مطابق ہے۔ اور اگر کسی نے اس کی کوئی خاص علامت نہیں بتائی تو یہ بچہ ان دونوں کا لڑکا کہلائے گا کیونکہ دعویٰ کرنے میں دونوں برابر کے ہیں۔ اور اگر ان دونوں میں سے ایک نے پہلے دعویٰ کر دیا تب بچہ اسی کی طرف منسوب ہوگا کیونکہ اس کا حق ایسے وقت میں ثابت ہوا جبکہ اس کا کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ لیکن اگر دوسرے نے اس کے ساتھ اپنا مستقل گواہ بھی پیش کر دیا تو یہی مقدم اور زیادہ حقدار ہو جائے گا۔ کیونکہ علامات کے مقابلہ میں گواہی زیادہ قوی دلیل ہوتی ہے۔

بچہ مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر یا بستیوں میں سے کسی بستی میں پایا گیا

اور ذمی نے نسب کا دعویٰ کیا نسب ذمی سے ثابت ہوگا اور بچہ مسلمان ہوگا

وَإِذَا وَجِدَ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَاهِمُ فَأَدْعَى ذِمِّيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَكَانَ مُسْلِمًا وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ لِأَنَّ دَعْوَاهُ تَضَمَّنَ النَّسَبَ وَهُوَ نَافِعٌ لِلصَّغِيرِ وَابْطَالُ الْإِسْلَامِ الثَّابِتُ بِالذَّارِ وَهُوَ يَضُرُّهُ فَصَحَّتْ دَعْوَتُهُ فِيمَا يَنْفَعُهُ دُونَ مَا يَضُرُّهُ.

ترجمہ..... اور اگر پڑا ہوا بچہ مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں یا دیہاتوں میں سے کسی دیہات میں ملا۔ اور کسی ذمی نے اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ وہ میرا بیٹا ہے تو اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا۔ البتہ اس بچہ کو مسلمان مانا جائے گا۔ اور یہ حکم استحسان کی بناء پر ہے۔ کیونکہ اس ذمی کے دعویٰ میں دو باتیں ہیں ایک نسب کا ثبوت تو یہ بات اس بچہ کے حق میں مفید ہے۔ دوسری بات اس بچہ کے اسلام کو ختم کر کے ذمی ثابت کرنا۔ حالانکہ دارالاسلام میں اس بچہ کے پائے جانے سے اس کا حق اسلام ثابت ہے جس کو ختم کرنا اس بچہ کے حق میں نقصان دہ ہے۔ لہذا پہلا دعویٰ یعنی ثبوت نسب کا تو وہ صحیح مانا جائے گا۔ کیونکہ اسی میں بچہ کا فائدہ ہے۔ اور اسلام مٹانے کے بارے میں صحیح نہیں ہوگا کیونکہ یہ بچہ کے حق میں نقصان دہ ہے۔

بچہ اہل ذمہ کی بستیوں میں سے کسی بستی میں ہابیغہ یا کنیسہ میں پایا گیا تو ذمی ہو گیا

وَإِنْ وَجِدَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ فِي بَيْعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ كَانَ ذِمِّيًّا وَهَذَا الْجَوَابُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْوَاحِدُ ذِمِّيًّا وَآيَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كَانَ الْوَاحِدُ مُسْلِمًا فِي هَذَا الْمَكَانِ أَوْ ذِمِّيًّا فِي مَكَانِ الْمُسْلِمِينَ اخْتَلَفَتِ الرَّوَايَةُ



فِيهِ فَيُروَايَةُ كِتَابُ اللَّقِيطِ أُعْتَبِرَ الْمَكَانَ لِسَبْقِهِ وَفِي كِتَابِ الدَّعْوَى فِي بَعْضِ النُّسخِ أُعْتَبِرَ الْوَاحِدُ وَهُوَ رَوَايَةُ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ لِقَوَّةِ الْيَدِ لَا تَرَى أَنَّ تَبْعِيَّةَ لَابَوَيْنِ فَوْقَ تَبْعِيَّةِ الدَّارِ حَتَّى إِذَا سَبَى مَعَ الصَّغِيرِ أَحَدَهُمَا يُعْتَبَرُ كَافِرًا وَفِي بَعْضِ نُسَخَةِ أُعْتَبِرَ الْإِسْلَامَ نَظَرَ لِلصَّغِيرِ

ترجمہ... اور اگر وہ لقیط ذمیوں کے کسی گاؤں یا بیعہ یا کنیسہ میں پایا گیا تو بچہ ذمی مانا جائے گا۔ پھر اگر اس بچہ کو پانے والا کوئی ذمی شخص ہو تو بلا خوف یہی ایک روایت ہے کہ لقیط ذمی ہی ہوگا۔ اور اگر اس کا پانے والا کوئی مسلمان ہو جس نے ذمیوں کی ان جگہوں میں سے کسی جگہ میں پایا یا ذمی نے اسے مسلمانوں کی کسی جگہ پر پایا تو ان دونوں صورتوں میں مختلف روایتیں ہیں۔ چنانچہ کتاب اللقیط کی روایت میں پائے جانے کی جگہ کا اعتبار کیا گیا ہے۔ (یعنی اگر ذمیوں کی جگہ پر پایا گیا ہے تو ذمی ہے اگرچہ مسلمان نے پایا ہو۔ اور اگر مسلمانوں کی جگہ پر پایا گیا ہو تو وہ مسلمان ہے اگرچہ ذمی نے پایا ہے) اور کتاب الدعوی کی روایت میں بعض نسخوں میں پانے والے کا اعتبار ہے۔

(یعنی اگر پانے والا ذمی ہو تو وہ بچہ ذمی ہے اگرچہ اسے مسلمانوں کی جگہ پر پایا گیا ہو۔ اور اگر پانے والا مسلمان ہے تو وہ بچہ بھی مسلمان ہے۔ اگرچہ اسے ذمیوں کی جگہ پر پایا گیا ہو) اور ابن سماعہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہی روایت کی ہے۔ کیونکہ قابض کے قبضہ کو قوت ہوتی ہے اور اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ اسی لئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ والدین کے تابع جو بچہ ہوتا ہے اسے ملک کے تابع ہونے پر قوت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر بچہ کے ساتھ والدین میں سے کوئی ایک قید ہوا ہو تو بچہ کو کافر ہی مانا جاتا ہے۔ اور کتاب الدعوی کے بعض نسخوں میں بچہ کی بھلائی کا خیال کرتے ہوئے اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ (یعنی بچہ کو کوئی بھی پائے وہ خواہ مسلمان ہو یا ذمی ہو بچہ بہر صورت مسلمان ہی فرض کیا جائے گا۔ کیونکہ بچہ کے حق میں اسی میں بھلائی ہے)۔

کسی نے لقیط کے بارے میں غلام ہونے کا دعویٰ کیا اس کا قول قبول نہیں ہوگا

وَمَنْ ادَّعى أَنَّ اللَّقِيطَ عَبْدُهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِأَنَّهُ حُرٌّ ظَاهِرًا إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ

ترجمہ... اور اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ لقیط میرا غلام ہے تو یہ بات قبول نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ ظاہر حال وہ آزاد ہے۔ البتہ اگر وہ دعویٰ کے ساتھ گواہ بھی پیش کر دے کہ یہ اس کا غلام ہے۔ تو گواہ قبول کر لئے جائیں گے۔

غلام نے لقیط کے نسب کا دعویٰ کیا تو قبول ہوگا

فَإِنْ ادَّعى عَبْدًا أَنَّهُ ابْنُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ يَنْفَعُهُ وَكَانَ حُرًّا لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ قَدْ تَلَدَّ لَهُ الْحُرَّةُ فَلَا تَبْطُلُ الْحُرِّيَّةُ الظَّاهِرِيَّةُ بِالشَّكِّ

ترجمہ... اور اگر کسی غلام نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ لقیط میرا بیٹا ہے تو اس کی بات قبول کر لی جائے گی چنانچہ اس لڑکے کا نسب اس غلام سے ثابت ہو جائے گا۔ کیونکہ اس دعویٰ کے قبول کر لینے سے اس بچہ کا فائدہ ہے۔ (کہ اس کا نسب ثابت ہو گیا۔ البتہ) یہ بچہ آزاد ہوگا۔ کیونکہ کبھی کسی آزاد عورت سے بھی ایک غلام شوہر کو بچہ پیدا ہوتا ہے (جو آزاد ہوتا ہے) اس لئے شک کی وجہ سے بچہ کی آزادی باطل نہ ہوگی۔

آزاد کے دعویٰ کو غلام کے مقابلے میں اور مسلمان کے دعویٰ کو ذمی کے مقابلے میں ترجیح ہوگی  
وَالْحُرُّ فِي دَعْوَتِهِ اللَّقِيطُ أَوْلَى مِنَ الْعَبْدِ وَالْمُسْلِمُ أَوْلَى مِنَ الذِّمِّيِّ تَرْجِيحًا لِمَاهُوَ إِلَّا نَظَرُ فِي حَقِّهِ

ترجمہ..... اور لقیط (بچہ کے نسب) کے بارے میں دعویٰ کرنے میں اگر غلام و آزاد جمع ہو جائیں تو بہر صورت غلام کے مقابلہ میں آزاد بہتر ہوگا۔ (یعنی آزاد شخص سے بچہ کا نسب ثابت کیا جائے گا اور غلام کا دعویٰ رد کر دیا جائے گا)۔ اسی طرح ذمی کے مقابلہ میں مسلم اولیٰ ہوگا۔ کیونکہ اس بچہ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے اسی کو ترجیح ہوتی ہے (لہذا یہاں بھی آزاد اور مسلم کو بہ نسبت غلام اور ذمی کے ترجیح دی جائے گی)۔

لقیط کے ساتھ بندھا ہوا مال ہو تو وہ بچہ کا ہوگا

وَأِنْ وَجَدَ مَعَ اللَّقِيطِ مَالٌ مَشْدُودٌ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ إِعْتِبَارُ الظَّاهِرِ وَكَذَا إِذَا كَانَ مَشْدُودٌ أَعْلَى ذَابَّةٍ وَهُوَ عَلَيْهِ الْمَازِ كَرْنَا ثُمَّ يَصْرِفُهُ الْوَاجِدُ إِلَيْهِ بِأَمْرِ الْقَاضِي لِأَنَّهُ مَالٌ ضَالٌّ وَلِلْقَاضِي وَلَايَةٌ صَرَفٍ مِثْلِهِ إِلَيْهِ وَقِيلَ يَصْرِفُهُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي لِأَنَّهُ اللَّقِيطُ ظَاهِرًا

ترجمہ..... اور لقیط کے ساتھ اس سے بندھا ہوا کچھ مال بھی موجود ہو تو وہ مال بھی اسی بچہ کا ہوگا۔ اسی طرح اگر یہ مال ایسے جانور پر بندھا ہوا ہو جس پر وہ بچہ (لقیط) پایا گیا ہے تو وہ مال بھی اسی بچہ کا ہوگا۔ کیونکہ ظاہری حالت اس کی شاہد ہے۔ پھر جس شخص نے بچہ اور اس کے ساتھ مال کو پایا ہے وہی قاضی کی اجازت سے اس مال کو اسی بچہ پر خرچ کرے۔ کیونکہ اس مال کا دوسرا کوئی مالک و حافظ نہیں ہے اور ایسے مال کو لقیط پر خرچ کرنے کا اختیار صرف قاضی کو ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ قاضی کے حکم کے بغیر بھی یہ خرچ کر سکتا ہے۔ کیونکہ بظاہر یہ مال اسی لقیط کا ہے۔

لقیط پر مال خرچ کرنے کا اختیار قاضی کو ہے

وَلَهُ وَلَايَةٌ إِلَّا نِفَاقٌ وَشِرَاءٌ مَالًا بُدِّلَ مِنْهُ كَالطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ لِأَنَّهُ مِنَ الْإِنْفَاقِ لَهُ

ترجمہ..... اور ملتقط (پانے والے) کو یہ حق حاصل ہے کہ نفقہ کے طور پر مال خرچ کرے۔ (یعنی اس لقیط کے لئے جن جن چیزوں کی ضرورت ہو) مثلاً کھانا، کپڑا کہ یہ چیزیں اس لقیط کے لئے انفاق اور ضروری اخراجات ہیں۔

بچہ کا اس مال سے نکاح جائز نہیں

وَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمُتَلَقِّطِ لِإِعْدَامِ سَبَبِ الْوِلَايَةِ مِنَ الْقَرَابَةِ وَالْمِلْكِ وَالسُّلْطَانَةِ

ترجمہ..... لیکن اس بچہ کا اس مال سے نکاح کر دینا جائز نہیں ہے کیونکہ نکاح کرانے کے لئے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ اور ولی بننے کے لئے سبب ہوتا ہے قریبی رشتہ داری کا ہونا اور مالک ہونا۔ اور حکومت کا ہونا اور اس کے حق میں ان میں سے ایک بات بھی نہیں ہے۔ (اس لئے اگر اس پانے والے نے خود ولی نہ ہونے کے باوجود اس بچہ کا نکاح کر دیا تو جائز نہ ہوگا)۔



ملتقط لقیط کے مال کو کاروبار میں لگا سکتا ہے یا نہیں

قَالَ وَلَا تَصْرُفْهُ فِي مَالِ الْمُلتَقِطِ اِعْتِبَارًا بِالْأَمِّ وَهَذَا لِأَنَّ وَلَايَةَ التَّصْرِيفِ لِتَثْمِيرِ الْمَالِ وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِالرَّأْيِ الْكَامِلِ وَالشَّفَقَةِ الْوَافِرَةِ وَالْمَوْجُودِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَحَدُهُمَا

ترجمہ..... کہا اور لقیط (بچہ) کو پانے والا (ملتقط) اس بچہ کے مال میں (ضروریات زندگی کے سوا) خرچ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی مال پر قیاس کرتے ہوئے۔ یہ اس وجہ سے کہ تصرف کرنے کا حق کسی کو اس لئے دیا جاتا ہے کہ موجود مال کو وہ کسی طرح بڑھائے اور مال کو بڑھانا دو باتوں سے ہوتا ہے۔ (۱) رائے اور مشورے میں وہ کامل درجہ کا ہو (۲) اس کی شفقت بھی بھرپور پائی جا رہی ہو حالانکہ اس ملتقط میں ان دو باتوں میں سے صرف ایک بات پائی جاتی ہے (جیسا کہ ماں کے اندر بھی ایک ہی بات پائی جاتی ہے)۔ (یعنی چھوٹے بچہ کی مال میں بچہ پر شفقت تو ہوتی ہے مگر رائے میں وہ ناقص ہوتی ہے۔ اسی طرح لقیط کے مال میں اس کے پانے والے کے اندر اگرچہ رائے کامل ہوتی ہے لیکن اس کی شفقت بچہ پر مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اسی لئے وہ اس لقیط کے مال میں خرید و فروخت کرنے کے بارے میں تجارتی اور بڑے پیمانہ پر تصرف نہیں کر سکتا ہے۔

ملتقط لقیط کیلئے ہبہ پر قبضہ کر سکتا ہے

قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يَقْبِضَ لَهُ الْهَبَةُ لِأَنَّهُ نَفْعٌ مَحْضٌ وَلِهَذَا أَيْمَلِكُهُ الصَّغِيرُ بِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ عَاقِلًا وَتَمْلِكُهُ الْأُمُّ وَوَصِيَّهَا

ترجمہ..... اس ملتقط کے لئے یہ بات جائز ہوتی ہے کہ لقیط کے نام پر آئے ہوئے ہبہ کے مال پر قبضہ کر لے اور وصول کر لے۔ کیونکہ ایسا کرنے میں بچہ کا سراسر نفع ہے۔ اسی لئے خود بچہ بھی بشرطیکہ عقل و ہوش کا مالک ہو ایسے مال پر قبضہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح بچہ کی ماں اور (وصی) ماں نے جیسے وصیت کر دی ہو سب کو یہ اختیار ہوتا ہے۔

ملتقط کیلئے لقیط کو پیشہ اور ہنر سکھانے کا حکم

قَالَ وَيُسَلِّمُهُ فِي صِنَاعَةٍ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ تَشْقِيْفِهِ وَحِفْظِ حَالِهِ

ترجمہ..... اور ملتقط کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ اس لقیط کو کوئی پیشہ اور ہنر سکھنے میں لگا دے۔ کیونکہ یہ بات تو اس بچہ کی بہتری اور مستقبل میں حفاظت کی قسموں میں سے ہے۔ (جو اس کے لئے سراسر مفید ہے)

ملتقط کیلئے لقیط کو کرایہ اور مزدوری پر لگانے کا حکم

قَالَ وَيُؤَاجِرُهُ قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ وَهَذَا رَوَايَةُ الْقُدُورِيِّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَاجِرَهُ ذِكْرُهُ فِي الْكَرَاهِيَّةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى تَشْقِيْفِهِ وَوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ اِتِّلَافَ مَنَافِعِهِ فَاشْبهَ الْعَمَّ بِخِلَافِ الْأَمِّ لِأَنَّهُمَا تَمْلِكُهُ عَلَى مَا نَذَكُرُهُ فِي الْكَرَاهِيَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

ترجمہ..... اور (قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ) اس ملتقط کو اس بات کا بھی اختیار ہوتا ہے کہ اس بچہ (لقیط) کو کرایہ اور مزدوری و

ملازمت پر لگا دے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مختصر میں اس کی روایت کی ہے اور جامع صغیر میں مذکور ہے کہ ملتقط کے لئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اس بچہ کو اجارہ اور اجرت پر لگا دے۔ یہ مسئلہ کتاب الکراہیۃ میں مذکور ہے اور یہی قول اصح ہے۔

اور قدوری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کی وجہ یہ ہے کہ ملتقط کو اس بات کا اختیار نہیں ہوتا ہے کہ اس لقیط کے منافع کو تلف کر دے لہذا یہ ملتقط بچہ کے چچا کے مشابہ ہو گیا یعنی جس طرح اس کے چچا کو یہ اختیار نہیں ہوتا ہے کہ اپنے چھوٹے بھتیجے کو مزدوری اور کرایہ پر لگا دے اسی طرح ملتقط کو اس لقیط کے بارے میں اختیار نہیں ہے کہ برخلاف اس کی ماں کے کہ اسے اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ اپنے چھوٹے بچہ کو اجارہ پر لگا دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس مسئلہ کو ہم کتاب الکراہیہ میں مزید تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔





## کتاب اللقطة

ترجمہ..... کتاب، لقطہ (بروزن لقمہ) کے بیان میں

### لقطہ کی حیثیت

قَالَ اللَّقْطَةُ أَمَانَةٌ إِذَا اشْهَدَ الْمُتَلَقِّطُ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا لِيَحْفَظَهَا وَيَرْدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا لِأَنَّ الْأَخْذَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا بَلْ هُوَ الْأَفْضَلُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ الْوَاجِبُ إِذَا خَافَ الضَّيَاعَ عَلَى مَا قَالُوا أَوْ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا تَكُونُ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِذَا تَصَادَقَا أَنَّهُ أَخَذَهَا لِلْمَالِكِ لِأَنَّ تَصَادُقَهُمَا حُجَّةٌ حَقُّهُمَا فَصَارَ كَالْبَيِّنَةِ وَلَوْ أَقْرَأَهُ أَخَذَهُ لِنَفْسِهِ يَضْمَنُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَبِغَيْرِ إِذْنِ الشَّرْعِ وَإِنْ لَمْ يُشْهَدْ الشُّهُودَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْأَخْذُ أَخْذُهُ لِلْمَالِكِ وَكَذَبَهُ الْمَالِكُ يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفٍ لَا يَضْمَنُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ لِإِخْتِيَارِهِ الْحِسْبَةَ دُونَ الْمَعْصِيَةِ وَلَهُمَا أَنَّهُ أَقْرَبُ سَبَبِ الضَّمَانِ وَهُوَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ وَادَّعَى مَا يَبْرُهُ وَهُوَ الْأَخْذُ لِلْمَالِكِ وَفِيهِ وَقَعَ الشَّكُّ فَلَا يَبْرَأُ وَمَا ذَكَرَ مِنَ الظَّاهِرِ يُعَارِضُهُ مِثْلُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنْ يَكُونَ الْمُتَصَرِّفُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ وَيَكْفِيهِ فِي الْإِشْهَادِ أَنْ يَقُولَ مَنْ سَمِعْتُمُوهُ يُنْشِدُ لِقْطَةً فَدَلُّوهُ عَلَيْهِ وَاحِدَةً كَانَتْ اللَّقْطَةُ أَوْ أَكْثَرَ لِأَنَّهُ اسْمُ جَنْسٍ

ترجمہ..... (لقطہ راستہ وغیرہ کا ایسا پڑا ہوا مال جو اٹھالیا جائے۔) کہا قدوری نے کہ لقطہ اس شخص کے پاس امانت ہے جو اسے اٹھائے بشرطیکہ اس اٹھانے والے (ملتقط) نے اٹھاتے وقت اس پر کوئی گواہ بھی مقرر کر لیا ہو۔ اس بات پر کہ میں اسے اس لئے اٹھاتا ہوں کہ اس کی حفاظت کروں گا اور مالک سے ملاقات ہو جانے کی صورت میں اسے واپس کر دوں گا۔ کیونکہ اس غرض سے ایسے مال کو اپنی حفاظت میں لے لینے کی شرعاً اجازت ہے۔ (کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص لقطہ پائے وہ دو عادل گواہ مقرر کر لے۔ رواہ الحق)۔ بلکہ عموماً علماء کے نزدیک ایسے مال کو اسی طرح پڑا رکھنے سے اسے اٹھالینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ بلکہ ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ جب اس مال کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو تو اسے اٹھالینا یا لے لینا ہی واجب ہے۔ (جیسے ایسی بکری کی جس کے متعلق یہ خطرہ ہو کہ اسے کوئی کتیا یا بھیڑ یا وغیرہ پکڑ کر کھا جائے گا۔) ایسی صورت میں وہ مال اٹھانے والے کے ذمہ ضمانت کے طور پر نہیں بلکہ امانت کے طور پر ہوگا۔ (اس لئے اگر وہ مال ضائع ہو جائے تو اٹھانے والا شخص اس کا ضامن نہیں ہوگا۔) اسی طرح اگر خود مالک نے اس ملتقط کے بارے میں تصدیق کرتے ہوئے یہ کہا ہو (تجربہ کی بناء پر) کہ اس نے مالک کو پہنچانے کے لئے ہی اسے لیا تھا۔ تو وہ بھی امانت ہی ہوگا۔ کیونکہ ان دونوں (اصل مالک اور اس کے اٹھالینے والے) کا آپس میں متفق ہو جانا دونوں کے حق میں دلیل ہے۔ تو گویا ایسی صورت میں گواہی کے مانند ہو گیا۔ اور اگر اس اٹھالینے والے نے اس طرح کا اقرار کیا کہ میں نے تو اسے اپنے لئے لیا تھا۔ تو (اس کے ضائع ہو جانے کی صورت میں) بالا جماع وہ ضامن ہوگا۔ کیونکہ اس نے غیر کا مال اس کی اجازت کے بغیر اور شرعی اجازت کے بغیر ہی لیا تھا۔ اور اگر لینے والے نے اس کے لیتے وقت اس پر گواہ مقرر نہیں کیا تھا پھر بھی اس نے کہا کہ میں نے تو اسے اس کے مالک کو دینے کے لئے ہی اٹھایا تھا لیکن مالک نے اس ملتقط کو جھٹلایا تو امام ابو حنیفہؒ و امام محمدؒ کے نزدیک



ملتقط ضامن ہوگا۔ مگر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وہ ضامن نہیں ہوگا۔ اور اٹھانے والے کی ہی بات قبول کی جائے گی کیونکہ ظاہر حال اسی کے لئے گواہ ہے کیونکہ اس نے تو ایک نیک کام کیا تھا، برا کام نہیں کیا تھا (امام مالک و شافعی اور احمد رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔)

امام ابو حنیفہ و امام محمد رحمہما اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اس ملتقط نے خود ضمان لازم آنے کے سبب یعنی غیر مال لینے کا اقرار کیا ساتھ ہی ایسی بات کا بھی دعویٰ کیا جس سے وہ اس ضمان سے بری ہو جائے (یعنی یہ کہ میں نے یہ مال اس کے مالک کو دینے کے لئے لیا تھا) اور ان دونوں باتوں کی وجہ سے اصل بات میں شک پیدا ہو گیا اس لئے اس کے اقرار کر لینے سے جو ضمان اس پر یقینی لازم ہو چکا تھا وہ اس شک کی وجہ سے ختم نہ ہو گا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ظاہر حال کا ذکر کیا تو ویسی ہی ظاہر حالت اس کے مخالف بھی موجود ہے یعنی بظاہر ہر شخص جو کام بھی کرتا ہے وہ اپنی ہی ذات کے لئے کرتا ہے، واضح ہو کہ گواہ بنانے کے لئے اس ملتقط کا دوسرے سے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اگر تم لوگ کسی سے یا کہیں سے یہ سنو کہ وہ اپنی کسی گمشدہ چیز کے لئے اعلان کر رہا ہو تو تم اسے میرا نام اور پتہ بتا دو (یعنی اس چیز کی تعیین ضروری نہیں ہے۔) اور یہ بات بھی معلوم ہونی چاہئے کہ یہ حکم عام ہے کہ خواہ لقطہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو کیونکہ لقطہ اسم جنس ہے۔ (لیکن ملتقط کو چاہئے کہ اس چیز کی شناخت کرادے۔)

### لقطہ کا اعلان کتنے دن تک کیا جائے گا

قَالَ فَإِنْ كَانَتْ أَقَلُّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ عَرَفَهَا أَيَّامًا وَإِنْ كَانَتْ عَشْرَةً فَصَاعِدًا عَرَفَهَا حَوْلًا قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ وَ هَذِهِ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلُهُ أَيَّامًا مَعْنَاهُ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَى الْإِمَامُ وَقَدَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ بِالْحَوْلِ عَنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ التَّقَطُّ شَيْئًا فَلْيُعْرِفْهُ سَنَةً مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَجْهٌ الْأَوَّلُ أَنَّ التَّقْدِيرَ بِالْحَوْلِ وَرَدَّ فِي لِقْطِهِ كَانَتْ مِائَةً دِينَارٍ تُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَالْعَشْرَةُ وَرَمَّا فَوْقَهَا فِي مَعْنَى الْأَلْفِ فِي تَعْلُقِ الْقَطْعِ بِهِ فِي السَّرْقَةِ وَتَعْلُقِ اسْتِحْلَالِ الْفَرْجِ بِهِ وَلَيْسَتْ فِي مَعْنَاهَا فِي حَقِّ تَعْلُقِ الزَّكَاةِ فَأَوْجَبْنَا التَّعْرِيفَ بِالْحَوْلِ اِحْتِيَاطًا وَمَادُونِ الْعَشْرَةِ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْأَلْفِ بِوَجْهِ مَا فَوَضَّضْنَا إِلَى رَأْيِ الْمُتَبَتِّلِي بِهِ وَقِيلَ الصَّحِيحُ أَنَّ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَقَادِيرِ لَيْسَ بِإِلَازِمٍ وَيُفَوِّضُ إِلَى رَأْيِ الْمُتَلَقِّطِ يُعْرِفُهَا إِلَى أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنْ صَاحِبَهَا لَا يَطْلُبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهِ

ترجمہ..... قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر وہ لقطہ دس درہم سے کم کا ہو تو چند دنوں تک اس کی شناخت اور تشہیر کراتا رہے اور اگر وہ دس درہم یا اس سے زیادہ کا ہو تو ایک سال تک اس کی شناخت کرادے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ایک روایت ہے (اور ظاہر الروایت میں دس درہم سے کم کا ہو یا زیادہ کا ہر حال میں ایک سال تک شناخت اور اعلان کراتا رہے۔) اس جگہ یہ بات جو کہی ہے کہ چند دن اس کی شناخت کرادے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی رائے پر عمل کیا جائے کہ جتنا وہ کہے اتنے دن شناخت کراتا رہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط میں ایک سال کی تعیین کی ہے۔ اور اس میں کم قیمت یا زیادہ قیمت کے بارے میں کوئی تفصیل بیان نہیں کی ہے۔ امام مالک و شافعی رحمہما اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص لقطہ اٹھائے وہ

ایک سال تک اس کا اعلان کرنے۔ (رواہ الحق) اس میں بھی تھوڑے اور زیادہ کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ پہلی روایت کی وجہ یہ ہے کہ ایک سال کی تعیین ایسے لفظ کے بارے میں ہے جو سو دینار (قیمتی) ہزار درہم کچھ مساوی اور ہم نے دس درہم اور اس سے زیادہ کو بھی ہزار کے معنی میں اس بناء پر لیا ہے کہ دس درہم کی قیمت کے مال کی چوری پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اور دس درہم مہر مقرر ہونے سے عورت حلال ہو جاتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے مسئلہ میں دس درہم ہزار درہم کے معنی میں نہیں ہوتے ہیں۔ اس لئے دس درہم میں بھی ہم نے احتیاطاً ایک سال اعلان کی شرط لازم کی۔ اور جو مقدار دس درہم سے کم ہو وہ کسی طرح سے بھی ہزار کے معنی میں نہیں ہے۔ اسی لئے ہم نے اس کے اعلان کے بارے میں اس ملقط (مال اٹھانے والے) کے اپنے ذاتی فیصلہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اور بعض فقہاء نے فرمایا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ ان مدتوں میں کوئی مدت بھی لازمی نہیں ہے۔ بلکہ اس ملقط کی اپنی رائے پر موقوف ہے۔ وہ برابر اعلان کراتا رہے یہاں تک کہ اس کے غالب گمان میں یہ بات آجائے کہ اب اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اسے صدقہ کر دے۔

لقطہ ایسی شی ہو جو زیادہ دیر نہ رہ سکتی ہو اس کیلئے کتنی تعریف ضروری ہے

وَإِنْ كَانَتْ اللَّقْطَةُ شَيْئًا لَا يَتَقَيَّ عَرَفُهُ حَتَّى إِذَا خَافَ أَنْ يَفْسُدَ تَصَدَّقَ بِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَصَابَهَا وَفِي الْجَامِعِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى الْوُصُولِ إِلَى صَاحِبِهَا

ترجمہ..... اور اگر لقطہ ایسی چیز ہو جو رکھی نہیں جاسکتی ہو تو وہ جتنی دیر بھی اچھی حالت میں رہ سکے اس کی شناخت کرادی جائے۔ پھر جب اس کے خراب ہو جانے کا خوف ہونے لگے اسے صدقہ کر دے۔ مناسب یہ ہے کہ ایسی چیزوں کا اعلان اس جگہ سے کیا جائے جہاں پر وہ چیز پائی گئی ہو۔ اور ایسی جگہوں میں بھی جہاں لوگوں کا مجمع ہوتا ہو (جیسے بازار میں اور مسجدوں کے دروازے وغیرہ) کیونکہ ان جگہوں میں اعلان کرنے سے آسانی سے زیادہ شہرت ہو جاتی ہے اس طرح اصل مالک کو خبر ہو جانے کی امید غالب ہو جاتی ہے۔

اگر لقطہ معمولی شیء ہو جس کو مالک تلاش نہیں کرے گا تو ملقط بغیر اعلان کے نفع اٹھا سکتا ہے

وَإِنْ كَانَتْ شَيْئًا يَعْلَمُ أَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَطْلُبُهَا كَالنَّوَاةِ وَقُشُورِ الرُّمَانِ يَكُونُ الْقَاوُءُ بِأَبَاحَةٍ حَتَّى جَازَا لَا نَتَفَاعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْرِيفٍ وَلَكِنَّهُ مُبْقَى عَلَى مَالِكٍ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ مِنَ الْمَجْهُولِ لَا يَصِحُّ

ترجمہ..... اور اگر لقطہ کچھ ایسی چیز ہو جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرے گا۔ جیسے چھوڑے کی گٹھلیاں اور انار کے چھلکے تو ان کے پھینک دینے کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ جو اسے اٹھا لے اس کا ہے۔ یہاں تک کہ اسے اٹھا کر کسی اعلان کے بغیر اس سے نفع اٹھانا جائز ہے۔ پھر بھی وہ چیز اپنے مالک ہی کی ملکیت میں سمجھی جائے گی۔ کیونکہ غیر معلوم شخص کو مالک بنا دینا صحیح نہیں ہوتا ہے۔

اعلان کے بعد مالک لقطہ نہ آئے تو لقطہ کو صدقہ کر دیا جائے

قَالَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَلَا تَصَدَّقَ بِهَا إِيصَالًا لِلْحَقِّ إِلَى الْمُسْتَحِقِّ وَهُوَ وَاجِبٌ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَذَلِكَ بِإِيصَالِ عَيْنِهَا عِنْدَ الظَّهْرِ بِصَاحِبِهَا وَإِيصَالِ الْعَوَاضِ وَهُوَ الثَّوَابُ عَلَى اعْتِبَارِ إِجَازَتِهِ التَّصَدَّقُ بِهَا وَإِنْ شَاءَ أُمْسَكَهَا



## رَجَاءُ الظُّفْرِ بِصَاحِبِهَا

ترجمہ..... کہا قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر اعلان کے بعد لقطہ کا مالک آجائے تو وہ چیز اسی کو دے دی جائے۔ اور اگر بھرپور اعلان کے باوجود مالک نہ آئے تو اس چیز کو صدقہ کر دے تاکہ مستحق کو اس کا حق پہنچ جائے۔ یعنی جہاں تک ممکن ہو سکے حقدار کو اس کا حق پہنچانا واجب ہے اس طرح سے کہ اگر ممکن ہو تو بعینہ اصل لقطہ واپس کر دے اگر اس کا مالک مل جائے یا اگر اصل مالک نہ ملے تو اس شئی کا عوض یعنی ثواب پہنچا دے۔ بشرطیکہ یہ امید ہو کہ مالک کی طرف سے اس کی اجازت ہو جائے گی۔ اور اگر چاہے تو اسے اپنے پاس ہی اس امید کے ساتھ رہنے دے کہ شاید اس کا مالک آجائے (تب اسے واپس کر دوں گا)۔

## لقطہ صدقہ کرنے کے بعد مالک آجائے تو کس کو ضامن ٹھہرائے گا

قَالَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَعْنِي بَعْدَ مَا تَصَدَّقَ بِهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَمْضَى الصَّدَقَةَ وَلَهُ ثَوَابُهَا لِأَنَّ التَّصَدُّقَ وَإِنْ حَصَلَ بِإِذْنِ الشَّرْعِ لَمْ يَحْصُلْ بِإِذْنِهِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَتِهِ وَالْمَلِكُ يَثْبُتُ لِلْفَقِيرِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قِيَامِ الْمَحَلِّ بِخِلَافِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ لِثُبُوتِهِ بَعْدَ الْإِجَازَةِ فِيهِ

ترجمہ..... پھر اس چیز کو صدقہ کر دینے کے بعد اگر اس کا مالک آجائے تو اس کے مالک کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو اس کے صدقہ کرنے کو جائز رکھے اور اسے مان لے۔ اس طرح اس مالک کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ کیونکہ شریعت کی طرف سے اس صدقہ کی اجازت پائی گئی مگر اصل مالک کی اجازت نہیں پائی گئی تھی۔ اور اس کی اجازت ہونے سے پہلے ہی فقیر کا قبضہ اس پر ثابت ہو گیا۔ تو اس کی اجازت محل صدقہ قائم ہونے پر موقوف نہیں رہے گی۔ بخلاف بیع فضولی کے کیونکہ اس میں اجازت کے بعد ہی ملکیت ثابت ہوتی ہے۔

## ملتقط کو ضامن ٹھہرانے کا بھی اختیار ہے

وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُلتَقِطَ لِأَنَّهُ سَلَّمَ مَالَهُ إِلَى غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِلَّا أَنَّهُ بِإِبَاحَةِ مَنْ جِهَةِ الشَّرْعِ وَهَذَا لَا يُنَافِي الضَّمَانَ حَقًّا لِلْعَبْدِ كَمَا فِي تَنَاوُلِ مَالِ الْغَيْرِ خَالَةَ الْمَخْمَصَةِ

ترجمہ..... اور اگر مالک چاہے تو اس ملتقط سے اپنے مال کا تاوان وصول کر لے کیونکہ اس ملتقط نے اصل مالک کی اجازت حاصل کئے بغیر ہی اس کا مال فقیر کو دے دیا ہے۔ مگر شریعت کی طرف سے اس نے اجازت پا کر ایسا کیا ہے۔ پھر شریعت کی طرف سے اجازت کا ہونا بندہ کے حق میں اس کا تاوان لازم ہونے کے مخالف نہیں ہوگا۔ جیسے انتہائی مجبوری اور مخمَصہ کی حالت میں دوسرے کا مال کھا لینا (کہ اگرچہ شرعاً مباح ہے مگر وہ اس شرط کے ساتھ کہ کھانے والا بعد میں اس کا تاوان اس کے مالک کو دے گا)۔

## مسکین کو کب ضامن ٹھہرا سکتا ہے

وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمَسْكِينُ إِذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ لِأَنَّهُ قَبَضَ مَالَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِنْ كَانَ قَائِمًا أَخَذَهُ لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ

ترجمہ..... اور اگر وہ مال فقیر کے پاس ضائع ہو گیا ہو تو اس کا تاوان اس سے وصول کر لے کیونکہ فقیر نے اسی کا مال اس کی اجازت کے

بغیر لیا ہے اور (لقطہ کے اصل مالک کو یہ بھی اختیار ہے کہ) چاہے تو فقیر سے اپنا مال واپس لے لے اگر وہ سامان اس کے پاس محفوظ ہو کیونکہ اس نے اپنا اصل مال پالیا ہے۔

تشریح..... صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر لقطہ بوجہ صدقہ کسی فقیر کے پاس پایا گیا تو لقطہ کے اصل مالک کو یہ استحقاق حاصل ہے۔ کہ وہ لقطہ ضائع ہونے کی صورت میں تاوان وصول کرے۔ کیونکہ فقیر نے لقطہ کے اصل مالک کی اجازت کے بغیر اس (لقطہ) پر قبضہ کیا ہے۔ اگر وہ (لقطہ) موجود ہے تو پھر بھی واپس لینے کا مجاز ہے۔ کیونکہ یہ (لقطہ) اصل مالک کا عین مال ہے۔ جاننا چاہئے کہ مذکورہ زیر بحث صورت میں دو امور بیان کئے گئے ہیں۔

۱۔ فقیر سے صدقہ کے تاوان کی بحث۔

۲۔ عین مال کی بحث۔

وباللہ التوفیق دونوں امور کی مفصل بحث ملاحظہ ہو:

۱۔ فقیر سے صدقہ کے تاوان کی بحث..... لقطہ پانے والے شخص نے مدت پوری ہونے کے بعد اسے (لقطہ کو) صدقہ کر دیا اور وہ فقیر سے ضائع ہو گیا تو اس صورت میں مالک فقیر سے تاوان لینے کا مجاز ہے۔ کیونکہ فقیر نے لقطہ کے اصل مالک کی اجازت کے بغیر لقطہ پر قبضہ کیا ہے۔ گو کہ یہ قبضہ بطور صدقہ ملتقط کے ذریعے ہوا ہے۔ چونکہ لقطہ (گری پڑی چیز) پر خود ملتقط (لقطہ پانے والا) کا حق ملکیت کا تحقق نہیں ہوتا اس لئے بعد از صدقہ اس (لقطہ) پر فقیر کا حق ملکیت بھی ثابت نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ لقطہ (گری پڑی چیز) پانے کے بعد ملتقط کو ایک سال یا جب تک قاضی و بادشاہ یا خود ملتقط کے مناسب سمجھنے تک لقطہ کی تعریف و تشہیر کی صورت میں اصل مالک کو تلاش کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ جب ملتقط کا غالب گمان یہ ہوا کہ اب لقطہ کا اصل مالک نہیں ملے گا۔ تب لقطہ (گری پڑی چیز) کو صدقہ کرنے کی شرعی اجازت ہے۔ لیکن پھر بھی مالک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ صدقہ ہونے کے باوجود فقیر سے لقطہ ضائع ہونے کی صورت میں اپنا مال بطور تاوان اخذ کر لے۔ واللہ اعلم بالصواب

۲۔ عین مال کی بحث..... جاننا چاہئے کہ ”عین مال“ کا اطلاق ایسے مال پر ہوتا ہے جو فی الحقیقت ”اصل“ ہو اور گم ہونے یا تلف ہونے کی صورت میں اپنی اصل کا متبادل نہ ہو۔ کیونکہ اصل مال پر عوض کا اطلاق نہیں ہوتا۔ قطع نظر اس سے وہ (متبادل مال) بعینہ مال کے مانند ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً سونے یا چاندی کی کوئی چیز (انگوٹھی وغیرہ) اگر بعد از صدقہ فقیر کے ہاں سے کسی بھی صورت میں تلف ہو گئی اور مالک کو بطور تاوان واپس کرتے وقت سونے یا چاندی کی اسی طرح (تلف شدہ) چیز کے موافق ہے تو وہ ”عین مال“ متصور نہ ہوگا۔ اگرچہ متبادل مال سے تاوان ادا ہو جائے گا۔ اگر بعد از صدقہ فقیر کے پاس اصل مال موجود ہے تو وہ تاوان کی صورت میں واپس کرتے وقت ”عین مال“ ہوگا اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ”مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ“ (جس شخص نے اپنا عین مال پایا تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہوتا ہے) اس حدیث میں مطلقاً عین مال کے زیادہ استحقاق کا تحقق اصل مالک کے حق ملکیت پر متحقق کیا گیا ہے۔ مگر اس شرط کے ساتھ کہ اصل مالک اپنا عین مال ثابت کرنے کے لئے گواہ یا مکمل علامت بیان کرے۔ کیونکہ گواہ کا تحقق پختہ دلیل پر مبنی ہے اور علامت بیان کرنا گواہ کے قائم مقام ہے۔ چنانچہ ان (گواہ یا مکمل علامت) کی موجودگی سے ”عین مال“ پالینے کو متحقق کرتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب



## بکری، گائے، اونٹ کے لقطہ کا حکم

قَالَ وَيَجُوزُ الْإِلْتِقَاطُ فِي الشَّاةِ وَالْبَقَرِ وَالْبَعِيرِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إِذَا وَجَدَ الْبَعِيرَ وَالْبَقَرِ فِي الصَّحَرَاءِ فَالتَّرْكُ أَفْضَلُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْفَرَسُ لَهُمَا أَنْ الْأُصْلَ فِي أَخْذِ مَالِ الْغَيْرِ الْحُرْمَةُ وَالْإِبَاحَةُ مَخَافَةَ الضِّيَاعِ وَإِذَا كَانَ مَعَهَا مَا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا يُقْلُ الضِّيَاعُ وَلَكِنَّهُ يُتَوَهَّمُ فَيُقْضَى بِالْكَرَاهَةِ وَالنَّدْبِ إِلَى التَّرِكِ وَلَنَا أَنَّهَا لُقْطَةٌ يُتَوَهَّمُ ضِيَاعُهَا فَيُسْتَحَبُّ أَخْذُهَا وَتَعْرِيفُهَا صِيَانَةً لِمُؤَالِ النَّاسِ كَمَا فِي الشَّاةِ

ترجمہ..... اور لقطہ کے طور پر بکری و گائے اور اونٹ کو بھی پکڑ کر رکھ لینا جائز ہے۔ مگر امام مالک اور شافعی رحمہما اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر اونٹ و گائے کو جنگل میں کوئی پائے تو اسے چھوڑ دینا افضل ہے۔ (امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے)۔ اور یہ اختلاف گھوڑی کے بارے میں بھی ہے۔ امام مالک و شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ غیر کا مال لینے میں اصل حکم اس کا حرام ہونا ہے۔ البتہ اس کے مال کے ضائع ہونے کو پالینے کے خیال سے لے لینا بھی جائز ہے۔ اس لئے جب لقطہ ایسا مال یا جانور ہے جو خود کو غیر سے محفوظ کر سکتا ہو (جیسے گائے اور اونٹ میں ہے) تو اس کے ضائع ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس کا امکان اور اس کا ہم بھی باقی رہتا ہے۔ تو یہ حکم دیا جائے گا کہ اس کا پکڑنا فی الحال مکروہ ہے۔ اور نہ پکڑنا اچھا ہے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اونٹ اور گائے بھی ایک لقطہ ہی ہے جس کے ضائع ہونے کا خوف پورا رہتا ہے۔ اس لئے اسے پکڑ کر اعلان کر دینا مستحب ہوگا۔ تاکہ لوگوں کے جانور محفوظ رہ سکیں۔ جیسا کہ بکری کے بارے میں حکم ہے۔

تشریح..... قال ويجوز الخ جانوروں کے لقطہ ہونے کی صورت میں گائے اور اونٹ جیسے بڑے جانور چونکہ اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔ اس لئے اسے پکڑ کر حفاظت کرنے کی خاص ضرورت نہیں رہتی ہے۔ البتہ اگر بکری ہو تو اس کے ضائع ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے بطور لقطہ اسے پکڑ کر اس کی حفاظت قاضی کی اجازت کے ساتھ کرنی چاہئے۔ حضرت زید بن خالدؓ کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہؐ سے لقطہ کے بارے میں دریافت کیا۔ تو فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کیا جائے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ بھٹکی ہوئی بکری کا کیا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ تم اسے پکڑ لو کہ وہ تمہارے کسی بھائی کی ہے یعنی اصل مالک کی ہے یا تمہاری ہے یا بھٹیڑی کی ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہؐ پھر بھٹکے ہوئے اونٹ کا کیا حکم ہے۔ تو رسول اللہؐ غصہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے اور فرمایا کہ تم کو اس سے کیا تعلق ہے۔ کہ اس کے ساتھ ہی اس کے کھانے اور پینے کا انتظام موجود ہے۔ یہاں تک کہ اس کا مالک خود اسے پالے۔ (رواہ البخاری)

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم آپؐ نے ایسی صورت میں فرمایا ہے کہ اونٹ کے ضائع ہونے کا خوف نہ تھا۔ اس لئے اگر کسی وقت اس کے بارے میں خوف ہو تو اسے پکڑ لینا ہی اولیٰ ہوگا۔

## ملتقط نے بغیر اجازتِ حاکم کے لقطہ پر خرچ کیا تو تبرع شمار ہوگا

فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُلتَقِطُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْحَاكِمِ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ لِقُصُورٍ وَلَا يَتِمُّ عَنْ ذِمَّةِ الْمَالِكِ وَإِنْ أَنْفَقَ بِأَمْرِهِ كَانَ ذَلِكَ عَلَى صَاحِبِهَا لِأَنَّ لِلْقَاضِي وَلَا يَتِمُّ فِي مَالِ الْغَائِبِ نَظَرًا لَهُ وَقَدْ يَكُونُ النَّظَرُ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى مَا نَبَّيْنُ



ترجمہ..... فان انفق الملتقط پھر اگر جانور کو پکڑ لینے والے (ملتقط) نے اس جانور کو قاضی کی اجازت اور حکم کے بغیر از خود دانہ اور چارہ دیا تو اسے احسان کرنے والا کہا جائے گا۔ اور مالک پر اس کی ذمہ داری نہیں آئے گی کیونکہ اس ملتقط کی ذمہ داری محدود ہے دوسرے پر یہ شخص کچھ بھی لازم نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ اگر قاضی کے حکم سے جانور کو کھانا پینا دیا تو یہ خرچ جانور کے مالک پر قرض ہوتا جائے گا کیونکہ قاضی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ غائب شخص کے مال میں اس کی بہتری کے لئے انتظام کرے کبھی غائب شخص پر بھلائی کرتے ہوئے اس کے جانور کو نفقہ یعنی چارہ دانہ دینا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس مسئلہ کو ہم آئندہ پھر بیان کریں گے۔

### قاضی کے پاس لقطہ کو لے جایا گیا قاضی کیا فیصلہ کرے گا

وَإِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الْحَاكِمِ نَظَرَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ لِلْبَهِيمَةِ مَنَفَعَةٌ أَجَرَهَا وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ أَجَرِهَا لِأَنَّ فِيهِ إِبْقَاءَ الْعَيْنِ عَلَى مَالِكِهِ مِنْ غَيْرِ الزَّامِ الدِّينِ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ بِالْعَبْدِ الْآبِقِ

ترجمہ..... اذا رفع الخ اور جب لقطہ کے جانور کا معاملہ قاضی کے پاس پیش کیا جائے تو وہ اسے دیکھے۔ کہ اگر اس جانور سے کچھ آمدنی ہو سکتی ہو تو اسے وہ آمدنی حاصل کرنے لگا دے تاکہ اس آمدنی سے اس کا چارہ وغیرہ کا خرچ نکل سکے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے مالک کا مال مکمل طور پر اسی کی ملکیت میں رہے گا اور مالک پر کوئی قرض بھی لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح کسی کا غلام بھاگ گیا اور دوسرے شہر میں کسی نے اسے پکڑ لیا تو اگر قاضی کی اجازت کے بغیر اس غلام کی دیکھ بھال اور کھانے پینے کے سلسلہ میں کچھ خرچ کیا تو اس کے مالک پر نیکی اور احسان کا کام تو ہو گا مگر اس کے مالک پر اس کا کچھ قرض اور باقی لازم نہیں آئے گا کہ اس سے کچھ وصول کر سکے۔ البتہ اگر قاضی نے اسے دیکھ بھال کر اس کے لئے اسی قسم کا انتظام کر دیا یعنی اگر غلام سے کوئی آمدنی حاصل ہو سکتی ہو تو وہ آمدنی کی جائے اور اسی کی آمدنی سے اس پر خرچ کیا جائے تاکہ مالک کا غلام کسی قرض کے بغیر محفوظ رہ جائے جیسا کہ ابھی جانور کے بارے میں بیان ہوا۔

اگر لقطہ ایسی شے ہو کہ جس میں منافع نہ ہوں اور خرچ اس کی قیمت کو ختم کر سکتا ہے، حکم

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنَفَعَةٌ وَخَافَ أَنْ تَسْتَغْرِقَ النَّفَقَةَ قِيمَتَهَا بَاعَهَا وَأَمَرَ بِحِفْظِ ثَمَنِهَا إِبْقَاءً لَهُ مَعْنًى عِنْدَ تَعَدُّرِ إِبْقَائِهِ صُورَةً

ترجمہ..... اور اگر اس جانور سے فی الحال کوئی آمدنی نہ ہو سکتی ہو مثلاً بغیر دودھ کی بکری ہو اور قاضی کو خوف ہو کہ اس کے چارہ وغیرہ میں کچھ خرچ کرتے ہوئے اس بکری کی پوری قیمت ہی ختم ہو جائے گی تو وہ اسے بیچ دینے کا حکم دے گا اور اس قیمت کو کہیں محفوظ کر دے گا۔ تاکہ مالک کا مال اگر صورتہ محفوظ نہ رہ سکے تو کم از کم معنی یعنی اس کی قیمت محفوظ رہ جائے اور یہ بات اسے فروخت کئے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اس صورت میں کہ اگر اس کے فروخت کرنے ہی میں بہتری کی امید ہو۔

اگر لقطہ پر خرچ کرنے میں مصلحت ہو تو خرچ کی اجازت دیدے اور نفقہ کو مالک پر دین کر دے

وَإِنْ كَانَ الْأَصْلَحُ إِلَّا نِفَاقُ عَلَيْهَا أَذِنَ فِي ذَلِكَ وَجَعَلَ النَّفَقَةَ دَيْنًا عَلَى مَالِكِهَا لِأَنَّهُ نَصَبَ نَاطِرًا أَوْ فِي هَذَا نَظَرًا مِنَ الْجَانِبَيْنِ قَالُوا إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْإِنْفَاقِ يَوْمَئِذٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى رَجَاءً أَنْ يَظْهَرَ مَالِكُهَا فَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ



يَأْمُرُ بِبَيْعِهَا لِأَنَّ دَارَةَ النِّفْقَةِ مُنْتَاصِلَةٌ فَلَا نَظَرَ فِي الْإِنْفَاقِ مُدَّةً مَدِيدَةً قَالَ وَفِي الْأَصْلِ شَرْطُ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَضَبًا فِي يَدِهِ وَلَا يَأْمُرُ فِيهِ بِالْإِنْفَاقِ وَإِنَّمَا يَأْمُرُ بِهِ فِي الْوَدِيعَةِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَيِّنَةِ لِكَشْفِ الْحَالِ وَلَيْسَتْ الْبَيِّنَةُ تَقَامُ لِلْقَضَاءِ وَإِنْ قَالَ لَا بَيِّنَةَ لِي يَقُولُ الْقَاضِي لَهُ أَنْفَقَ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فِيمَا قُلْتَ حَتَّى تَرْجِعَ عَلَى الْمَالِكِ إِنْ كَانَ صَادِقًا وَلَا يَرْجِعُ إِنْ كَانَ غَاصِبًا وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ وَجَعَلَ النِّفْقَةَ دَيْنًا عَلَى رَأْسِهَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَالِكِ بَعْدَ مَا حَضَرَ وَلَمْ تَبِعِ اللَّقْطَةُ إِذَا شَرَطَ الْقَاضِي الرَّجُوعَ عَلَى الْمَالِكِ وَهَذِهِ رِوَايَةٌ وَهِيَ الْأَصَحُّ

ترجمہ..... اور اگر حاکم کے نزدیک یہی بات بہتر ہو کہ اس جانور کو نفقہ (دانہ یا چارہ) دیا جائے تو اس ملقط کو اس بات کی اجازت دے دے اور اس کے خرچ کو اس کے مالک کے ذمہ قرض قرار دے دے۔ (یعنی بطور قرض اس پر خرچ کرتا رہے) کیونکہ حاکم کو ہر ایک پر نظر رکھنے کا حکم ہے۔ اور مذکورہ انتظام ہی میں اصل مالک اور اس ملقط پر بہتری کی نظر ہوگی۔ اس موقع میں مشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حاکم ملقط کو صرف دو یا تین دن جو مناسب سمجھے دانہ اور چارہ دینے کا حکم دے۔ اس امید پر کہ شاید ان دو تین دنوں میں مالک آ جائے۔ اب اگر اس وقت تک مالک نہ آئے تو اس جانور کو فروخت کرنے کا اسے حکم دے دے کیونکہ اسی طرح اسے چارہ مستحق یا بہت زیادہ دنوں تک کھلاتے رہنے سے جانور کی اصل قیمت سے اس وقت کا خرچ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس طرح وہ جانور فروخت ہو کر ہاتھ سے بالکل نکل جائے گا۔ اور ایسا کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط میں شرط لگائی ہے کہ نفقہ کا حکم اس وقت دے گا جبکہ اس بات پر گواہ پیش کر دے۔ اور یہی قول صحیح ہے۔ کیونکہ یہاں یہ احتمال رہتا ہے کہ شاید اس شخص نے اس جانور پر غصب کے طور پر قبضہ کر رکھا ہو۔ حالانکہ ایسی صورت میں تو قاضی کبھی بھی اسے نفقہ دینے کا حکم نہیں دے گا۔ بلکہ صرف امانت کی صورت میں حکم دے سکتا ہے۔ اس لئے امانت رکھنے پر گواہی کا ہونا ضروری ہوگا۔ تاکہ حقیقت حال کچھ معلوم ہو۔ یہ گواہی اس لئے نہیں ہوگی کہ قاضی کا حکم ثابت ہو۔ (جس میں مدعا علیہ کو فکر کی ضرورت ہوتی ہے) اور اگر ملقط نے گواہ پیش کرنے سے انکار کر دیا تب قاضی اُسے یہ کہے گا کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو (جس کی حقیقت بعد میں ظاہر ہوگی) تو اس کو دانہ چارہ دیا کرو۔ اگر دفعۃً وہ سچا ثابت ہو جائے تو مالک سے یہ خرچ واپس لے گا۔ اور اگر اس کا غاصب ہونا ثابت ہو جائے تو خرچ واپس نہیں ملے گا۔ اور کتاب میں جو یہ فرمایا ہے کہ قاضی یہ نفقہ اس کے مالک پر فرض ہونے کا حکم دے گا۔ تو اس کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس جانور کے مالک آ جانے کے بعد اگر جانور فروخت نہیں کیا گیا اور قاضی پہلے ہی جانور کے نفقہ کو مالک پر قرض ہونے کے بارے میں کہہ چکا ہو تو یہ ملقط اپنا پورا خرچ جانور کے مالک سے اسی صورت میں واپس لے سکتا ہے کہ قاضی نے قرض کے طور پر مالک سے واپس لینے کی شرط کر دی ہو اور یہی روایت اصح ہے۔ (اور اگر صرف خرچ کرنے کے لئے تو کہا مگر مالک پر اسے قرض ہونے کی شرط نہیں کی ہو تو اس سے واپس نہیں مانگ سکتا ہے)۔

تشریح..... ملقط شخص جانور کو قاضی کے سامنے پیش کرے گا قاضی دو تین دن تک جانور پر خرچ کرنے کا حکم دے گا کہ مالک کے آنے کا احتمال ہے اور یہ کم مدت مالک کے حق میں بہتر ہے اور زیادہ مدت میں بہتری کا پہلو نہیں اور ملقط کا قیام شہادت ضروری ہے تاکہ غصب کا احتمال دور ہو جائے اور ملقط اس خرچ کو مالک سے لینے کا اختیار رکھتا ہے جبکہ قاضی نے نفقہ کیلئے قرض کی شرط لگائی ہے۔



۱۔ قاضی کے ہاں بہتر صورت ..... جب کوئی لقطہ قاضی کے سامنے پیش کیا جائے تو اس وقت قاضی کو چاہئے کہ اپنی رائے کے پیش نظر ایسا فیصلہ کرے جو ملقط اور لقطہ جانور کے اصل کے حق میں مناسب ترین ہو۔ کیونکہ قاضی بحیثیت نگہبان کے ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر قاضی کے نزدیک بہتر صورت یہ ہو کہ لقطہ جانور کو نفقہ دیا جائے تو پھر قاضی ملقط کو لقطہ جانور کے لئے نفقہ کی اجازت دیتے ہوئے یہ شرط عائد کرے کہ یہ نفقہ اصل مالک پر قرض ہے۔ تاوقتیکہ اصل مالک ظاہر ہو۔ اگر اصل مالک مقررہ مدت تک ظاہر نہیں ہوتا اور لقطہ جانور کو نفقہ دینا بھی دشوار ہے تو اس صورت میں قاضی کو چاہئے کہ وہ لقطہ جانور کو فروخت کرنے کا فرمان جاری کرے۔ کیونکہ نفقہ نہ ملنے کے باعث لقطہ کے ضیاع کا اندیشہ ہے جب کہ جانور کو بھوکا رکھ کر موت کی وادی میں دھکیلنا بجائے خود گناہ ہے۔ اس لئے لقطہ جانور کو فروخت کرنا ہی بہتر صورت ہے۔

الغرض کہ نفقہ کا بندوبست ہونے کی صورت میں لقطہ جانور کے اصل مالک پر قرض کو برقرار رکھنے کی شرط پر ملقط کو نفقہ کا حکم دینا بہتر ہے ورنہ فروخت کرنا بہتر ہوگا۔

۲۔ کم مدت میں بہتری کی بحث ..... لقطہ جانور کو نفقہ دینے کے حوالے سے کم مدت کی مقدار زیادہ بہتر ہے۔ مشائخ فقہاء نے صرف دو یا تین دن یا جس قدر قاضی کی رائے ہو۔ اسے (ملقط کو) ظہور مالک کی امید پر نفقہ دینے پر مبنی حکم کو ترجیح دی ہے۔ کیونکہ کم مدت میں بہتری ہے۔ بایں وجہ کہ کم مدت کی مقدار مقرر کرنے سے لقطہ جانور کو کھونے میں تحفظ میسر ہوتا ہے۔ بخلاف دراز مدت کے کہ اس میں مسلسل نفقہ جاری رکھنے کی اذیت پائی جاتی ہے۔ جو ملقط کی لاپرواہی کی نظر ہو سکتی ہے۔ جس سے لقطہ جانور کے کھودینے کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ اور پھر کم مدت پر مبنی مقدار مشائخ فقہاء کی ترجیح پر مبنی ہے۔ یہ فقہی اصول ہے کہ اگر کسی روایت کو مشائخ نے ترجیح دی تو مطلقاً اس کی پیروی کی جائے گی۔

اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر وہ مشائخ (امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر) زندہ ہوتے تو ان کے فتویٰ پر عمل کرنا ضروری ہوتا۔ اسی طرح ان (مشائخ) کی ترجیحات پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ مذکورہ زیر بحث صورت میں لقطہ جانور کو نفقہ دینے کی مدت مقرر کرنے کے حوالے سے مشائخ کی ترجیح یہی ہے کہ لقطہ جانور کو دو یا تین دن تک نفقہ دینے کا حکم دیا جائے۔ اور وہ (کم از کم مدت) دو یا تین دن پر منحصر ہے۔ چونکہ ہر قول میں ترجیح کا دار و مدار دلیل پر ہوتا ہے اور مذکورہ زیر بحث مسئلہ میں نفقہ کی مدت کے حوالے سے ترجیح پر مبنی دلیل یہ ہے کہ برابر نفقہ جاری رکھنا لقطہ جانور کو ضائع کر دے گا۔ چنانچہ عرصہ دراز تک نفقہ دینے میں کوئی بہتری نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

۳۔ الاصل کی شرط پر مبنی بحث ..... متن ہدایہ میں ہدایہ کے مصنف علیہ الرحمۃ نے امام محمد کی مبسوط کے حوالے سے شرط کا تذکرہ کیا ہے کہ امام محمد نے الاصل (مبسوط) میں صحیح قول پر مبنی یہ شرط عائد کی ہے کہ لقطہ جانور کو نفقہ دینے کے لئے قاضی اس وقت حکم دینے کا مجاز ہو گا۔ کہ جب ملقط (لقطہ پانے والا) گواہ قائم کرے۔ کیونکہ لقطہ امانت ہوتا ہے اور امانت کی صورت میں گواہی لازمی امر ہے۔ اور یہ گواہی حکم قاضی کے تحقق کے لئے لازمی نہیں۔ بلکہ لقطہ کو امانت ثابت کرنے کی غرض سے مستلزم ہے۔ کیونکہ جس امر میں گواہ قائم کئے جاتے ہیں۔ اس میں مدعا علیہ منکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کہ حکم قاضی کی حیثیت مدعا علیہ منکر کی نہیں ہوتی۔ لہذا صحیح قول کے بموجب



”الأصل“ (امام محمد کی مبسوط) کی شرط کی رو سے لقطہ کو نفقہ دینے کے حوالے سے قاضی کے حکم کیلئے ملتقط پر گواہ قائم کرنا مشروط ہوگا۔ تاکہ لقطہ جانور کی امانت کا تحقق ہو سکے۔ چنانچہ اگر ملتقط نے گواہ قائم کر دیئے تو بحکم قاضی وہ (ملتقط) لقطہ جانور کو نفقہ دے گا اور مالک سے خرچہ واپس لے گا۔

۴۔ احتمال غصب کی بحث..... اگر ملتقط (لقطہ پانے والا) نے گواہ قائم نہ کئے تو اس میں غصب کا احتمال پایا جاتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی لقطہ حاصل ہوتا ہے تو نہ صرف اس کی تعریف و تشہیر کی جاتی ہے بلکہ لوگوں کو مخاطب کر کے یہ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ جس کا یہ لقطہ ہو وہ مجھ سے لے جائے۔ چنانچہ مالک کو لقطہ واپس کرنے پر لوگوں کو گواہ کرنے کیلئے صرف تعریف و تشہیر کا عمل کافی ہے۔ اگر ملتقط نے اپنی ذات کے لئے لقطہ اخذ کیا اور تعریف و تشہیر کا اہتمام نہیں کیا تو اس کا یہ عمل نہ صرف حرام ہے بلکہ لقطہ غصب کرنے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لقطہ کو امانت ثابت کرنے اور احتمال غصب کو دور کرنے کے لئے گواہ ضروری ہیں۔ اگر ملتقط نے گواہ پیش نہیں کئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ (ملتقط) نے لقطہ کو اپنی ذات کے لئے اٹھایا تھا جو کہ تحقق غصب کو متحقق (ثابت) کرتا ہے۔ چنانچہ کشف حال کے لئے ضروری ہے کہ لقطہ کو امانت ثابت کیا جائے تاکہ قاضی صحیح صورت حال سامنے آنے پر درست فیصلہ کر سکے۔ اس لئے قاضی ملتقط کو یہ کہے گا کہ اگر تو (ملتقط) اپنے قول میں سچا ہے تو (لقطہ جانور) کو نفقہ دے ورنہ وہ (ملتقط) غاصب متصور ہوگا۔ بشرطیکہ ملتقط گواہ پیش کرنے سے قاصر ہو۔

۵۔ عبارت قدوری کی بحث..... مذکورہ زیر بحث صورت کے حوالے سے ہدایہ کے متن میں لفظ ”کتاب“ سے ایک عبارت کا تذکرہ ہے جس پر احتمال کا تحقق ہوتا ہے۔ چنانچہ ”کتاب“ سے مراد ”قدوری“ ہے اور اس میں احتمالی عبارت یہ ہے۔ قَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ وَ جَعَلَ النَّفَقَةَ دَيْنًا عَلَى صَاحِبِهَا (کتاب میں جو یہ فرمایا کہ قاضی یہ نفقہ اس کے مالک پر قرض قرار دے) اس قول میں یہ اشارہ ہے کہ جب ملتقط حاضر ہو۔ لقطہ کا جانور فروخت نہ کیا گیا ہو اور قاضی نے نفقہ کا حکم دے دیا تو ملتقط (لقطہ پانے والا) جانور کے مالک سے اپنا خرچ واپس لینے کا مجاز ہے۔ بشرطیکہ قاضی نے بطور قرضہ مالک سے رجوع کو مشروط کیا ہو۔ یعنی قاضی نے صرف نفقہ دینے کا حکم دیا اور اسے قرض قرار نہیں دیا تو ملتقط نفقہ کا خرچ واپس لینے کا مجاز نہیں ہے۔ اگر قاضی نے لقطہ جانور کے لئے ملتقط کو نفقہ کا حکم دیتے وقت اسے (نفقہ کو) قرض قرار دیا تو وہ (ملتقط) مالک سے واپس لینے کا استحقاق رکھتا ہے اور یہی قول اصح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایہ کے مصنف نے قولہ فی الکتاب سے اصح قول نقل کیا ہے۔

۶۔ صحیح و اصح کی بحث..... مذکورہ زیر بحث صورت پر مبنی ہدایہ کے متن میں مذکور عبارت کے اندر امام محمد کی مبسوط (الأصل) کے حوالے سے صحیح قول (برائے مسئلہ قیام شہادت) پیش کیا ہے۔ اور اسی (زیر بحث) صورت کے آخر میں قولہ فی الکتاب (قدوری) کے حوالے سے اصح قول (در مسئلہ نفقہ برائے قرض) ذکر کیا ہے۔ (جن کی تفصیلی بحث پہلے گزر چکی ہے) چنانچہ صحیح قول سے بہ یفتی، الفتویٰ علیہ سے زیادہ مؤکد قول مراد ہے۔ یا کسی قول کا صحیح ہونا اغلب و اکثر کے اعتبار سے ہے چنانچہ امام محمد نے الأصل (مبسوط) میں قیام شہادت کے قول کو صحیح قرار دے کر زیادہ غالب و اکثر رائے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اور قدوری میں نفقہ کو مالک پر قرض قرار دینے کے قول کو ”اصح“ کہا گیا ہے جو صحیح کے مقابلے میں زیادہ مؤکد متصور ہوتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ بہ یفتی، الفتویٰ علیہ سے زیادہ موزوں ہوا صحیح پر مبنی قول ہوتا ہے اور صحیح کے مد مقابل ”صحیح“ پر مبنی قول زیادہ وزن رکھتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

مالک حاضر ہو جائے تو ملتقط مالک کے نفقہ حاضر کرنے تک لقطہ کو روک سکتا ہے

قَالَ فَإِذَا حَضَرَ يَعْنِي الْمَالِكُ فَلِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْضُرَ النَّفَقَةُ لِأَنَّهُ يُجِبُّ بِنَفَقَتِهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ اسْتَفَادَ الْمِلْكَ مِنْ جِهَتِهِ فَأُشْبِهَ الْمَبِيعَ وَأَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ رَأْدُ الْأَبْقِ فَإِنَّ لَهُ الْحَبْسَ لِإِسْتِيفَاءِ الْجُعْلِ لِمَا ذَكَرْنَا ثُمَّ لَا يَسْقُطُ دَيْنُ النَّفَقَةِ بِهَلَاكِهِ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ قَبْلَ الْحَبْسِ وَيَسْقُطُ إِذَا هَلَكَ بَعْدَ الْحَبْسِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِالْحَبْسِ شَبِيهَ الرَّهْنِ

ترجمہ..... پھر اگر قاضی کے حکم کے بعد مالک آ گیا تو اس ملتقط کو یہ اختیار ہوگا کہ جانور اس کے حوالہ کرنے سے انکار کر دے یہاں تک کہ وہ پچھلا تمام خرچ لا کر اسی ملتقط کو دے دے۔ کیونکہ اسی کے خرچ کرنے سے جانور زندہ رہا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے گا کہ گویا یہ ملتقط کی اجازت سے اس جانور کا مالک ہو گیا ہے۔ اور اب وہ جانور گویا اس کے ہاتھوں فروخت ہو گیا ہے۔ (یعنی جتنا اس نے خرچ کیا ہے اسی انداز سے یہ جانور اس ملتقط کے پاس بک گیا ہے۔) اور اسی صورت کے قریب تو وہ شخص بھی ہے جو کسی کے بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کر لے آیا۔ کیونکہ اسے بھی اختیار ہے اپنا وہ خرچ اس مالک سے پہلے وصول کر لے جو اس نے اس کی حفاظت میں کیا ہے۔ اس کے بعد ہی یہ غلام اس کے حوالہ کرے۔ اس کی وجہ بھی وہی ہے جو ابھی بیان کی گئی ہے۔ پھر اگر جانور کو روک لینے اور مالک کے حوالہ کرنے سے انکار سے پہلے اسی ملتقط کے قبضہ میں جانور ہلاک ہو گیا تو اس کے خرچ کے سلسلہ کا قرض ختم نہیں ہوگا۔ البتہ اگر روکنے کے بعد جانور ہلاک ہو تو وہ قرض بھی ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ جانور کے روکنے کی وجہ سے اب یہ مسئلہ رہن کے مشابہ ہو گیا۔ اور رہن رکھا ہو مال جس کے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے اگر اس کے پاس ہلاک ہو جاتا ہے تو وہ قرضہ کے بدلہ ختم ہو جاتا ہے۔

### حل اور حرم کے لقطہ کا حکم

قَالَ وَلِقُطَةُ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ سَوَاءٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجِبُ التَّعْرِيفُ فِي لُقُطَةِ الْحَرَمِ إِلَى أَنْ يَجْزِيَ صَاحِبُهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْحَرَمِ وَلَا يَحِلُّ لُقُطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدِهَا وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَانَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ وَلَا تَهَا لُقُطَةً وَفِي التَّصَدُّقِ بَعْدَ مُدَّةِ التَّعْرِيفِ إِبْقَاءُ مِلْكِ الْمَالِكِ مِنْ وَجْهِ فِيمِلْكِهِ كَمَا فِي سَائِرِ هَلَوَاتٍ وَأَوِيلُ مَا رَوَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِلتَّعْرِيفِ وَالتَّخْصِصِ بِالْحَرَمِ لَبَيَانٍ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ التَّعْرِيفُ فِيهِ لِمَكَانٍ أَنَّهُ لِلْعُرْبَاءِ ظَاهِرًا

ترجمہ..... قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حرم مکہ اور اس کے باہر حل دونوں جگہوں کا لقطہ برابر ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حرم کے لقطہ کا اعلان کرانا یہاں تک واجب ہے کہ اس کا مالک آ جائے۔ کیونکہ رسول اللہ نے حرم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کا لقطہ صرف اس شخص کے لئے حلال ہے جو اس کا اعلان کرائے۔ (بخاری اور مسلم دونوں نے اس کی روایت کی ہے۔)



ہماری دلیل..... یہ ہے کہ رسول اللہؐ نے لقطہ پانے والے کو فرمایا ہے کہ تم اس کے ظرف اور اس کی بندھن کو محفوظ کر لو اور ایک سال تک اس کا اعلان کرو۔ صحاح ستہ نے اس کی روایت کی ہے۔ حالانکہ اس حکم میں حل ہونے یا حرم ہونے کی کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی ہے۔ اور اس دلیل سے بھی کہ حرم کا لقطہ بھی ایک لقطہ ہی ہوتا ہے اور اعلان کی مدت کے بعد صدقہ کرنے میں ایک طرح کی ملکیت اس کے مالک کے لئے باقی رکھنی ہوتی ہے۔ اس لئے دوسرے لقطوں کی طرح اس میں بھی مالک ہو جائے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث روایت کی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا لقطہ اٹھا لینا صرف اسی کے لئے حلال ہے جو اس کے بارے میں اعلان کر دے۔ پھر حرم کو خاص کر اس بات کو ظاہر کرنے کے لئے بیان کیا گیا ہے کہ حرم کے لقطہ میں بھی اعلان کرنا معاف نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کا اعلان بھی ضروری ہے۔ (اس وہم کو دور کرنے کے لئے ہے کہ یہ تو (بے شمار) مسافروں کی جگہ ہے۔) یعنی یہاں حج کرنے کے لئے دور دور سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں تو ظاہر اودہ مال کسی مسافر ہی کا ہوگا۔ ایسی صورت میں اس طرح پکارنے اور اعلان کرانے میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کا مالک اب لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ پس رسول اللہؐ نے اس طرح کا عام حکم فرما کر اس وہم کو دور کر دیا اور اس کا اعلان واجب رکھا۔ اور ظاہر حدیث کا پس منظر یا پہلے سے تعلق یہ ہے کہ رسول اللہؐ نے فتح مکہ کے دن بلند آواز سے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا۔ جس میں یہ فرمایا ہے کہ یہ شہر وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے آسمان وزمین کی پیدائش کے دن ہی محترم کر دیا ہے۔ اس لئے یہ اللہ تعالیٰ کے محترم کر دینے سے قیامت تک کے لئے محترم ہے۔ اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں۔ اور اس کا شکار بھڑکا یا نہ جائے۔ اور اس کا لقطہ صرف وہی اٹھائے جو اس کی تشہیر کرائے۔ (رواہ البخاری و مسلم)

تشریح..... وَلَقِطَةُ الْحُلِّ الْخ - ترجمہ سے مطلب واضح ہے (اعرف، عرف، ض، عرفانا، معرفت، پہچاننا، جاننا، عفاص بروزن کتاب، چمڑے یا کپڑے کا وہ تھیلہ جس میں سامان رکھا جائے۔ الوکاء وہ رسی وغیرہ جس سے کوئی چیز باندھی جائے۔

کوئی آدمی لقطہ کا دعویٰ کرے اسے کب لقطہ حوالہ کیا جائے

وَإِذَا حَضَرَ رَجُلٌ فَادَّعَى الْقُطْعَةَ لَمْ تُدْفَعْ إِلَيْهِ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ أُعْطِيَ عَلَامَتُهَا حَلٌّ لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يُجْبَرُونَ الْعَلَامَةُ مِثْلُ أَنْ يُسَمَّى وَزَنَ الدَّرَاهِمَ وَعَدَدَهَا وَوَكَايَتَهَا وَوَعَائِنَهَا لَهُمَا أَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ يُنَازِعُهُ فِي الْيَدِ وَلَا يُنَازِعُهُ فِي الْمَلِكِ فَيُشْتَرَطُ الْوُصْفُ لَوْ جُودَ الْمُنَازَعَةِ مِنْ وَجْهِ وَلَا تُشْتَرَطُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ لِعَدَمِ الْمُنَازَعَةِ مِنْ وَجْهِ وَلَنَا أَنَّ الْيَدَ حَقٌّ مَقْصُودٌ كَالْمَلِكِ فَلَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا لِحُجَّتِهِ وَهُوَ الْبَيِّنَةُ اِعْتِبَارًا بِالْمَلِكِ إِلَّا أَنَّهُ تَحَلَّى لَهُ الدَّفْعُ عِنْدَ إِصَابَةِ الْعَلَامَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا فَادْفَعَهَا إِلَيْهِ وَهَذَا لِلْبَاحَةِ عَمَلًا بِالْمَشْهُورِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى الْحَدِيثُ

ترجمہ..... اور جب کسی شخص نے (حاکم کے پاس) حاضر ہو کر لقطہ کا دعویٰ کیا (کہ وہ مال لقطہ میرا ہی ہے) تو جب تک اس پر وہ گواہ پیش نہ کر دے اسے وہ نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر اس نے کوئی علامت بیان کی تو ملتقط کو یہ جائز ہو جائے گا کہ لقطہ اس کے حوالہ کر دے پھر بھی قاضی اسے دینے پر مجبور نہیں کرے گا۔ اور امام مالک و شافعی رحمہما اللہ نے کہا ہے کہ دینے پر مجبور کرے گا۔ علامت بتانے کی



صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر وہ درہم ہوں تو ان کا وزن، تعداد، کس بیگ یا تھلی میں تھے۔ اس پر کیسی گرہ لگی ہوئی تھی وغیرہ باتیں بتلا دے اور امام مالک و شافعی رحمہما اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ملتقط (سامان کو پانے والا) اس مالک سے قبضہ کے بارے میں اختلاف کر رہا ہے ملکیت کے بارے میں اختلاف نہیں کرتا ہے۔ اس لئے اس لقطہ کا وصف بیان کرنا ہی شرط ہے۔ کیونکہ ایک اعتبار سے جھگڑا ہے۔ گواہ قائم کرنا شرط نہیں ہے۔ کیونکہ ایک اعتبار سے جھگڑا نہیں ہے (یعنی جب پانے والے کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں اس کا مالک ہوں بلکہ صرف قبضہ کا دعویٰ ہے ایسی صورت میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مالک اپنے مال (لقطہ) کی پہچان بتا دے۔ اس لئے اسے دینے پر مجبور کرے گا) اور ہماری دلیل یہ ہے کہ جس طرح مالک ہونا ایک حق مقصود ہے اسی طرح قبضہ کا ہونا بھی ایک حق مقصود ہے۔ اس لئے مطالبہ کرنے والا بغیر دلیل کے اس کا مستحق نہ ہوگا اور یہاں پر دلیل گواہی کو پیش کرنا ہے۔ ملکیت پر قیاس کرتے ہوئے (اسی لئے بغیر گواہ پیش کئے ہوئے دینے پر پانے والے کو مجبور نہیں کیا جائے گا)۔ ہاں اسی صورت میں مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس سامان کی علامتیں بالکل صحیح بیان کر دے تو اس وقت اس ملتقط کو مال مالک کے حوالہ کر دینا جائز ہوگا۔ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر اس کا مالک آجائے اور اس مال کے بارے میں یہ بتا دے کہ وہ کیسی چیز یا کیسے تھیلہ میں تھا اور اس کی تعداد کتنی تھی تو وہ مال اس کے حوالہ کر دے (مسلم، ابوداؤد اور نسائی نے اس کی روایت کی ہے)۔ مالک کو دینے کا یہ حکم اباحت کے طور پر ہے (یعنی اسے دینا مباح ہے اور لازم نہیں ہے) تا کہ حدیث مشہور پر عمل باقی رہے اور حدیث مشہور سے وہ حدیث مراد ہے جس میں فرمایا ہے کہ مدعی پر گواہ پیش کرنا لازم ہے۔ اور منکر پر قسم کھانا ہے۔ (حاصل کلام یہ ہوا کہ اگر مالک نے گواہ پیش کئے تو قاضی بھی اسے دینے کا حکم کرے گا۔ اور اگر صرف اس کی صحیح علامتیں بتا دے تو اسے اختیار ہے کہ چاہے دے یا نہ دے)۔

تشریح..... اگر کسی نے لقطہ کا دعویٰ کیا کہ یہ میری ملکیت ہے تو ملتقط اس کے حوالے نہ کرے یہاں تک کہ گواہ قائم کرے یا اگر مدعی نے صحیح طور پر علامات بتا دیں تو لقطہ مدعی کے حوالے کرنا جائز ہے۔ لیکن قاضی ملتقط کو مجبور نہیں کر سکتا کہ لقطہ حوالے کر دے۔ اس لئے کہ قبضہ بھی ملکیت کی طرح مقصود ہے اور مدعی بغیر دلیل کے ملتقط کا حقدار نہیں جبکہ حضور ﷺ کی حدیث ہے جو شخص عین مال پائے وہی اس کا زیادہ حق دار ہے لہذا دوسرے شخص کو دلیل و حجت کے بعد لقطہ حوالے کیا جائے گا اور وہ گواہ قائم کرنا ہے اور یہ وہی دلیل ہے اور اگر گواہ نہ ہوں تو کم از کم علامات بتا دے جیسے حدیث میں آیا ہے،

فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَّهَا فَأَدْفَعُهَا إِلَيْهِ

اور علامات بیان کرنے کے بعد یہ بھی ملتقط کو اختیار ہے کہ لقطہ مدعی کے حوالے نہ کرے۔ اس لئے کہ علامات کا بیان کرنا شہادت سے کم درجہ ہے۔

امام مالک و شافعی فرماتے ہیں کہ تنازع قبضہ میں ہے نہ کہ لقطہ کی ملکیت میں اس لئے علامات بیان کرنے سے لقطہ مدعی کے حوالے کرنا پڑے گا گواہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں حتیٰ کہ قاضی ملتقط کو مجبور بھی کر سکتا ہے کہ وہ لقطہ مدعی کے حوالے کرے۔ امام ابوحنیفہ نے فرمایا قبضہ ملکیت کی طرح حق مقصود ہے اور بلا دلیل مدعی حقدار نہیں اور دلیل گواہ ہیں حدیث میں ہے الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي..... الخ اور امام شافعی کی مستدل حدیث فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَعَرَفَ..... الخ بیان جواز پر محمول ہے یعنی حوالے کرنا جائز ہے لازم نہیں۔



### ملتقط لقطہ کے مالک کو سپرد کرتے وقت کفیل بنالے

وَيَأْخُذُ مِنْهُ كَفِيلًا إِذَا كَانَ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ اسْتِثْقَا وَهَذَا بِإِخْلَافٍ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ الْكَفِيلَ لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ التَّكْفِيلِ لِوَارِثٍ غَائِبٍ عِنْدَهُ وَإِذَا صَدَّقَهُ قِيلَ لَا يُجْبَرُ عَلَى الدَّفْعِ كَالْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ إِذَا صَدَّقَهُ وَقِيلَ يُجْبَرُ لِأَنَّ الْمَالِكَ هَهُنَا غَيْرُ ظَاهِرٍ وَالْمُودَعُ مَالِكٌ ظَاهِرًا

ترجمہ..... ویاخذ منہ الخ اور وہ ملتقط لقطہ کے مالک سے کسی کو ضامن مقرر کروالے (یعنی جب اسے مال لقطہ دینے لگے تو آئندہ کے کسی بھی الزام سے بچنے کے لئے ہمسامان اور مال کے مالک سے کہہ کر کسی کو ضامن مقرر کروالے) اور اس مسئلہ میں کسی کا کچھ بھی اختلاف نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تو اپنی ذات کے لئے ضامن مانگ رہا ہے۔ بخلاف وارث غائب کے لئے کفیل لینے کے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے (یعنی اگر مثلاً زید مر گیا اور اس کی میراث اس کے قرض خواہوں اور وارثوں میں تقسیم کی گئی تو امام کے نزدیک قرض خواہ یا وارث میں سے کوئی کفیل نہیں لیا جائے گا۔ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک لیا جائے گا۔ اس مقصد سے کہ شاید کوئی دوسرا قرض خواہ یا وارث اور بھی ظاہر ہو جائے) اور اگر ملتقط نے مالک مدعی کی تصدیق کی کہ تم ہی مدعی ہو تو کہا گیا ہے کہ اس صورت میں بھی لقطہ واپس کرنے پر یہ مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جیسے امانت وصول کرنے کے وکیل میں جبکہ امانت دار خود اس کی تصدیق کرے۔ (یعنی مثلاً امانت دار کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں مالک امانت کے پاس سے تم سے اس کی امانت واپس لینے آیا ہوں۔ اور اس کام کے لئے اس کا وکیل ہوں۔ جواب میں اس امین نے کہا کہ بے شک تم اس کے وکیل ہو تو اتنا کہنے کے باوجود وہ اس امانت کے واپس کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا) اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس ملتقط پر اس مال کے واپس کرنے کے لئے جبر کیا جائے گا۔ کیونکہ موجودہ صورت میں مالک ظاہر نہیں ہے۔ مگر امانت کا مالک ظاہر ہے (یعنی امانت کی صورت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مالک فلاں شخص ہے۔ اور آنے والا شخص اس کا وکیل ہے۔ اس لئے اس امین کو یہ اختیار ہوگا کہ اس وکیل کو نہ دے کر اصل مالک کو بلوالے۔ لیکن لقطہ کی صورت میں مالک کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے اس میں اس بات کا احتمال رہتا ہے کہ یہ مدعی خود ہی مالک ہو۔ اور جب مال پانے والے ملتقط نے خود اس کے مالک ہونے کا اقرار بھی کر لیا تو اس پر اقرار مکمل ہو گیا اور یہی اقرار دلیل بن گیا)

### غنی پر لقطہ کو صدقہ کرنا درست نہیں

وَلَا يَتَصَدَّقُ بِاللَّقُطَّةِ عَلَى غَنِيٍّ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ التَّصَدُّقُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ يَعْنِي صَاحِبُهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ وَالصَّدَقَةُ لَا يَكُونُ عَلَى غَنِيٍّ فَأُشْبِهَ الصَّدَقَةَ الْمَفْرُوضَةَ

ترجمہ..... اور (اگر بھرپور اعلان کے باوجود مالک لقطہ نہ ملے مجبوراً اسے صدقہ کرنا چاہیے تو) کسی مالدار کو وہ بطور صدقہ ہاتھ میں نہ دے کیونکہ اس موقع پر اسے صدقہ کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیونکہ رسولؐ نے فرمایا ہے کہ اگر مالک نہ آئے تو اس کو صدقہ کر دو۔ (دارقطنی نے اس کی روایت کی ہے) اور صدقہ کا مال کسی مالدار کو نہیں دیا جاتا ہے لہذا اس لقطہ کا حکم بھی صدقہ مفروضہ یعنی زکوٰۃ کے مشابہ ہو گیا۔



تشریح..... وَلَا يَتَصَدَّقُ بِاللُّقْطَةِ عَلَى غَنِيٍّ..... الخ ترجمہ سے مطلب ظاہر ہے۔ کہ کسی مالدار کو وہ لقطہ نفع حاصل کرنے کے لئے دینا جائز نہیں ہے بلکہ کسی فقیر کو ہی دینا چاہئے یہاں تک کہ اگر خود ہی فقیر ہو یا اس کے خود مالدار ہونے کی صورت میں اپنے اقارب میں سے کوئی فقیر ہو تو اسے بھی دینا جائز ہے۔ البتہ حضرت ابی بن کعبؓ جو مالدار صحابہ کرام میں سے تھے ان کو رسول اللہؐ نے خود اجازت فرمادی تھی یہ کہہ کر کہ اگر مالک مل جائے تو لقطہ اسے واپس دے دو ورنہ تم خود ہی فائدہ اٹھا لو۔ اس لئے آپ کے علاوہ دوسرے مالدار کے لئے اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہ ہوگا کہ یہ لقطہ بھی صدقہ اور زکوٰۃ کے مال کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جواب اس بناء پر ہے کہ ابی بن کعبؓ مالدار تھے۔ اور اس بناء پر ہے کہ حدیث میں یہ خطاب ابی بن کعبؓ نے فرمایا تھا۔ حالانکہ ان دونوں باتوں میں کلام ہے اس طرح سے حضرت ابو طلحہؓ کی حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لَنْ تَسْأَلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (ال عمران: ۹۲) یعنی تم ابرار کے درجہ کو نہیں پہنچو گے یہاں تک کہ جس چیز کو محبوب رکھتے ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو ابو طلحہؓ نے رسول اللہؐ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ جبکہ مجھے اپنے تمام مالوں میں سے یہ باغ بیرحاء بہت محبوب ہے۔ اس لئے میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ ہے۔ اور چونکہ میں اس کام کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتا ہوں اسی لئے آپ کے سامنے ظاہر کیا۔ اب آپ کی جو خواہش ہو وہ کیجئے۔ اس پر آپؐ بہت خوش ہوئے۔ اور فرمایا کہ یہ بہت ہی نفع بخش مال ہے۔ پھر فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو اپنے محتاج رشتہ داروں میں صدقہ کر دو۔ تب ابو طلحہؓ نے اسے ابی بن کعبؓ اور حسان ابن ثابتؓ میں تقسیم کر دیا۔ یہ صحیح حدیث میں مروی ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ابی بن کعبؓ مالدار نہیں بلکہ محتاج تھے۔ البتہ ایک احتمال رہتا ہے کہ لقطہ کا قصہ شاید ابی بن کعب کے مالدار ہو جانے کے بعد ہوا ہو۔ ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ شک اور احتمال کے باوجود اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ تو نگر کبھی ایسے شخص کو بھی کہہ دیا جاتا ہے جو اپنے روزانہ کی آمد و خرچ میں محتاج نہ ہو۔ اپنی گزر اوقات کر لیتا ہو۔ اگرچہ اس کے پاس جمع مال بقدر نصاب نہ ہو جس سے زکوٰۃ کے مسئلہ میں مالدار کہا جاسکے۔ حالانکہ لقطہ کے مسئلہ میں ایسا ہی مالدار مراد ہے جس پر زکوٰۃ لازم آتی ہو۔ پس ابی بن کعبؓ ایسے مالدار نہ تھے بلکہ پہلے معنی کے مطابق خوش حال تھے۔ اس کے علاوہ دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ خطاب ابی بن کعبؓ کو نہیں تھا بلکہ کسی نے لقطہ کا حکم پوچھا تھا اسے جواب دیا گیا تھا۔ مگر ابی بن کعبؓ نے اس واقعہ کی روایت کی تھی اور اب میں مترجم کہتا ہوں کہ یہ احتمال صحیح نہیں ہے کیونکہ ابی بن کعبؓ کا لقطہ لینا صراحت کے ساتھ ترمذی میں مذکور ہے۔ اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک دن حضرت سیدۃ النساء کے پاس آئے تو دیکھا کہ حضرت حسن و حسینؓ رو رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں۔ جواب دیا کہ بھوک سے رو رہے ہیں۔ اس وقت حضرت علیؓ بازار گئے وہاں آپ نے ایک دینار پایا۔ وہ اسے اٹھا کر حضرت فاطمہؓ کے پاس لائے اور واقعہ بتلایا۔ تو آپؐ نے کہا کہ فلاں یہودی کے پاس سے اس سے آٹا خرید کر لے آئیں۔ جب آپ اس کے پاس گئے تو اس یہودی نے پوچھا کہ کیا آپ ان صاحب کے داماد ہیں جو خود کو نبی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تب اس نے کہا کہ تم اتنا آٹا بھی لے جاؤ اور اپنا دینار بھی واپس لے جاؤ۔ جب وہاں سے واپس آئے تو حضرت فاطمہؓ نے کہا کہ فلاں قصاب کے پاس سے اس کا گوشت خرید کر لے آئیں۔ حضرت علیؓ وہاں اپنا دینار رہن رکھ کر گوشت لے آئے۔ اس سے حضرت فاطمہؓ نے کھانا تیار کر کے رسول اللہؐ کے پاس آدمی بھیج کر آپ کو بلوایا۔ پھر سارا قصہ بیان کیا۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر یہ ہمارے لئے حلال ہو تو ہم اسے



کھائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر کھالو۔ وہ کھانے لگے۔ اتنے میں ایک غلام اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پکارتا ہوا آیا۔ تب رسول اللہ نے آدمی بھیج کر اسے بلوایا تو اس نے کہا کہ بازار میں مجھ سے دینار گر گیا تھا۔ یہ سن کر آپ نے حضرت علیؓ سے کہا کہ تم قصاب کے پاس جا کر یہ کہو رسول اللہ ﷺ تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم وہ دینار واپس کر دو اور تمہارا دینار میرے ذمہ ہے۔ یہ سن کر قصاب نے وہ دینار واپس کر دیا۔ اور وہ دینار اسی غلام کو دے دیا۔ اور اس کی روایت عبدالرزاق و اسحاق و بزار اور ابو یعلیٰ نے بھی کی ہے۔ بظاہر حضرت علیؓ نے اس دینار کا بروقت اعلان کر کے اسے خرچ کیا ہوگا۔ صحاح کی بعض روایتوں میں بجائے دینار کے درہم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### غنی ملتقط لقطہ سے انتفاع نہ کرے

وَإِنْ كَانَ الْمُلْتَقَطُ غَنِيًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ أَبِي قُرَيْبٍ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعَهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَانْتَفِعْ بِهَا وَكَانَ مِنَ الْمَيَاسِيرِ وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يُبَاحُ لِلْفَقِيرِ حَمْلًا لَهُ عَلَى رَفْعِهَا صَيَانَةً لَهَا وَالْغَنِيُّ يُكْشَرُ فِيهِ وَلَكِنَّا أَنَّهُ مَالُ الْغَيْرِ فَلَا يُبَاحُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ إِلَّا بِرِضَاهُ لَا طَلَاقَ النَّصُوصِ وَالْإِبَاحَةُ لِلْفَقِيرِ لِمَا رَوَيْنَاهُ أَوْ بِإِلَّا جُمَاعٍ فَيَبْقَى مَا رَوَاهُ عَلَى الْأَصْلِ وَالْغَنِيُّ مُحْمُولٌ عَلَى الْأَخْذِ لِاحْتِمَالِ افْتِقَارِهِ فِي مُدَّةِ التَّعْرِيفِ وَالْفَقِيرُ قَدِ تَوَافَى لِاحْتِمَالِ اسْتِغْنَائِهِ فِيهَا وَانْتِفَاعُ أَبِي كَانَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَهُوَ جَائِزٌ بِإِذْنِهِ

ترجمہ..... اور اگر یہ ملتقط خود مالدار ہو تو اس کو اس لقطہ سے نفع اٹھانا جائز نہ ہوگا۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اسے بھی نفع اٹھانا جائز ہوگا۔ کیونکہ رسول اللہ نے حضرت ابی بن کعبؓ سے مروی حدیث میں فرمایا ہے کہ اگر اس لقطہ کا مالک آجائے تو اسے اس کا مال دے دو۔ ورنہ خود ہی اس سے نفع حاصل کر لو۔ اس کی روایت بخاری اور مسلم کے علاوہ اور دوسروں نے بھی کی ہے۔ حالانکہ راوی ابی بن کعبؓ نے خود بھی چند مالدار صحابہ کرام میں سے تھے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ کسی فقیر کو لقطہ اس بناء پر مباح ہوتا ہے تاکہ خود اسے بھی اس لقطہ کی حفاظت کر کے اس سے فائدہ اٹھانے پر آمادہ کیا جاسکے۔ اور اس مقصد میں امیر و غریب سب برابر کے شریک ہوتے ہیں (یعنی جب کسی مالدار کو اس کے ملنے کی امید ہو جائے گی تو وہ بھی اسے اپنے پاس رکھ کر اس سے فائدہ اٹھائے گا تاکہ وہ چیز یونہی ضائع نہ ہو جائے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ لقطہ دوسرے اجنبی کا مال ہے اس لئے اس سے کسی طرح مالک کی رضامندی کے بغیر فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ تمام آیتوں اور حدیثوں سے یہی حکم ثابت ہوتا ہے اور فقیر کے لئے اس لئے جائز ہو جاتا ہے کہ صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور خود ملتقط بھی صدقہ کا محل ہے اور بالاجماع اس فقیر کے لئے بھی حلال ہوا۔ تو صرف فقیر کے لئے حلال ہونا ثابت ہوا۔ اور بقیہ انسانوں کے لئے وہ اصلی حکم (حلال نہ ہونے پر) باقی رہا یعنی غیر کا مال لینا اسے حلال نہیں ہوا اور مالدار شخص بھی اس کی حفاظت اس امید پر کر سکتا ہے اور آمادہ رہ سکتا ہے کہ سال بھر کی مدت میں یا جب تک کہ اس کا اعلان ہوتا رہے شاید اس عرصہ میں محتاج ہو جائے اور اس مال کا ضرورت مند ہو جائے۔ اس کے علاوہ کبھی فقیر بھی حفاظت کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے حفاظت کرنا نہیں چاہتا ہے۔ اس امید پر کہ شاید اس کے اعلان کی مدت کے اندر وہ خود بھی مالدار ہو جائے اور اسے اس مال مخصوص کی ضرورت نہ رہے۔ (الحاصل مالدار اور فقیر دونوں میں اس بات کا احتمال رہتا ہے کہ اس لقطہ کو اٹھا کر رکھ لینے سے شاید اس کو یہ مل جائے۔ یا اس سے کسی طرح کا فائدہ حاصل ہو

جائے) اور حضرت ابی بن کعبؓ کو امام کی طرف سے فائدہ اٹھانے کی اجازت حاصل تھی۔ یعنی رسول اللہؐ نے خود اجازت دے دی تھی۔ اور امام کی اجازت سے دو متمند کو بھی نفع اٹھانا جائز ہوتا ہے۔

تشریح..... صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے لقطہ پایا اور اس (لقطہ) کا مالک مدتِ تشہیر (ایک سال) تک ظاہر نہیں ہوا تو لقطہ صدقہ کیا جائے گا۔ اگر ملتقط مالدار ہے تو وہ صدقہ پر مبنی لقطہ سے نفع حاصل کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ کیونکہ لقطہ غیر کا مال ہوتا ہے اور وہ مالک کی رضامندی کے بغیر استفادہ کا مقتضی نہیں ہے۔ اگر ملتقط فقیر ہے تو بالاجماع اس (لقطہ) سے فائدہ حاصل کرنے کا استحقاق رکھتا ہے۔ لیکن اگر ملتقط مالدار ہے تو وہ لقطہ سے فائدہ اٹھانے کا مجاز نہیں ہے امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ایک سال تشہیر کے بعد مالدار بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے دلیل حضرت ابی ہریرہؓ کی حدیث ہے جس میں حضور ﷺ نے انہیں فائدہ اٹھانے کی اجازت دی تھی۔ حالانکہ وہ مالدار تھے دوسری بات یہ کہ فقیر کو لقطہ سے فائدہ اٹھانا اس لئے مباح ہے کہ اس نے لقطہ کی حفاظت کی اور یہ معنی مالدار میں بھی پائے جاتے ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ مالدار لقطہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس لئے کہ حدیث میں لقطہ کے حلال ہونے کی مطلق نفی ہے اور حلت مطلق کیلئے اجماع سے ثابت ہے اور حضرت ابی مالدار تھے یا یہ کہ کسی نے لقطہ کے بارے میں حضرت ابی سے پوچھا آپ نے یوں فرما دیا ان اقوال کی تطبیق یوں دی جاسکتی ہے کہ امام شافعیؒ کی بات قاضی کی اجازت پر ہے جو کہ احناف کے ہاں بھی ہے۔ ورنہ نفع اٹھانا درست نہیں۔

### ملتقط فقیر لقطہ سے انتفاع کر سکتا ہے

وَإِنْ كَانَ الْمُلتَقِطُ فَقِيرًا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْقِيقِ النَّظَرِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَلِهَذَا جَازَ الدَّفْعُ إِلَى فَقِيرٍ غَيْرِهِ

ترجمہ..... وَإِنْ كَانَ الْمُلتَقِطُ فَقِيرًا الخ اور اگر ملتقط فقیر ہو تو اس کے لئے اس بات میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ خود ہی اس چیز سے فائدہ اٹھالے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے اصل مالک اور اس پانے والے دونوں کے حق میں بھلائی اور مصلحت کا لحاظ ہے۔ اسی لئے اسے یہ بھی جائز ہے کہ اپنے علاوہ کسی اور فقیر کو دے۔

### ملتقط کا فقیر باپ، بیٹا، زوجہ انتفاع کر سکتے ہیں

وَكَذَا إِذَا كَانَ الْفَقِيرُ أَبًا أَوْ ابْنًا أَوْ زَوْجَةً وَإِنْ كَانَ هُوَ غَنِيًّا لِمَا ذَكَرْنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ترجمہ..... اسی طرح اگر اس ملتقط کا باپ یا بیٹا یا بیوی فقیر ہو تو اسے بھی دینا جائز ہے۔ اگرچہ وہ خود مالدار ہو۔ کیونکہ اس صورت میں بھی دونوں کی بھلائی ہے۔ واللہ اعلم (اعلان کی تکلیف کے بدلہ میں اس مال سے نفع اٹھانے کا بھی موقع مل گیا۔ اور فقیر کو مال ملنے سے اس کا ثواب اس کے مالک کو ملے گا اور یہی اس کا نفع ہوگا۔)



[besturdubooks.wordpress.com](http://besturdubooks.wordpress.com)

## کِتَابُ الْإِبَاقِ

ترجمہ..... کتاب، غلام کے بھاگ جانے کے بیان میں

تشریح..... ایاق..... غلام کا اپنے مالک کے پاس سے بھاگ جانا ایاق۔ بھاگنے والا غلام۔

جعل وہ خرچ یا حق جو غلام کو پکڑ کر اس کے مولیٰ کے پاس واپس لانے کے لئے اس کے مولیٰ پر شرعاً مقرر ہے۔ رخصت و ذوہ خرچ جو مسافت سفر سے کم کی دوری سے واپس لانے والے کو دینا چاہئے۔ جس کی مقدار مذکورہ جعل سے کم ہوتی ہے۔ اور اس کی مقدار کوئی متعین نہیں ہے۔ بھگوڑے غلام کو واپس لادینے میں ثواب بھی ہے۔ مناسب ہے کہ غلام کو پکڑتے وقت (یا فوراً ہی) کسی گواہ مقرر کر کے یہ کہہ دے کہ میں اسے اس کی مولیٰ کے پاس پہنچانے کے لئے پکڑ رہا ہوں یا پکڑا ہے۔

بھاگے ہوئے غلام کو پکڑنے کا حکم

الْأَبِيقُ أَخْذُهُ أَفْضَلُ فِي حَقِّ مَنْ يَقْوَىٰ عَلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ أَحْيَائِهِ وَأَمَّا الضَّالُّ فَقَدْ قِيلَ كَذَلِكَ وَقَدْ قِيلَ تَرْكُهُ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ لَا يَبْرَحُ مَكَانَهُ فَيَجِدُهُ الْمَالِكُ وَلَا كَذَلِكَ الْأَبِيقُ ثُمَّ أَخْذُ الْأَبِيقِ يَأْتِي بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ لِأَنَّهُ لَا يُقَدَّرُ عَلَى حِفْظِهِ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ اللَّقْطَةِ ثُمَّ إِذَا رُفِعَ الْأَبِيقُ إِلَيْهِ يَحْبِسُهُ وَلَوْ رُفِعَ الضَّالُّ لَا يَحْبِسُهُ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الْأَبِيقِ الْإِبَاقُ ثَانِيًا بِخِلَافِ الضَّالِّ

ترجمہ..... بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کر رکھ لینا ایسے شخص کے حق میں جو اس کو پکڑ کر حفاظت کے ساتھ رکھ سکتا ہو افضل ہے کیونکہ اس سے غلام کے مولیٰ کے حق کو زندہ اور محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ (کیونکہ مولیٰ ایک حد تک اس غلام سے محروم ہو چکا ہے گویا اس کے لئے غلام مرچکا ہے)۔ لیکن غلام ضال یعنی راستہ بھٹک کر ادھر ادھر ہو جانے والے کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کا حکم بھی ایسا ہی ہے یعنی اسے بھی پکڑ کر رکھ لینا افضل ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اسے چھوڑ دینا افضل ہے کیونکہ وہ اس جگہ سے ادھر ادھر زیادہ دور نہیں جائے گا اور آسانی سے اس کا مالک اسے پکڑ لے گا۔ لیکن بھاگے ہوئے کا یہ حال نہیں ہوتا ہے۔ پھر بھگوڑے غلام کو جب کوئی پکڑ لے تو اسے چاہئے کہ وہ اسے بادشاہ یا حاکم کے پاس لے جائے تاکہ وہ خود اپنے طور پر اس کی حفاظت اس طرح کرے کہ قید خانہ میں ڈال دے اور اگر بھٹکے ہوئے کو پکڑ کر وہ حاکم کے پاس لے جائے تو اسے قید خانہ میں ڈالنے کی ضرورت نہ ہوگی کیونکہ بھگوڑے سے تو ہر وقت بھاگنے کا ڈر لگا رہتا ہے لیکن بھٹکے ہوئے سے اطمینان رہتا ہے۔ دوبارہ نکل جانے کا خوف نہیں رہتا ہے۔

بھاگے ہوئے غلام کو مولیٰ پر واپس کرنے والے کو کچھ ملے گا یا نہیں

قَالَ وَمَنْ رَدَّ أَبِيقًا عَلَىٰ مَوْلَاهُ مِنْ مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا فَلَهُ عَلَيْهِ جُعْلُهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَإِنْ رَدَّهُ لِأَقَلِّ مِنْ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا بِالشَّرْطِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِمَنْفَاعِهِ فَأَشْبَهَ الْعَبْدَ الضَّالَّ وَلَنَا أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ اتَّفَقُوا عَلَىٰ وَجُوبِ أَصْلِ الْجُعْلِ إِلَّا أَنْ مِنْهُمْ



مَنْ أُوجِبَ أَرْبَعِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ أُوجِبَ مَادُونَهَا فَأَوْجِبْنَا الْأَرْبَعِينَ فِي مَسِيرَةِ السَّفِيرِ وَمَادُونَهَا فِيمَادُونَهُ تَوْفِيقًا وَتَلْفِيقًا بَيْنَهُمَا وَلِأَنَّ إِيْجَابَ الْجُعْلِ أَصْلُهُ حَامِلٌ عَلَى الرَّدِّ إِذَا الْحَسْبَةُ نَادِرَةٌ فَتَحْصِلُ صَيَانَةُ أُمُوالِ النَّاسِ وَالتَّقْدِيرُ بِالسَّمْعِ وَلَا سَمْعَ فِي الضَّالِّ فَاْمْتَنَعَ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى صَيَانَةِ الضَّالِّ دُونَهَا إِلَى صَيَانَةِ الْأَبْقِ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَارَى وَالْأَبْقِ يَخْتَفِي وَيُقَدَّرُ الرِّضْخُ فِي الرَّدِّ عَمَادُونَ السَّفِيرِ بِاصْطِلَاحِهِمَا أَوْ يُفَوَّضُ إِلَى رَأْيِ الْقَاضِي وَقِيلَ يُقَسَّمُ الْأَرْبَعُونَ عَلَى الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ إِذْ هِيَ أَقَلُّ مُدَّةِ السَّفِيرِ

ترجمہ..... قَالَ وَمَنْ رَدَّ آيَقًا الْخ (قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ) جو شخص بھگوڑے غلام کو تین دن کی مسافرت یا اس سے زیادہ دوری سے اس کے مولیٰ کے پاس پہنچا دے تو اس مولیٰ پر لانے والے کا یہ حق ہوگا کہ اس کے لانے کے خرچ کی بابت چالیس درہم ادا کر دے اور اگر اس سے کم فاصلہ ہو تو اسی کے حساب سے ادا کرے۔ (مثلاً ایک دن کی مسافت ہو تو چالیس کی ایک تہائی ۱۳/۳ کا وہ مستحق ہوگا۔) یہ حکم استحسان کے طور پر ہے۔ ویسے قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ واپس لانے والے کو کچھ نہیں دیا جائے۔ البتہ اگر شرط کر دی ہو۔ (مثلاً یہ اعلان کر دیا ہو کہ جو شخص میرا غلام لے آئے گا اسے اتنا مال ملے گا)۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ کیونکہ واپس لانے والے نے اپنے کام میں یہ احسان کیا ہے لہذا یہ بھی بھولے ہوئے غلام کے مشابہ ہو گیا۔ یعنی اگر راستہ بھٹکے ہوئے غلام کو واپس لے آئے تو وہ کسی چیز کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ نے اصل خرچ واپس کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ بعضوں نے چالیس درہم واجب کئے ہیں اور بعضوں نے اس سے کم واجب کئے ہیں اور ہم نے دونوں اقوال میں توفیق دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر اتنی دور سے لایا ہو جو مسافر ہونے کے لئے لازم ہے تب چالیس درہم اور اس سے کم فاصلہ ہونے سے کم واجب ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمار بن یاسرؓ نے کہا ہے کہ اگر شہر کے اندر سے ہی لایا ہو تو دس درہم اور اگر باہر سے لایا ہو تو چالیس درہم ادا کرنے ہوں گے اور چالیس درہم ہونے سے متعلق روایات کو عبد الرزاق و طبرانی اور ابن ابی شیبہ رحمہم اللہ نے کئی صحابہ کرامؓ سے روایت کیا ہے)

دوسری دلیل..... یہ ہے کہ واپسی خرچ (جعل) واجب کرنے کا مقصد دراصل اسے واپس لانے پر آمادہ کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ صرف ثواب پانے کی امید سے ایسا کام بہت ہی نادر ہوتا ہے۔ اس لئے خرچ واجب کرنے کی صورت میں لوگوں کے مال محفوظ رہیں گے۔ لیکن اس کی مقدار کتنی ہو یہ تعین صرف روایت کے سننے پر موقوف ہے۔ جو بھاگے ہوئے غلام میں معلوم ہوئی۔ لیکن راہ بھٹکے ہوئے غلام کے بارے میں کچھ منقول نہیں ہے۔ اس لئے اس کے بارے میں کوئی مقدار متعین کر لینا ممکن نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ بھٹکے ہوئے غلام کی حفاظت آسان اور اس میں کم خرچ آتا ہے کیونکہ یہ از خود چھپنے اور بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اس کے برخلاف بھاگے ہوئے غلام کی حفاظت مشکل اور اس میں خرچ زیادہ آتا ہے کیونکہ وہ تو موقع پاتے ہی چھپنے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب اسے دور سے لایا ہو جہاں سے سفر کی مسافت نہیں ہوتی ہو یعنی اسے شرعی مسافت نہیں کہا جاسکتا ہو تو اس کا خرچ ان دونوں کی رضامندی سے یا پھر قاضی کی اپنی صوابدید پر متعین ہوگا (اور مشائخ رحمۃ اللہ علیہم نے کہا ہے کہ قاضی کی رائے پر ہونا ہی زیادہ مناسب ہے۔ مف) اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چالیس درہم کو تین دنوں پر تقسیم کر کے دیا جائے کیونکہ کم سے کم مدت سفر تین دن ہیں (اس لئے جتنی مسافت ہو اس حساب سے دیا جائے)۔

تشریح..... بھاگے ہوئے غلام کو تین دن یا تین دن سے زائد مسافت سے آقا کے پاس لانے والے کا عوض چالیس درہم ہیں۔ اور اگر کم مدت (یعنی تین دن مسافت سے کم مدت) سے غلام کو لایا گیا تو اس حساب سے معاوضہ دیا جائے گا۔ وجوب معاوضہ پر تو سب صحابہ کرام کا اجماع ہے لیکن مقدار میں فرق ہے بعض کے ہاں چالیس درہم بعض کے ہاں اس سے کم۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھاگے ہوئے غلام کو لایا تو بھٹکے ہوئے غلام کی طرح اس کو کوئی معاوضہ نہ دیا جائے گا۔ یہ تبرع اور احسان ہے ہاں اگر آقا شرط لگا دے تو عوض دیا جائے گا۔

امام ابو حنیفہ کے ہاں چونکہ احادیث میں معاوضہ کا تذکرہ ہے اور بھٹکے ہوئے غلام کے بارے میں عوض کا کوئی تذکرہ نہیں اب جب تین دن سے کم مدت مسافت سے غلام کو لایا گیا تو معاوضہ ان تین ایام پر تقسیم ہوگا۔

اگرچہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ غلام کو لانے والے کو معاوضہ نہ دیا جائے لیکن از روئے استحسان کے غلام کو لانے والے کو معاوضہ کا مستحق قرار دیا گیا

**غلام کی قیمت چالیس درہم سے کم ہو تو واپس لانے والے کو کتنے دیئے جائیں گے**

قَالَ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ يُقْضَى لَهُ بِقِيمَتِهِ إِلَّا دَرَاهِمًا قَالَ وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَهُ أَرْبَعُونَ دَرَاهِمًا لِأَنَّ التَّقْدِيرَ بِهَا ثَبَتَ بِالنَّصِّ فَلَا يُنْقُصُ عَنْهَا وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَى الزِّيَادَةِ بِخِلَافِ الصُّلْحِ عَلَى الْأَقَلِّ لِأَنَّهُ حَظٌّ مِنْهُ وَلِمُحَمَّدٍ أَنَّ الْمَقْصُودَ حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى الرَّدِّ لِيُحْيِيَ مَالَ الْمَالِكِ فَيُنْقُصَ دَرَاهِمُ لِيُسَلِّمَ لَهُ شَيْءٌ تَحْقِيقًا لِلْفَائِدَةِ

ترجمہ..... اور اگر اس غلام کی قیمت چالیس درہم سے بھی کم ہو تو غلام واپس کرتے وقت چالیس سے ایک درہم کم دے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ لانے والے کو چالیس درہم ہی ملیں گے کیونکہ یہ مقررہ مقدار نص حدیث سے ثابت ہے لہذا اس سے کم نہیں کیا جائے گا۔ اسی بناء پر اگر باہم دونوں متفق ہو کر چالیس درہم سے بھی زیادہ خرچ کے لین دین پر متفق ہو جائیں تو بھی جائز نہ ہوگا۔ اس کے برخلاف اس سے کم پر جائز ہوگا اس وجہ سے کہ لانے والے نے اپنے حق سے کچھ معاف کر دیا ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ جعل کا مقصود یہ ہے کہ لانے والے کو ایک غیر شخص کا غلام واپس پہنچانے پر آمادہ کرنا ہے تاکہ مالک کا اصل مال تباہ و برباد نہ ہو لہذا مال کی اصل قیمت سے ایک درہم کم دیا جائے۔ تاکہ اس کو بھی کچھ فائدہ حاصل ہو۔ اور اگر ام ولد یا مدبر بھاگے تو جعل اور لانے کے خرچ کے بارے میں وہ بھی ایک غلام کے برابر ہی ہوگا بشرطیکہ مولیٰ کی زندگی میں اسے واپس لے آئے۔ کیونکہ اس میں مولیٰ کی ملکیت زندہ ہوتی ہے

**ام ولد و مدبر رقیق کے حکم میں ہیں**

وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبِّرُ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْقَيْنِ إِذَا كَانَ الرَّدُّ فِي حَيَوَةِ الْمَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ أَحْيَاءٍ مِلْكِهِ وَلَوْ رُدَّ بَعْدَ مَمَاتِهِ لَا جُعِلَ فِيهِمَا لِأَنَّهُمَا يَتَعَقَّانِ بِالْمَوْتِ بِخِلَافِ الْقَيْنِ



ترجمہ..... اور اگر مولیٰ کی وفات کے بعد واپس لایا تو ام ولد یا مدبر ہونے کی صورت میں اسے کچھ بھی جعل (خرچ) نہیں ملے گا کیونکہ یہ دونوں ہی مولیٰ کی موت کے بعد آزاد ہو جاتے ہیں۔ بخلاف خالص غلام کے کہ وہ اس کے مرنے کے بعد آزاد نہیں ہوتا ہے۔

غلام کو لوٹانے والا مالک کا بیٹا یا اسکے عیال میں ہو یا زوجین میں ایک

دوسرے پر لوٹائے اس کیلئے جعل نہیں

وَلَوْ كَانَ الرَّادُّ أَبًا لِمَوْلَىٰ أَوْ ابْنَهُ وَهُوَ فِي عِيَالِهِ أَوْ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخِرِ فَلَا جُعْلَ لِأَنَّ هُوَ لَا يَتَبَرَّعُونَ بِالرَّدِّ عَادَةً وَلَا يَتَنَاءَوْنَ وَلَهُمْ إِطْلَاقُ الْكِتَابِ

ترجمہ..... اور اگر پکڑ کر لانے والا شخص غلام کے مالک کا باپ یا بیٹا ہو جو اس کی ذمہ داری اور عیال داری میں ہو یا شوہر اور اس کی بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کا غلام پکڑ لائے تو کچھ بھی اس کا خرچ اور جعل نہیں ملے گا۔ کیونکہ لوگوں میں یہ معاملہ جاری ہے اور یہی عادت ہے کہ اس موقع پر لانے والا بطور احسان کے لاتا ہے کسی مالی لالچ کی بناء پر نہیں لاتا ہے۔ اس لئے کتاب کا حکم جو مطلق ہے ان لوگوں کو شامل نہ ہوگا۔

مالک کے پاس لانے والے سے غلام بھاگ جائے تو اس کو کچھ لازم نہیں

قَالَ وَإِنْ أَبَقَ مِنَ الذِّي رَدَّهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ لَكِنْ هَذَا إِذَا شَهِدَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي اللَّقْطَةِ قَالَ وَذَكَرَ فِي بَعْضِ النُّسخ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْبَائِعِ مِنَ الْمَالِكِ وَلِهَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْأَبَقَ حَتَّى يَسْتَوْفَى الْجُعْلَ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ يَحْبِسُ الْمَبِيعَ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ وَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَ فِي يَدِهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا

ترجمہ..... کہا اور اگر غلام اس شخص کے ہاتھ سے بھاگ گیا جو اسی بھاگے ہوئے کو اس کے مالک کے پاس پہنچانے کے لئے لا رہا تھا تو اس لانے پر کوئی جرم مانہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ غلام اس وقت اس کے قبضہ میں امانت کے طور پر تھا۔ البتہ شرط یہ ہوگی کہ اس وقت جبکہ اس غلام کو پکڑنا چاہ رہا تھا کسی کو اس بات پر گواہ بنا دیا ہو کہ میں اس کے مالک کے پاس واپس پہنچانے کے لئے پکڑ رہا ہوں۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لفظ کے مسائل میں بیان کر دیا ہے۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعض نسخوں میں یہی مذکور ہے کہ واپس لانے والے کے لئے کچھ نہیں ہے اور یہ نسخہ بھی صحیح ہے (یعنی جب اس کے پاس سے غلام بھاگ گیا تو اس کو کچھ جعل (خرچ) نہیں ملے گا) کیونکہ وہ مالک کے ہاتھ میں بیچنے والے کے معنی میں ہے (یعنی وہ جب تک مالک کے حوالہ اس غلام کو نہ کر دے اس وقت تک وہ کسی خرچ کے پانے کا مستحق نہیں ہوگا) اسی لئے واپس لانے والے کو یہ اختیار ہے کہ اپنا جعل (مطالب حق) وصول کر لینے تک بھگورے غلام کو اپنے پاس ہی رہنے دے۔ جیسے کہ بیچنے والے کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اپنی قیمت نقد وصول کر لینے تک وہ مال یا سامان خریدار کو دینے سے روک دے۔ اسی طرح اگر واپس لانے والے کے قبضہ میں وہ غلام مر جائے تو بھی اس پر کچھ واجب نہ ہوگا (یعنی وہ غلام یا اس کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ اس وقت تک امین ہے یا اس نے اپنا حق وصول کر لینے کے لئے روکا ہے۔ پھر یہ

معلوم ہونا چاہئے کہ واپس لانے والے نے جب غلام کو اس کے مالک کے حوالہ کر دیا اس طرح سے کہ اپنا قبضہ اس سے ختم کر لیا اور مولیٰ اس پر قبضہ کا اختیار دے دیا تو وہ قابض ہو گیا۔

مولیٰ نے غلام کو دیکھتے ہی آزاد کر دیا، آزاد کرنے کی وجہ سے حکماً قابض

ہوگا لہذا لانے والے کا جعل لازم ہوگا

قَالَ وَلَوْ اَعْتَقَهُ الْمَوْلَى كَمَا لَقِيَهُ صَارَ قَابِضًا بِاِلَّا عَتَقَ كَمَا فِي عَبْدِ الْمُشْتَرَى وَكَذَا اِذَا بَاعَهُ مِنَ الرَّادِّ لِسَلَامَةِ الْبَدَلِ لَهُ وَالرَّدُّ اِنْ كَانَ لَهُ حُكْمُ الْبَيْعِ لِكُنْهٖ بَيْعٌ مِنْ وَجْهِ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ النَّهْيِ الْوَارِدِ عَنْ بَيْعِ مَالِهِ يَقْصُرُ فَجَازَ قَالَ وَيَنْبَغِي اِذَا اخَذَهُ اَنْ يَشْهَدَ اَنَّهُ يَأْخُذُهُ لِيُرَدَّهٗ فَلَا شَهَادَ حَتَّمُ فِيْهِ عَلَيْهِ عَلٰى قَوْلِ اَبِي حَنِفَةَ وَ مُحَمَّدٍ حَتَّى لَوْ رَدَّهٗ مَنْ لَمْ يَشْهَدْ وَقَتَ الْاِخْذِ لَا جُعَلَ لَهُ عِنْدَهُمَا لِاَنْ تَرَكَ الْاِشْهَادَ اَمَارَةً اَنَّهُ اخَذَهُ لِنَفْسِهِ وَصَارَ كَمَا اِذَا اشْتَرَاهُ مِنَ الْاِخْذِ اَوْ اَتَهَبَهُ اَوْ وَرَثَتُهُ فَرَدَّهٗ عَلَى مَوْلَاهُ لَا جُعَلَ لَهُ لِاَنَّهُ رَدَّهٗ لِنَفْسِهِ اِلَّا اِذَا شَهِدَ اَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِيُرَدَّهٗ فَيَكُوْنُ لَهُ الْجُعْلُ وَهُوَ مُتَبَرِّعٌ فِيْ اَدَاءِ الثَّمَنِ

ترجمہ..... اور اگر مولیٰ نے اس غلام کو دیکھتے ہی آزاد کر دیا تو آزاد کرنے کی وجہ سے وہ حکماً قابض ہو جائے گا۔ لہذا لانے والے کا خرچ (جعل) واجب ہو جائے گا جیسے کہ خریدے ہوئے غلام میں ہوتا ہے۔ (یعنی اگر خریدتے ہی خریدار نے غلام کو آزاد کر دیا تو اسے بھی قابض سمجھا جائے گا اس لئے اس کی قیمت بیچنے والے کو دینی ہوگی۔) اسی طرح اگر مالک نے واپس لانے والے کے ہاتھ ہی اسے فروخت کر دیا تو بھی یہی حکم ہوگا۔ کیونکہ لانے کا خرچ (جعل) اسے دے دیا گیا اور اس نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح واپس کر دینا اگرچہ بیع کے حکم میں ہے۔ لیکن معاملہ مکمل طور پر بیع نہیں ہے۔ (بلکہ صرف ایک اعتبار سے بیع ہے) اس لئے کسی چیز پر قبضہ کئے بغیر اسے فروخت کرنے کی شریعت میں جو ممانعت ہے وہ اس صورت میں صادق نہیں ہوگی۔

قال وينبغي الخ اور واپس کرنے کے لئے بھگوڑے غلام کو پکڑنے سے پہلے کسی کو گواہ بھی بنالینا چاہئے یہ کہتے ہوئے کہ میں اس کو اس کے اصل مالک کے پاس پہنچانے کے لئے پکڑ رہا ہوں۔ اس میں امام ابو حنیفہ و امام محمد رحمہما اللہ کے قول کے مطابق بھگوڑے غلام کو پکڑنے میں اس پر گواہ مقرر کرنا واجب ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے پکڑتے وقت گواہ مقرر نہیں کیا اور لا کر واپس کر دیا تو وہ جعل پانے کا مستحق بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ بغیر گواہ مقرر کئے ہوئے پکڑنا اس بات کی علامت ہے کہ اس نے اسے اپنے پاس ہی رکھنے کے لئے اسے پکڑا تھا۔ لہذا اب اس کی صورت ایسی ہوگئی جیسے اس نے پکڑنے والے سے اسے خرید کر یا ہبہ میں وصول کر کے یا میراث میں اسے پا کر پھر اس کے مالک کو واپس کر دیا۔ تو اس کے لئے جعل نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے خود اپنے لئے لے کر واپس دیا ہے۔ لیکن اگر خریدتے وقت گواہ مقرر کر لئے ہوں کہ میں اس کے مالک کو واپس کرنے کے لئے خریدتا ہوں تو اسے جعل ملے گا۔ مگر اس کی قیمت دیتے وقت وہ احسان کرنے والا ہوگا۔

آبق غلام رہن ہو تو جعل مرتہن پر ہے

فَاِنْ كَانَ الْاَبْقُ رَهْنًا فَالْجُعْلُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لِاَنَّهُ اُحْبِلَ مَالِيَّتَهُ بِالرَّدِّ وَهِيَ حَقُّهُ اِذَا اِلْسْتِيفَاءُ مِنْهَا وَالْجُعْلُ



بِمُقَابَلَةِ اِحْيَاءِ الْمَالِيَةِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ وَالرَّدُّ فِي حَيَاةِ الرَّاهِنِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ لَانَّ الرَّهْنَ لَا يَبْطُلُ بِالمَوْتِ وَ هَذَا اِذَا كَانَ كَيْفِيَّتُهُ مِثْلَ الدَّيْنِ اَوْ اَقْلَ مِنْهُ فَاِنْ كَانَتْ اَكْثَرَ فَيَقْدِرُ الدَّيْنُ عَلَيْهِ وَالْبَاقِي عَلَى الرَّاهِنِ لَانَّ حَقَّهُ بِالْقَدْرِ الْمَضْمُونِ فَصَارَ كَشَمَنِ الدَّوَاءِ وَ تَخْلِيصِهِ عَنِ الْجَنَائَةِ بِالْفِدَاءِ

ترجمہ..... اگر بھاگ جانے والا غلام کسی کے پاس رہن رکھا ہوا تھا تو اس کے واپس لانے کا جعل (خرچ) اس کے مرتہن (جس کے پاس اسے رہن رکھا گیا ہو) کے ذمہ ہوگا۔ کیونکہ واپس لانے والے نے اس کی ملکیت زندہ کر دی ہے۔ حالانکہ اس کی مالیت مرتہن کا حق ہے کیونکہ اس مرہون غلام کی واپسی سے ہی اس کی دی ہوئی رقم اسے واپس ملے گی۔ اور اس کے بغیر اسے واپس نہیں ملے گی اور اپنی مالیت کے حق کو باقی رکھنے کے لئے اس کا جعل ادا کرنا واجب ہے اس لئے وہ جعل اسی مرتہن کے ذمہ ہوگا اور اس کا راہن خواہ زندہ رہے یا مر جائے دونوں حال میں اس کا حکم یکساں ہے کیونکہ راہن کے مرجانے سے رہن باطل نہیں ہوتا ہے۔ اس مرتہن پر جعل اسی صورت میں واجب ہوگا جبکہ مرہون غلام کی قیمت قرض کی قیمت کے برابر یا اس سے کم ہو۔ اس لئے اگر قرض سے زیادہ ہو تو مرتہن پر اس کے قرض کی مناسبت سے جعل لازم آئے گا اور باقی خود راہن کے ذمہ ہوگا کیونکہ مرتہن کا حق اس میں صرف اس کی ضمانت کے برابر ہے اس لئے اس کا حکم ایسا ہوگا جیسے دوا کی قیمت اور جرم سے چھڑانے کا فدیہ (یعنی اگر مرہون غلام نے خطا کسی کو قتل کر دیا یا وہ خود بیمار ہو گیا تو اس قتل کا فدیہ یا بیماری کے سلسلہ کی دوا کی قیمت مرتہن کے قرض کی مناسبت سے اس پر لازم ہوگی اور باقی راہن کے ذمہ ہوگا۔ ایسا ہی یہاں ہوگا)۔

تشریح..... راہن، مرتہن، مرہون اور جعل کی وضاحت: حماد نے خالد کے پاس اپنا غلام زاہد رکھ کر تین ہزار روپے وصول کئے یہ کہہ کر کہ روپے آ جانے سے آپ کو ادا کر کے اپنا غلام واپس لے لوں گا۔ یہی معاملہ رہن کا ہوا تو حامد راہن اور خالد مرتہن اور زاہد مرہون ہوا۔ پھر موقع پا کر غلام بھاگ گیا۔ اور تیسرے شخص ساجد نے کسی طرح اسے پکڑ لیا جس میں اسے تین سو خرچ ہوئے تو یہی خرچ جعل کہلائے گا۔

### غلام آبق مدیون ہو تو قرضہ مولیٰ پر ہے

وَ اِنْ كَانَ مَدْيُونًا فَعَلَى الْمَوْلَى اِنْ اخْتَارَ قَضَاءَ الدَّيْنِ وَ اِنْ بَاعَ بُدْيَ بِالْجُعْلِ وَ الْبَاقِي لِلْعُرْمَاءِ لِاَنَّهُ مُؤَنَةُ الْمِلْكِ وَ الْمِلْكُ فِيهِ كَالْمَوْقُوفِ فَيَجِبُ عَلَى مَنْ يَسْتَقْرِ لَهُ

ترجمہ..... اور اگر بھاگ ہو غلام قرضدار ہو تو (دیکھا جائے کہ اگر اس کا مولیٰ اس قرض کو خود ادا کرنے پر راضی ہے تو اس غلام کو واپس لانے کا جعل بھی اس کے ذمہ ہوگا۔ اور اگر اس نے اس کے قرض کی ادائیگی سے انکار کیا اس بناء پر وہ غلام قرض کے سلسلہ میں فروخت کیا گیا تو پہلے وہ جعل ادا کر دیا جائے۔ اور باقی قرض خواہوں کا ہوگا۔ کیونکہ جعل تو اس ملکیت پر اس کے واپس لانے کا خرچ ہے اور ملکیت منزل موقوف کے ہے۔ اس لئے اس پر جس کی ملکیت ثابت ہوگی۔ اسی پر وہ جعل یا خرچ لازم آئے گا۔

### آبق نے کوئی جنایت کی تو مولیٰ پر جنایت کا تاوان لازم ہوگا یا نہیں

وَ اِنْ كَانَ جَانِبًا فَعَلَى الْمَوْلَى اِنْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ لِعَوْدِ الْمَنْفَعَةِ اِلَيْهِ وَ عَلَى الْاَوْلِيَاءِ اِنْ اخْتَارَ الدَّفْعَ لِعَوْدِهَا اِلَيْهِمْ

ترجمہ..... اور اگر غلام سے خطا کوئی قتل ہو گیا ہو تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے مولیٰ نے اس کے قتل کا فدیہ دینا قبول کر لیا ہو تو اس غلام کو واپس لانے کا جعل اسی مولیٰ پر لازم ہوگا۔ کیونکہ اس غلام کی واپسی سے غلام کا نفع اسی مولیٰ کا ہوگا۔ اور اگر مولیٰ نے قتل کے فدیہ میں یہ غلام ہی مقتول کے ورثہ کو ذمہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہو تو اب اس کی واپسی کا جعل بھی ان ورثہ پر ہی لازم ہوگا۔ کیونکہ موجودہ صورت میں اس غلام کی واپسی سے ان ورثہ ہی کو فائدہ پہنچے گا۔

آبق موہوب ہے تو جعل موہوب لے پر ہے

وَإِنْ كَانَ مَوْهُوبٌ بَأْفَعَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ وَإِنْ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِي هَبْتِهِ بَعْدَ الرَّدِّ لَأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لِلْوَاهِبِ مَا حَصَلَتْ بِالرَّدِّ بَلْ يَتَرَكِ الْمَوْهُوبُ لَكَ التَّصَرُّفَ فِيهِ بَعْدَ الرَّدِّ

ترجمہ..... اور اگر یہ غلام ہبہ کیا ہوا ہو تو اس کا جعل اسی پر لازم ہوگا جسے وہ غلام ہبہ کے طور پر دے دیا گیا ہو۔ اگرچہ واپسی کے بعد ہبہ کرنے والا اپنا ہبہ واپس لے لے کیونکہ اس کی واپسی سے ہبہ کرنے والے کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ بلکہ اسی وقت اسے فائدہ ہوگا جبکہ موہوب لہ نے (یعنی جسے ہبہ کیا گیا تھا) اپنا اختیار اس سے ختم کر دیا ہو۔

بچے کے بھاگے ہوئے غلام کو لایا گیا تو جعل بچے کے مال میں ہے

وَإِنْ كَانَ لِصَبِيٍّ فَالْجُعْلُ فِي مَالِهِ لِأَنَّهُ مَوْنَةٌ مِلْكِهِ وَإِنْ رَدَّهِ وَصِيُّهُ فَلَا جُعْلَ لَهُ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى الرَّدَّ فِيهِ

ترجمہ..... اور اگر یہ بھگوڑا غلام کسی نابالغ کا ہو تو اس کا جعل اسی بچے کے مال میں لازم ہوگا۔ کیونکہ یہ جعل تو اس کے ملک پر خرچ آیا ہوا ہے۔ اور اگر اس نابالغ کا وصی اسے واپس لے کر آیا ہو تو اس وصی کو اس کا جعل نہیں ملے گا۔ کیونکہ اس غلام کو ڈھونڈھ کر لے آنا اس کی ذاتی ذمہ داری ہے۔





## کتاب المفقود

ترجمہ..... کتاب، مفقود کے بیان میں

### مفقود کی تعریف

إِذَا غَابَ الرَّجُلُ فَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَوْضِعٌ وَلَا يُعْلَمُ أَحْيٌ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ نَصَبَ الْقَاضِي مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ وَيُقِيمُ عَلَيْهِ وَيَسْتَوْفِي حَقَّهُ لِأَنَّ الْقَاضِي نَصَبَ نَاطِرُ الْكُلِّ عَاجِزٌ عَنِ النَّظَرِ لِنَفْسِهِ وَالْمَفْقُودُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَصَارَ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَفِي نَصَبِ الْحَافِظِ لِمَالِهِ وَالْقَائِمِ عَلَيْهِ نَظَرٌ لَهُ وَقَوْلُهُ يَسْتَوْفِي حَقَّهُ لَا خِفَاءَ أَنَّهُ يَقْبِضُ غَلَاتِهِ وَالَّذِينَ السُّلْبِيُّ أَقْرَبُهُ غَرِيمٌ مِنْ غُرْمَائِهِ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْحِفْظِ وَيُخَاصِمُ فِي دَيْنٍ وَجَبَ بِعَقْدِهِ لِأَنَّهُ أُصِيلَ فِي حُقُوفِهِ وَلَا يُخَاصِمُ فِي الَّذِي تَوَلَّاهُ الْمَفْقُودُ وَلَا فِي نَصِيبٍ لَهُ فِي عَقَارٍ أَوْ عَرُوضٍ فِي يَدِ رَجُلٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا نَائِبٍ عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ وَكَيْلٌ بِالْقَبْضِ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي وَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ بِإِلْخِلَافٍ إِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ فِي الدَّيْنِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمُ بِهِ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ وَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا إِذَا رَأَاهُ الْقَاضِي وَقَضَى بِهِ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ ثُمَّ مَا كَانَ يُخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادُ يَبِيعُهُ الْقَاضِي لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ حِفْظُ صُورَتِهِ فَيَنْظُرُ لَهُ بِحِفْظِ الْمَعْنَى

ترجمہ..... (مفقود وہ شخص ہے جو اپنے لوگوں سے اس طرح غائب ہو گیا ہو کہ اس کی زندگی یا موت کا کچھ حال معلوم نہ ہو اسی لئے فرمایا ہے۔ واذا غاب الرجل..... الخ اگر کوئی شخص اس طرح غائب ہو گیا کہ اس کا ٹھکانا بالکل معلوم نہ ہو سکے یہاں تک کہ یہ بھی معلوم نہ ہو کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے۔ ایسی حالت میں قاضی کسی ایک ایسے شخص کو اس کام کے لئے مقرر کر دے جو اس کے مال کی حفاظت اور دیکھ بھال کرے اور اس کے حقوق وصول کرے۔ اس لئے کہ قاضی کو تو ہر ایسے شخص کے لئے ذمہ دار محافظ بنایا گیا ہے جو اپنی ذاتی ضروریات اور معاملات کی خود دیکھ بھال اور معاملات سے عاجز ہو جائے۔ اور اس مفقود میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے۔ اس لئے وہ بھی چھوٹے بچوں یا دیوانوں کے جیسا ہو گیا۔ اور اس کے مال کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنے والا مقرر کرنے میں اس مفقود ہی کی بہتری مد نظر ہوتی ہے۔ اور اب وہ اس مفقود کے حقوق کو وصول کرے تو کس طرح۔ تو معلوم ہونا چاہئے کہ وہ نمائندہ شخص اس کے مال کی آمدنی و پیداوار وصول کرتا رہے گا اور اس کے مقروض افراد میں سے جس جس نے اس سے قرض لینے کا اقرار کیا ہو ان میں سے ہر ایک سے قرض بھی وصول کرے گا۔ کیونکہ اس مفقود کے مال کی حفاظت کا یہ بھی ایک طریقہ ہے اور قاضی کے پاس جا کر ایسے قرض کے بارے میں وہ مقدمہ بھی پیش کر سکتا ہے جو اس وصی کے معاملہ سے واجب ہوا ہو۔ کیونکہ ایسے حقوق کے بارے میں یہ خود ہی اصل ذمہ دار ہے۔ اور جس قرضہ کا ذمہ دار خود وہ مفقود ہوا ہو اس میں یہ مختصم نہیں کر سکتا ہے اور اس مفقود کی غیر منقولہ جائیداد یا مال منقولہ کسی شخص کے قبضہ میں ہو یا حصہ ہو اس کے بارے میں بھی قاضی کے پاس مختصم نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ نہ تو خود اصلی مالک ہے اور نہ ہی اس کا نائب ہے۔ بلکہ وہ تو صرف قاضی کی طرف سے وصول اور قبضہ کرنے کے لئے وکیل مقرر کیا گیا ہے اور ایسا وکیل بالاتفاق نالاش اور خصومت نہیں کر سکتا



ہے۔ البتہ جس وکیل کو مالک نے اپنا قرض وصول کرنے کا وکیل مقرر کیا ہو تو ایسے وکیل کے بارے میں کچھ اختلاف بھی ہے کہ وہ ناش کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ اب جبکہ یہ بات معلوم ہوگئی کہ یہ شخص (وکیل) مختصہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کی خصوصیت پر کوئی حکم ہو وہ غائب پر حکم دینے کو شامل ہے۔ حالانکہ یہ بات جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر قاضی کی رائے میں یہ بات جائز ہو اور اس نے حکم بھی دیا ہو تو اس کا حکم نافذ ہو جائے گا کیونکہ یہ مسئلہ مجتہد فیہ ہے (جس میں اجتہاد کرنے کی گنجائش ہو)۔ پھر مفقود کے جس مال کے بارے میں یہ خوف ہو کہ وہ چیز خراب ہو جائے گی اچھی حالت میں دیر تک نہیں رہ سکتی ہے قاضی اس چیز کو فروخت کر دینے کا حکم دے گا۔ کیونکہ جب کوئی چیز بعینہ اپنی اصل حالت میں محفوظ نہیں رکھی جاسکتی ہو اور اسے محفوظ رکھنا ممکن نہ ہو تو اسے معنًا محفوظ رکھا جائے یعنی اسے فروخت کر کے اس کی قیمت محفوظ کر لی جائے۔

### جس مال کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہو اسے بیچا نہ جائے

وَلَا يَبِيعُ مَا لَا يُخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادُ فِي نَفَقَةٍ وَلَا غَيْرَهَا لِأَنَّهُ لَا وَلا يَئِة لَهُ عَلَى الْغَائِبِ إِلَّا فِي حِفْظِ مَالِهِ فَلَا يُسَوِّغُ لَهُ تَرْكُ حِفْظِ الصُّورَةِ وَهُوَ مُمَكِّنٌ

ترجمہ..... اور جس مال کے خراب یا ضائع ہونے کا خوف نہ ہو اسے وہ فروخت نہ کرے (جیسی بھی ضرورت ہو) یعنی خواہ نفقہ کی ضرورت ہو یا دوسری کوئی اور ضرورت ہو۔ کیونکہ خود قاضی کو بھی غائب آدمی کے مال میں اسی قدر تصرف کا حق رہتا ہے کہ اس کی حفاظت ہو سکے۔ جب تک اصل مال کی اسی حالت میں حفاظت ممکن ہو اس کے خلاف کرنا جائز نہ ہوگا۔

### مفقود کے مال سے بیوی اور اولاد پر خرچ کیا جائے

قَالَ وَيُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ مِنْ مَّالِهِ وَلَيْسَ هَذَا الْحُكْمُ مَقْصُورًا عَلَى الْأُولَى دَبَلُ يَغْمُ جَمِيعَ قَرَابَةِ الْوَلَادِ وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ فِي مَالِهِ حَالَ حَضَرَتِهِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ مَّالِهِ عِنْدَ غَيْبَتِهِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ حِينَئِذٍ يَكُونُ إِعَانَةً وَكُلُّ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا فِي حَضَرَتِهِ إِلَّا بِالْقَضَاءِ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ مَّالِهِ فِي غَيْبَتِهِ لِأَنَّ النَّفَقَةَ حِينَئِذٍ تَحِبُّ بِالْقَضَاءِ وَالْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ مُمْتَنِعٌ فَمِنَ الْأَوَّلِ الْأُولَى دَالِ الصَّغَارِ وَالْإِنَاثِ مِنَ الْكِبَارِ وَالزَّمَنِي مِنَ الذُّكُورِ الْكِبَارِ وَمِنَ الثَّانِي الْأَخُ وَالْأُخْتُ وَالْخَالَ وَالْخَالَةُ

ترجمہ..... قاضی کی طرف سے مقرر کردہ شخص مفقود کے مال سے اس کی بیوی و بچوں کو خرچ دے اور یہ حکم اس کی اولاد ہی کے لئے نہیں ہے بلکہ جن لوگوں سے پیدائشی تعلق ہو یعنی والدین و دادا، پوتے وغیرہ سب محتاجوں کو نفقہ دے۔ اس معاملہ میں اصل یہ ہے کہ جو لوگ اس کی موجودگی میں قاضی کے حکم کے بغیر خود ہی اس کے مال سے نفقہ پانے کے مستحق ہوئے تھے ان سب پر اس کے غائب ہونے کی صورت میں بھی اس کے مال سے نفقہ دے۔ کیونکہ اس صورت میں قاضی کا حکم صرف اصلی حکم کی تائید اور اس پر عمل کرنا ہوتا ہے یعنی نفقہ پانے کا مستحق ہونا قاضی کے حکم سے پہلے سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس کی موجودگی میں قاضی کے حکم کے بغیر اس سے نفقہ کا استحقاق نہیں رکھتے تھے ان کا نفقہ نہیں دے گا کیونکہ ایسی صورت میں نفقہ کا وجوب قاضی کے حکم سے ثابت ہوتا ہے اور غائب شخص پر قاضی حکم نہیں لگا سکتا ہے اس لئے پہلی قسم میں سے



(یعنی وہ لوگ جو قاضی کے حکم کے بغیر بھی نفقہ کے مستحق ہوتے ہیں وہ مفقود کے نابالغ بچے اور بالغ لڑکیاں ہیں اسی طرح بالغ لڑکوں میں سے جو اپانچ ہوں اور قسم دوم یعنی وہ لوگ جو قاضی کے حکم کے بغیر مستحق نہ ہوں وہ بھائی، بہن، ماموں اور خالہ ہیں۔

### مال کا مصداق

وَقَوْلُهُ مِنْ مَّالِهِ مُرَادُهُ الدَّرَاهِمُ وَالذَّنَائِرُ لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي الْمَطْعُومِ وَالْمَلْبُوسِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي مَالِهِ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَضَاءِ بِالْقِيَمَةِ وَهِيَ النِّقْدَانِ وَالتَّبَرُّ بِمَنْزِلَتِهِمَا فِي هَذَا الْحُكْمِ لِأَنَّهُ يَصْلُحُ قِيَمَةً كَالْمَصْرُوبِ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ فِي يَدِ الْقَاضِي

ترجمہ..... اس جگہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اس کے مال سے نفقہ دے تو مال سے مراد درہم یا دینار ہیں (یعنی نقد روپے اور اشرفی ہے) کیونکہ ان لوگوں کا حق کھانے اور لباس میں ہوتا ہے۔ اور جب اس کے مال میں غلہ اور کپڑا موجود نہ ہو تو اس کی قیمت دینے کا حکم ہوگا۔ اور اس کی قیمت تو یہی روپے اور اشرفی وغیرہ ہیں۔ اور اس معاملہ میں بغیر ڈھلی ہوئی چاندی سونا بھی سکہ دار روپیہ اور اشرفی کے حکم میں ہے۔ کیونکہ ڈھلے ہوئے سکوں کی طرح ان کی ڈلی کا بھی حکم ہے (یعنی ڈلی بھی قیمت بن سکتی ہے)۔ یہ باتیں اسی صورت میں ہوں گی کہ مال قاضی کے اختیار میں ہو۔

### ودیعت اور دین سے خرچ کیا جائے گا

فَإِنْ كَانَتْ وَدِيعَةً أَوْ دِينًا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْهُمَا إِذَا كَانَ الْمُودَعُ وَالْمَدْيُونُ مُقَرَّنَيْنِ بِالْدِّينِ وَالْوَدِيعَةُ وَالنِّكَاحُ وَالنَّسَبُ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُونَا ظَاهِرَيْنِ عِنْدَ الْقَاضِي فَإِنْ كَانَا ظَاهِرَيْنِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْإِقْرَارِ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ظَاهِرًا يُشْتَرَطُ الْإِقْرَارُ بِمَا لَيْسَ بِظَاهِرٍ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ

ترجمہ..... اور اگر اس کا مال کسی دوسرے شخص کے پاس بطور امانت یا قرض کے ہو تو اس امانت یا قرض میں سے ان لوگوں کو اسی صورت میں نفقہ دے گا جبکہ وہ امانت دار یا قرض دار امانت اور قرض کے ہونے اور اس کی بیوی سے اس غائب کے نکاح کے باقی رہنے اور دوسروں کے نسب ہونے کا اقرار کرتے ہوں۔ لیکن اقرار ہونے کی ضرورت اسی صورت میں ہوگی جبکہ خود قاضی کے نزدیک یہ باتیں ظاہر نہ ہوں (یعنی اسے معلوم نہ ہوں) اور اگر دونوں باتوں کا اسے بھی علم ہو تو اقرار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر دونوں میں سے ایک بات ظاہر ہو تو دوسری بات جو ظاہر نہ ہو اس کا اقرار شرط ہے۔ یہی حکم صحیح ہے۔

### مُودَعٌ اور مَنْ عَلَيْهِ الدِّينُ نے قاضی کے فیصلے کے بغیر خرچ کیا تو مُودَعٌ

ضامن ہوگا اور مدیون دین سے بری نہیں ہوگا

فَإِنْ دَفَعَ الْمُودَعُ بِنَفْسِهِ أَوْ مَنْ عَلَيْهِ الدِّينُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي يَضْمَنُ الْمُودَعُ وَلَا يَبْرَأُ الْمَدْيُونُ لِأَنَّهُ مَا أَدَّى إِلَى صَاحِبِ الْحَقِّ وَلَا إِلَى نَائِبِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا دَفَعَ بِأَمْرِ الْقَاضِي لِأَنَّ الْقَاضِي نَائِبٌ عَنْهُ



ترجمہ..... اور اگر امانت دار یا قرض دار نے قاضی کے حکم کے بغیر خود ہی نفقہ کے مستحقین میں مال تقسیم کر دیا تو امانت دار ضامن ہوگا۔ اور قرض دار بری نہ ہوگا۔ کیونکہ اس نے اصل حقدار یا اس کے نائب کو نہیں دیا ہے۔ اس کے برخلاف اگر قاضی کے حکم سے دیا ہو تو وہ بری ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس مفقود کی طرف سے قاضی اس کا نائب ہے۔

مودع اور مدیون منکر ہوں پھر کیا حکم ہے

وَإِنْ كَانَ الْمَوْدِعُ وَالْمَدْيُونُ جَا حِدَيْنِ أَصْلًا أَوْ كَانَا جَا حِدَيْنِ الزَّوْجِيَّةِ وَالنَّسَبِ لَمْ يَنْتَصِبْ أَحَدٌ مِّنْهُمَا حَقِّي النِّفْقَةِ خَصْمًا فِي ذَلِكَ لِأَنَّ مَا يَدْعِيهِ لِلْغَائِبِ لَمْ يَتَّعِنْ سَبَبًا لِثُبُوتِ حَقِّهِ وَهُوَ النِّفْقَةُ لِأَنَّهَا كَمَا تَجِبُ فِي هَذَا الْمَالِ تَجِبُ فِي مَالِ الْآخَرِ لِلْمَفْقُودِ

ترجمہ..... اور اگر امانت دار یا قرض دار اصل امانت کے رکھنے یا قرض لینے کے منکر ہوں یا ان کے درمیان نسب یا میاں بیوی کے رشتہ ہونے کے منکر ہوں تو نفقہ کے مستحقین میں سے کوئی شخص اس بارہ میں منکر کا مقابل خصم نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ غائب کے واسطے وہ جس کسی چیز کا بھی مدعی ہو وہ اس کا حق ثابت ہونے کے واسطے متعین سبب نہیں ہے اور اس کا حق نفقہ ہے۔ کیونکہ نفقہ جیسے اس میں واجب ہے ویسے ہی مفقود کے دوسرے مال میں بھی واجب ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ غائب کی طرف سے ایسا کوئی شخص جسے غائب نے اپنا نائب مقرر نہیں کیا ہو اگر مختصمہ کرے تو وہ مقبول نہیں ہوتا ہے۔ سوائے اس ایک صورت کے کہ اس شخص کا ذاتی حق ثابت ہونا اس بات پر موقوف ہو کہ پہلے یہ شخص غائب کے لئے کوئی بات ثابت کرے۔ پس وہ گواہ پیش کر کے غائب کے لئے پہلے ثابت کرے گا تا کہ اس کے بعد اس کا حق ثابت ہو اور یہاں جو لوگ نفقہ کے مستحق ہیں اگر وہ امانت دار یا قرض دار پر مفقود کی امانت یا قرض ثابت بھی کریں تب بھی ان کا حق ثابت نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ نفقہ واجب ہونا مفقود کے قرض یا امانت ہی میں منحصر نہیں ہے۔ بلکہ مفقود کے دوسرے مال میں واجب ہے۔ الحاصل یہ لوگ غائب کی طرف سے مدعی نہ ہوں گے۔

مفقود اور اس کی بیوی کے درمیان کب تفریق کی جائے گی، اقوال فقہاء

قَالَ وَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ يُفَرِّقُ الْقَاضِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَتُعْتَدُ عِدَّةُ الْوِفَاةِ ثُمَّ تَزَوَّجَ مِنْ شَاءَتْ لِأَنَّ شُمْرَهُ هَكَذَا قَضَى فِي الَّذِي اسْتَهْوَاهُ الْجَنُّ بِالْمَدِينَةِ وَكَفَى بِهِ إِمَامًا وَلِأَنَّهُ مَنَعَ حَقَّهَا بِالْغَيْبَةِ فَيُفَرِّقُ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَاضِي مُدَّةِ اعْتِبَارٍ بِالْإِيْلَاءِ وَالْعِنَةِ وَبَعْدَ هَذَا الْإِعْتِبَارِ أَخَذَ الْمُقَدَّارُ مِنْهُمَا الْأَرْبَعَ مِنَ الْإِيْلَاءِ وَالسِّنِينَ مِنَ الْعِنَةِ عَمَلًا بِالشَّهْنَيْنِ وَلَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ وَقَوْلُ عَلِيٍّ فِيهَا هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَسْتَبِينَ مَوْتَ أَوْ طَلَاقٍ حَرَجَ بَيَانُ الْبَيَانِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَرْفُوعِ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ عُرِفَ ثُبُوتُهُ وَالْغَيْبَةُ لَا تُوجِبُ الْفُرْقَةَ وَالْمَوْتُ فِي حَيْرِ الْإِحْتِمَالِ فَلَا يَزَالُ النِّكَاحُ بِالشَّكِّ وَغُمَرٍ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ وَلَا مُعْتَبَرٌ بِالْإِيْلَاءِ لِأَنَّهُ كَانَ طَلَاقًا مُعْجَلًا فَاعْتَمَرَ فِي الشَّرْعِ مُوْجِبًا لِلْفُرْقَةِ وَلَا بِالْعِنَةِ لِأَنَّ الْغَيْبَةَ تُعَقِّبُ الْإِوْبَةَ وَالْعِنَةُ وَقَلَّمَا تَنْحُلُ بَعْدَ السَّمْرِ رَهْمًا سَنَةً



ترجمہ..... اور مفقود اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب چار برس گزر جائیں تو اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان قاضی تفریق کر دے پھر وہ عورت وفات (شوہر) کی عدت گزارے۔ پھر وہ جس مرد سے نکاح کرنا چاہے کر لے۔ کیونکہ حضرت عمرؓ نے مدینہ میں جس شخص کو جن اٹھا کر لے گئے تھے اس کی بیوی کے بارے میں یہی حکم دیا تھا اور حضرت عمرؓ کا امام ہونا بھی کافی ہے (اس اثر کو امام مالک و ابن ابی الدنیا و ابن ابی شیبہ و عبدالرزاق و دارقطنی نے روایت کیا ہے اور اس حکم کے مثل حضرت علی و عثمانؓ سے بھی مروی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہے۔ کیونکہ ان کا مخالف کوئی معلوم نہیں ہوتا)۔ (الزرقانی)

ان کے درمیان تفریق اس لئے کی جائے کہ اس مفقود نے غائب ہو کر عورت کا حق روک دیا ہے۔ پھر عدت گزر جانے پر قاضی دونوں میں تفریق کر دے گا جیسے ایلاء و عنین کی صورت میں ہوتا ہے (پس ایک اعتبار سے اس مسئلہ کو ایلاء سے مشابہت ہے اور دوسرے اعتبار سے عنین سے اسے مشابہت ہے)۔ پھر جب ایلاء و عنین پر قیاس ہوا تو انہیں دونوں سے چار برس کی مدت لی گئی اس طرح سے کہ ایلاء سے چار اور عنین سے سال لئے تاکہ دونوں مشابہتوں پر عمل ہو جائے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہؐ نے مفقود کی بیوی کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ اسی شوہر کی بیوی رہے گی یہاں تک کہ اس کی تحقیق ہو جائے (دارقطنی نے اس کی روایت کی ہے۔ مگر یہ ضعیف ہے) اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ یہ ایک عورت ہے جو مصیبت میں مبتلا کی گئی ہے۔ لہذا اس سے صبر کرنا چاہئے۔ یہاں تک کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ اس کا شوہر مر گیا ہے یا اس نے اسے طلاق دے دی ہے۔ (رواہ عبدالرزاق)۔ پس حضرت علیؓ کا یہ قول حدیث کے بیان کا بیان ہے اور اس دلیل سے کہ نکاح کا ثبوت یقینی معلوم ہے اور شوہر کا غائب ہو جانا جدائی کو لازم نہیں کرتا ہے اور مفقود کا مرجع ایک احتمالی صورت ہے تو احتمال آ جانے سے پہلا یقینی نکاح باطل نہیں قرار دیا جائے گا۔ اور حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کے قول کی طرف رجوع کیا ہے۔ اور غائب ہونے کے مسئلہ کو ایلاء پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں تو ایلاء فوری طلاق کے حکم میں تھے۔ جسے شریعت نے اب چار مہینوں کے بعد اسے طلاق ٹھہرایا ہے۔ پس ایلاء فرقت کا سبب ہے اور عنین پر قیاس نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ غائب شدہ تو کسی وقت واپس آ جاتا ہے۔ اور عنین کا مرض جب متواتر ایک سال رہ گیا تو اس سے افاقہ کی امید بہت ہی کم رہ جاتی ہے (ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس مسئلہ میں صحابہ کرامؓ کے درمیان اختلاف تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اثر کو عبدالرزاق نے حکم بن عتیہ سے روایت کیا ہے۔ حالانکہ حکم نے حضرت علیؓ کو نہیں پایا ہے اور عبدالرزاق نے ابن جریج سے روایت کی ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بھی حضرت علیؓ سے موافقت کی ہے۔ اور یہی مذہب تابعین میں سے ابو قلابہ و جابر بن زید و شعبی و نخعی سے ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے۔ پھر واضح ہو کہ رد المختار میں ابن وہبان و زاہدی وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ جہاں ضرورت پیش آ جائے وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دینا جائز ہے۔ جیسے ایک عورت کو ایک حیض آ کر ختم ہو گیا پھر مسلسل طہر رہنے لگا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نو مہینے گزر جانے پر اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اور فتاویٰ بزاز یہ ہیں کہ ہمارے زمانہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہے)۔

تشریح..... اگر کسی عورت کا خاوند مفقود ہو تو امام ابو حنیفہؒ کے ہاں قاضی مفقود اور اس کی بیوی میں تفریق کرنے کا مجاز نہیں۔ اسلئے کہ حدیث میں فرمایا گیا اِنَّهَا اِمْرَاَتُهُ حَتّٰی يَأْتِيَهَا اور حضرت علیؓ نے ایسی عورت مصیبت میں مبتلا قرار دیا ہے کہ اسے صبر کرنا چاہئے اور جب مفقود



کی زندگی و موت ہر دو کا احتمال ہے تو نکاح شک سے زائل نہ ہوگا۔ امام مالک کے ہاں مفقود کے جب چار سال گزر جائیں تو قاضی مفقود اور اس کی بیوی میں تفریق کر دے گا۔ دلیل وہ روایت ہے کہ مدینہ میں ایک شخص کو جنات لے گئے تو حضرت عمرؓ نے چار سال گزرنے پر تفریق کر دی تھی اور اسلئے بھی کہ مفقود نے اپنی بیوی کا حق روکا ہے لہذا عین اور ایلاء کے ساتھ ایک قسم کی مشابہت کی بناء پر تفریق کر دی جائے گی۔

احناف نے یہ جواب دیا کہ نکاح یقینی امر ہے اس کو احتمال کی بناء پر زائل نہیں کیا جاسکتا اور ایلاء پر قیاس کرنا درست نہیں اسلئے کہ ایلاء کا ثبوت قسم و تعلیق کے وجود پر مبنی ہے اور مفقود میں قسم و تعلیق کی بناء پر ملحدگی نہیں ہوتی اور عین پر قیاس بھی درست نہیں اسلئے کہ اس میں مرد و عورت پر قابو نہیں پاسکتا اور ایک سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اس میں تندرستی بہت کم ہے۔

### مفقود کی موت کا کب حکم دیا جائے گا

قَالَ وَإِذَا تَمَّ لَهُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً مِّنْ يَوْمِ وُلِدَ حَكَمْنَا بِمَوْتِهِ قَالَ وَهَذِهِ رَوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ وَفِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ يُقَدَّرُ بِمَوْتِ الْأَقْرَانِ وَفِي الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ بِمِائَةِ سَنَةٍ وَقَدَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِتِسْعِينَ وَالْأُفْقَى أَنَّهُ لَا يُقَدَّرُ بِتِسْعِيٍّ وَالْأَرْفَقُ أَنَّهُ يُقَدَّرُ بِتِسْعِينَ وَإِذَا حَكَمَ بِمَوْتِهِ اعْتَدَتْ أَمْرَاتُهُ عِدَّةُ الْوَفَاةِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ

ترجمہ۔۔۔ اور جب مفقود شوہر کی عمر تارتخ پیدائش سے پورے ایک سو بیس برس ہو جائیں تب ہم اس کی موت ہو جانے کا فیصلہ کر دیں گے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روایت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کی ہے۔ اور ظاہر مذہب کے مطابق اس کے ہم عمر لوگوں کی موت سے کیا جائے گا۔ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق ایک سو برس کا اندازہ ہوگا۔ بعض فقہاء نے نوے برس کا اندازہ کیا ہے۔ لیکن قیاس سے زیادہ مطابق یہ ہے کہ کسی مقدار سے اندازہ نہ کیا جائے۔ اور زیادہ آسان یہ ہے کہ نوے برس کا اندازہ کیا جائے (اسی پر فتویٰ ہے) اور جب مفقود کی موت ہو جانے کا اندازہ اور فیصلہ کر لیا جائے تب اسی وقت سے اس کی بیوی اپنی عدت وفات پوری کرے۔

### موجودہ ورثاء میں مال تقسیم کیا جائے گا

وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمَوْجُودِينَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَأَنَّهُ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مُعَايَنَةً إِذَا الْحُكْمُ مُعْتَبَرٌ بِالْحَقِيقِ

ترجمہ۔۔۔ وقسم ماله الخ اور اس کا مال اس کے ان وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے جو اس وقت موجود ہوں۔ گویا وہ شخص اس وقت ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے مرا ہے۔ کیونکہ حکمی موت کا حقیقی موت پر قیاس ہے۔

### مفقود کی موت کے حکم سے پہلے کوئی فوت ہو گیا وارث نہ ہوگا

وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَرِثْ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْكَمْ بِمَوْتِهِ فِيهَا فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَتْ حَيَاتُهُ مَعْلُومَةً وَلَا يَرِثُ الْمَفْقُودُ أَحَدًا مَاتَ فِي حَالٍ فَقْدِهِ لِأَنَّ بَقَاءَهُ حَيًّا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ وَهُوَ لَا يَصْلُحُ حُجَّةً فِي الْأُسْتِحْقَاقِ۔

ترجمہ..... اور اس کے اقارب میں سے جو کوئی اس سے ذرا پہلے مر چکا ہو وہ اس کا وارث نہ ہوگا۔ کیونکہ اس حالت میں اس مفقود کی موت کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو ایسا ہے کہ جیسے اس کے زندہ ہونے کا اندازہ معلوم ہو۔ اور مفقود خود بھی کسی ایسے کا وارث نہ ہوگا جو اس کے گم ہونے کی حالت میں مر گیا ہو۔ کیونکہ بظاہر حال وہ اس وقت زندہ ہے اور یہ کیفیت استحقاق کے لئے حجت نہیں ہو سکتی ہے۔

### مفقود کیلئے کسی نے وصیت کی اور موصی مر گیا وصیت کا حکم

وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى لِلْمَفْقُودِ وَمَاتَ الْمُوصِي ثُمَّ الْأَصْلُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَ الْمَفْقُودِ وَارِثٌ لَا يُحْبَبُ بِهِ وَلَكِنَّهُ يَنْتَقِصُ حَقُّهُ بِهِ يُعْطَى أَقْلُ النَّصِيبَيْنِ وَيُوقَفُ الْبَاقِي وَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ يُحْبَبُ بِهِ لَا يُعْطَى أَصْلًا بَيَانُهُ رَجُلٌ مَاتَ عَنِ ابْنَتَيْنِ وَابْنٍ مَفْقُودٍ وَابْنِ ابْنٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ وَالْمَالُ فِي يَدِ الْأَجْنَبِيِّ وَتَصَادَقُوا عَلَى فَقْدِ الْإِبْنِ وَطَلَبَتِ الْإِبْنَتَانِ الْمِيرَاثَ تَعْطِيَانِ النِّصْفَ لِأَنَّهُ مُتَيَقَّنٌ بِهِ وَيُوقَفُ النِّصْفُ الْآخَرُ وَلَا يُعْطَى وَلَدُ الْإِبْنِ لِأَنَّهُمْ يُحْبَبُونَ بِالْمَفْقُودِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا فَلَا يَسْتَحِقُّونَ الْمِيرَاثَ بِالشَّكِّ

ترجمہ..... اسی طرح اگر مفقود کے لئے کچھ وصیت کی گئی۔ اور وصیت کرنے والا مر گیا ہو تو وصیت صحیح نہ ہوگی (بلکہ موقوف رہے گی) اور مال مفقود کے بارے میں اصل یہ ہے کہ اگر مفقود کے ساتھ ایسا وارث بھی ہو جو مفقود کی وجہ سے محبوب نہ ہو تو وہ وراثت کا حصہ پائے گا لیکن مفقود کے نہ پائے جانے کی وجہ سے وارث کا حق کم ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اس کو دونوں حصوں میں سے کم حصہ دیا جائے گا۔ اور باقی حصہ رکھ دیا جائے گا۔ اور اگر مفقود کے ساتھ ایسا وارث بھی ہو جو محبوب ہوتا ہو تو اس کو حصہ بالکل نہیں دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ فرض کیا جائے کہ ایک شخص اپنی دو بیٹیاں اور ایک مفقود بیٹا اور ایک پوتا اور ایک پوتی چھوڑ کر مر گیا اور اس کا مال کسی اجنبی کے پاس امانتہ موجود ہو۔ اور اس اجنبی نے بھی اور اس کے وارثوں نے بھی لڑکے کے گم ہو جانے پر اتفاق کیا۔ اس وقت دونوں بیٹیوں نے اپنی میراث طلب کی تو ان کو نصف میراث دی جائے گی کیونکہ اتنا پانا یقینی ہے اور باقی آدھا روک کر رکھ لیا جائے گا۔ اور پوتوں کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ مفقود بیٹے کی وجہ سے محبوب ہو جاتے ہیں اس احتمال کی بناء پر کہ شاید وہ بیٹا بھی بھی کہیں زندہ موجود ہو۔ اسی شک کی وجہ سے وہ میراث کے مستحق نہ ہوں گے۔

تشریح..... وکذا لک لو اوصی الخ ترجمہ سے مطلب واضح ہے۔ (مورث، مرنے والا شخص جس کا مال اس کے بعد اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ وارث، مورث کے مال سے حصہ پانے والا شخص محبوب وہ وارث جو کسی وجہ سے یا دوسرے وارث کی موجودگی سے حصہ نہ پاسکے۔ حاجب وہ شخص جس کی موجودگی سے دوسرے کو حصہ نہ مل سکے۔ جیسا کہ اصل مسئلہ میں ہے کہ ساجد مر گیا اور مرتے وقت دس ہزار روپے چھوڑے یہی روپے میراث ہوں گے اس نے کاظمہ اور ناظمہ دو بیٹیاں اور بیٹا حامد جو فی الحال مفقود ہو۔ لیکن اس کا بھی ایک بیٹا عابد اور ایک بیٹی عابدہ موجود ہو جو ساجد کے لئے پوتا اور پوتی ہوئے۔ اس مثال میں کاظمہ اور ناظمہ بیٹیوں کا حصہ شریعت سے مقرر ہے جو نصف میراث ہے یعنی دونوں کو مجموعتہ پانچ ہزار روپے ملنے ہیں حامد بیٹا موجود ہو یا غائب ہو اس سے ان دونوں کے حصہ میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ البتہ اگر حامد بیٹا جو مفقود ہے اگر واقعہ مر گیا ہے تو باقی نصف عابدہ اور عابدہ (پوتا پوتی کے ہوں گے) اور اگر وہ زندہ ہو تو یہی لڑکا اس نصف مال کا مستحق ہوگا۔ اس طرح یہ حامد ان دونوں بچوں کے لئے حاجب ثابت ہوگا اور یہ دونوں



محبوب ہو جائیں گے۔

بچی ہوئی میراث اجنبی سے کب لی جائے گی

وَلَا يُنْزَعُ مِنْ يَدِ الْأَجْنَبِيِّ إِلَّا إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ خِيَانَةٌ وَنَظِيرُ هَذَا الْحَمْلُ فَإِنَّهُ يُوقَفُ لَهُ مِيرَاثُ ابْنٍ وَاحِدٍ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَوْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ آخَرُ إِنْ كَانَ لَا يَسْقُطُ بِحَالٍ وَلَا يَتَغَيَّرُ بِالْحَمْلِ يُعْطَى كُلُّ نَصِيْبِهِ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْقُطُ بِالْحَمْلِ لَا يُعْطَى وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَغَيَّرُ بِهِ يُعْطَى الْأَقْلُ لِلَّتَيْنِ بِهِ كَمَا فِي الْمَفْقُودِ وَقَدْ شَرَحْنَا فِي كِفَايَةِ الْمُنتَهَى بِأَتَمِّ مِنْ هَذَا

ترجمہ..... وَلَا يُنْزَعُ..... الخ اور بچی ہوئی نصف میراث جو اجنبی کے قبضہ میں ہے اس کے قبضہ سے نہیں نکالی جائے گی۔ مگر اسی صورت میں واپس لی جائے گی کہ اس کی طرف سے کوئی خیانت ظاہر ہو۔ اس مسئلہ مفقود کی نظیر حمل کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ حمل ہونے کی صورت میں بھی ایک لڑکے کی میراث روکی جائے گی۔ اسی پر فتویٰ ہے۔ اور اگر حمل کے ساتھ دوسرا وارث بھی ہو اور وہ ایسا وارث ہو جو کسی حال میں ساقط نہ ہوتا ہو اور حمل کی وجہ سے اس کا حصہ کم و بیش نہ ہوتا ہو تو اسے اس کا پورا حصہ دے دیا جائے گا اور اگر ایسا وارث ہو جو حمل کی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہو تو اسے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اور اگر ایسا وارث ہو کہ اس کا حصہ حمل کی وجہ سے کم و بیش ہو جاتا ہو تو اسے کم سے کم حصہ دیا جائے گا کیونکہ اتنا حصہ یقینی ہوتا ہے۔ جیسے مفقود میں ہوتا ہے۔ ہم نے اس مسئلہ کو کفایۃ المنتہی میں پورے طور پر واضح کیا ہے۔

## کِتَابُ الشَّرْکَةِ

ترجمہ..... کتاب، شرکت کے بیان میں

عقد شرکت کا حکم، شرکت کی اقسام

الشَّرْکَةُ جَائِزَةٌ لِأَنَّهُ ۞ بُعِثَ وَالنَّاسُ يَتَعَامَلُونَ بِهَا فَقَرَّرَهُمْ عَلَيْهِ قَالَ الشَّرْکَةُ ضَرْبَانِ شَرْکَةُ أُمْلَاکٍ وَشَرْکَةُ عُقُودٍ فَشَرْکَةُ الْأُمْلَاکِ الْعَيْنُ يَرْتَهَارُ جَلَانٍ أَوْ يَشْتَرِيَانِهَا فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ كَأَلَا جَنْبِي وَهَذِهِ الشَّرْکَةُ يَتَحَقَّقُ فِي غَيْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ كَمَا إِذَا تَهَبَ رَجُلَانِ عَيْنًا أَوْ مَلَكَاها بِالْإِسْتِيْلَاءِ أَوْ اخْتَلَطَ مَالُهُمَا مِنْ غَيْرِ صُنْعٍ أَحَدِهِمَا أَوْ يَخْلُطُهُمَا خَلَطًا يَمْنَعُ التَّمْيِيزَ أَسَا أَوْ إِلَّا بِحَرْجٍ وَيَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا نَصِيبَهُ مِنْ شَرِيكِهِ فِي جَمِيعِ الصُّورِ وَمِنْ غَيْرِ شَرِيكِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِلَّا فِي صُورَةِ الْخَلْطِ وَالْإِخْلَاطِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَقَدْ بَيَّنَّا الْفَرْقَ فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهَى

ترجمہ..... شرکت کا معاملہ جائز ہے کیونکہ رسول اللہ ایسے حال میں تشریف لائے کہ لوگوں میں آپس میں شرکت کا معاملہ جاری تھا اور آپ نے لوگوں کو اسی عمل پر باقی رہنے دیا۔ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ شرکت کی دو قسمیں ہیں (۱) ایک شرکت املاک اور (۲) دوسری شرکت عقود۔ شرکت املاک ایسے متعین مال میں ہوتی ہے جس کے وارث دو شخص ہوں یا دونوں مل کر اسے خریدیں۔ پس ایسی شرکت کی صورت میں دونوں شریکوں میں سے کسی کو بھی دوسرے کے حصہ میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے اور دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے حصہ میں اجنبی کے حکم میں ہوتا ہے۔ یہ شرکت ان چیزوں کے سوا دوسری چیزوں میں بھی ہوتی ہے جو کتاب قدوری میں بھی مذکور ہیں۔ جیسے دو شخصوں کے درمیان ایک متعین چیز بطور ہبہ دی گئی ہو یا دونوں نے مل کر کسی کافر سے کوئی چیز بزور طاقت حاصل کی ہو یا بغیر ارادہ خاص دو آدمیوں کی کوئی چیز مثلاً غلہ وغیرہ ایک ساتھ مل گئی ہو یا دونوں کے ارادہ اور مرضی سے ایسی کوئی دو چیز ملا کر ایک ساتھ رکھ دی گئی ہو۔ اور وہ اس طرح مل گئی ہو کہ اسے علیحدہ کرنا یا تو بالکل ممکن ہی نہ ہو جیسے چینی اور نمک یا علیحدہ کرنا ممکن ہو مگر کافی دقت اور پریشانی کے بعد ہو جیسے مٹر اور چنا تو ان تمام صورتوں میں ایک شریک کا صرف اپنے حصہ کو اپنے دوسرے شریک کے ہاتھ بیچنا جائز ہے۔ اور خلط ملط ہو جانے والی چیز کو اپنے شریک کے علاوہ تیسرے کے پاس بھی بیچنا دوسرے ساتھی کی اجازت سے ہو تو جائز ہے۔ اور بغیر اجازت جائز نہیں ہے اور اگر ایک دوسرے سے بالکل مخلوط نہ ہو تو دوسرے شریک کی اجازت اور بغیر اجازت دونوں طرح بیچنا جائز ہے۔ ہم نے اس کافر اور وجہ اپنی کتاب کفایہ المنتہی میں ذکر کر دیا ہے۔

### شرکت عقود کا رکن

وَالضَّرْبُ الثَّانِي شَرْكَةُ الْعُقُودِ دَوْرُ كُنْهَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا شَارَكْتُكَ فِي كَذَا وَكَذَا وَيَقُولُ الْآخَرُ قَبِلْتُ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ التَّصَرُّفُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ عَقْدَ الشَّرْكِ قَابِلًا لِلْوَكَالَةِ لِيَكُونَ مَا يُسْتَفَادُ بِالتَّصَرُّفِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَيَتَحَقَّقُ حُكْمُهُ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ



ترجمہ..... والضرب الثانی الخ اور شرکت کی دوسری قسم شرکت العقود ہے۔ (یعنی عقد و معاملہ کر کے آپس میں ایک سے زائد آدمیوں کی شرکت کرنا) اس کا رکن ایجاب اور قبول ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص یوں کہے کہ میں نے تم سے فلاں فلاں چیز میں شرکت کی اور دوسرا یوں کہے کہ میں نے یہ شرکت قبول کی۔ اس کی شرط یہ ہے کہ جس معاملہ اور تصرف میں اس شرکت کے معاملہ کو قبول کیا ہو وہ وکالت کے قابل ہوتا کہ اس میں تصرف اور الٹ پھیر سے جو کچھ حاصل ہو وہ ان دونوں میں مشترک ہو۔ اس طرح عقد شرکت کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ متحقق ہو جائے۔

### شرکت عقود کی اقسام اربعہ

ثُمَّ هِيَ أَرْبَعَةٌ أَوْجُهُ مُفَاوَضَةٌ وَعَنَانٌ وَشِرْكَةُ الصَّنَائِعِ وَشِرْكَةُ الْوُجُوهِ فَأَمَّا شِرْكَةُ الْمُفَاوَضَةِ فَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ الرَّجُلَانِ فَيَتَسَاوَيَا فِي مَالِهَا وَتَصَرُّفِهَا وَدَيْنَيْهَا لِأَنَّهَا شِرْكَةُ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ التَّجَارَاتِ يُفَوِّضُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَمْرَ الشِّرْكَةِ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ إِذْ هِيَ مِنَ الْمُسَاوَاةِ قَالَ قَانِلُهُمْ شَعْرًا لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضًا لَا سِرًّا لَهُمْ وَلَا سِرًّا إِذْ جُهِلَتْ لَهُمْ سَادُوا أَيْ مُتَسَاوَيْنَ فَلَا بُدَّ مِنْ تَحْقِيقِ الْمُسَاوَاةِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً وَذَلِكَ فِي الْمَالِ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا تَصَحَّحَ الشِّرْكَةُ فِيهِ وَلَا يُعْتَبَرُ التَّفَاضُلُ فِيمَا لَا يَصِحُّ الشِّرْكَةُ فِيهِ وَكَذَلِكَ فِي التَّصَرُّفِ لِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَ أَحَدُهُمَا تَصَرُّفًا لَا يَمْلِكُهُ الْآخَرُ لَفَاتَ التَّسَاوِيَّ وَكَذَلِكَ فِي الدَّيْنِ لِمَانِبَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهَذِهِ الشِّرْكَةُ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا إِسْتِحْسَانًا وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ مَالِكٌ لَا أَعْرِفُ مَا الْمُفَاوَضَةُ وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَّهَا تَضَمَّنَتْ الْوَكَالَاتِ بِمَجْهُولِ الْجِنْسِ وَالْكَفَالَةَ بِمَجْهُولٍ وَكُلُّ ذَلِكَ بِإِنْفِرَادِهِ فَاسِدٌ وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ قَوْلُهُ ﷺ فَأَوْضُوا فَإِنَّهُ أَغْظَمُ لِلْبَرَكَةِ وَكَذَا النَّاسُ يُعَامِلُونَهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَبِهِ يُشْرِكُ الْقِيَاسُ وَالْجَهْلُ الْمُتَحَمِّلَةُ تَبْعًا كَمَا فِي الْمُضَارَبَةِ وَلَا تَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفْظَةِ الْمُفَاوَضَةِ لِبُعْدِ شَرَايِطِهَا عَنْ عِلْمِ الْعَوَامِّ حَتَّى لَوْ بَيَّنَّا جَمِيعَ مَا يَفْتَضِيهِ يَجُوزُ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْمَعْنَى

ترجمہ..... پھر اس شرکت عقود کی چار قسمیں ہیں

(۱) اول شرکت مفاوضہ ، (۲) دوم شرکت عنان ،

(۳) سوم شرکت صنائع ، (۴) چہارم شرکت وجوہ -

شرکت مفاوضہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دو یا اس سے زائد آدمی آپس میں شرکت کے معاملہ کو قبول کریں اس طرح سے کہ ان میں مال اور معاملہ و تصرف کرنے میں سب برابر ہوں۔ کیونکہ یہ شرکت تجارت کی تمام صورتوں میں عام ہوتی ہے۔ اس طرح سے کہ ان شرکا میں سے ہر ایک شریک اپنے شریکوں کو پورا پورا اختیار حوالہ کر دیتا ہے۔ کیونکہ لفظ مفاوضہ، مساوات کے معنی میں ہے۔ چنانچہ کسی عربی شاعر (الاقوہ الادوی) نے کہا ہے۔ شعر کے معنی یہ ہیں کہ جب لوگ بالکل برابر اور ایک مرتبہ کے ہو جائیں اور ان میں کوئی بڑا سردار نہ رہے اور سرداری نہیں رہ سکتی ہے جبکہ اس قوم کے جاہل سردار بنادیئے جائیں تو ان میں فتنہ و فساد برپا رہے گا۔ پس شرکت مفاوضہ کی ابتداء و انتہاء میں مساوات ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بات مال میں ثابت ہوگی۔ مال سے وہ مال مراد ہے جس میں شرکت صحیح ہو۔ اسی لئے جس مال

میں شرکت صحیح نہیں ہوتی ہو اس میں ان کے آپس میں کمی و بیشی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح معاملات میں تصرف کرنے کے اختیار میں بھی برابری کا حق ہونا چاہئے۔ کیونکہ ان میں سے اگر کسی ایک کو ایسے تصرف کا اختیار ہو جو دوسرے شریک کو نہ ہو تو اس میں برابری باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح قرض کے لین دین میں بھی مساوات شرط ہے۔ چنانچہ ہم اس کی دلیل انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ بیان کریں گے۔

یہ شرکت ہمارے نزدیک بدلیل استحسان جائز ہے۔ اور قیاساً جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ مفاوضہ کیا چیز ہے۔ قیاس کی دلیل یہ ہے کہ اس میں مجہول جنس کی وکالت اور مجہول کی کفالت دونوں موجود ہے جبکہ ایسی وکالت اور کفالت میں سے ہر ایک تنہا ہی فاسد ہوتی ہے۔ اور استحسان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں مذکور ہے کہ تم لوگ مفاوضہ کرو۔ کہ اس میں بڑی برکت ہے (لیکن یہ حدیث نہیں ملی ہے بلکہ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے کہ تین چیزوں میں برکت ہے (۱) ادھار بیچنے میں لیکن وہ جس کی میعاد معلوم ہو اور (۲) مفاوضہ میں اور (۳) گھر کے خرچ کے لئے گیہوا کو جو کے ساتھ ملانے میں۔ مگر بیع کے لئے نہیں اور استحسان کی یہ بھی وجہ ہے کہ مفاوضہ کا معاملہ لوگوں میں باروک ٹوک کے جاری تھا۔ اور ایسے معاملات سے جو اتنے زیادہ پیانہ کے ساتھ ہوئے ہوں قیاس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور وکالت و کفالت میں جو جہالت ہے وہ تابع کر کے برداشت ہو سکتی ہے۔ جیسے مضاربہ میں جائز ہے۔ واضح ہو کہ یہ شرکت سوائے لفظ مفاوضہ کے کسی دوسرے لفظ سے منعقد نہیں ہوتی ہے کیونکہ عوام کے سامنے اس کے صحیح مفہوم اور شرائط کو سمجھانا اور ان کا سمجھنا مشکل ہے۔ پھر بھی اگر اس کی شرطوں اور دوسری ضروری باتوں کو دوسری عبارتوں سے بیان کر دیا جائے تو شرکت مفاوضہ صحیح ہو جائے گی۔ کیونکہ اصل اعتبار معنی کا ہوتا ہے الفاظ کا نہیں ہوتا ہے۔

### شرکت مفاوضہ کن کے درمیان درست ہے

قَالَ فَيَجُوزُ بَيْنَ الْحَرِيِّنَ الْكَبِيرَيْنِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ ذِمِّيَّيْنِ لِتَحْقِيقِ التَّسَاوِي وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا كِتَابِيًّا وَالْآخَرُ مَجُوسِيًّا يَجُوزُ أَيْضًا لِمَا قُلْنَا

ترجمہ..... (قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ) یہ عقد معاملہ ایسے دو مردوں میں جائز ہوگا کہ دونوں آزاد بالغ مسلمان یا ذمی ہوں کیونکہ دونوں میں برابری ثابت ہے۔ اور اگر دونوں میں سے ایک کتابی اور دوسرا مجوسی ہو تو بھی جائز ہوگا۔ کیونکہ سارے کفار ایک ہی ملت پر رہنے کی وجہ سے دونوں میں برابری ثابت ہوگی۔

### شرکت مفاوضہ کن کے درمیان صحیح نہیں

وَلَا يَجُوزُ بَيْنَ الْحَرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَلَا بَيْنَ الصَّبِيِّ وَالْبَالِغِ لِانْعِدَامِ الْمَسَاوَاةِ لِأَنَّ الْحُرَّ الْبَالِغَ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ وَالْكَفَالَةَ وَالْمَمْلُوكُ لَا يَمْلِكُ وَاحِدًا مِنْهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ الْمَوْلَى وَالصَّبِيُّ لَا يَمْلِكُ الْكَفَالَةَ وَلَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ إِلَّا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ

ترجمہ..... اور آزاد اور غلام اور بالغ و نابالغ کے درمیان مفاوضہ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ ان میں مساوات نہیں ہوگی کیونکہ آزاد بالغ کو تصرف اور کفالت کا اختیار ہوتا ہے۔ اور غلام کو ان دونوں باتوں میں سے ایک کا بھی اختیار نہیں ہوتا ہے جب تک کہ مولیٰ اجازت نہ



دے۔ اسی طرح نابالغ کو بھی ان میں سے کسی کا اختیار نہیں ہوتا ہے جب تک اس کا ولی اجازت نہ دے۔

### کافر اور مسلمان کے درمیان شرکت مفاوضہ درست نہیں

قَالَ وَلَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجُوزُ لِلتَّسَاوِي بَيْنَهُمَا فِي الْوَكَالَةِ وَالْكَفَالَةِ وَلَا مُعْتَبَرُ بِزِيَادَةِ تَصَرُّفٍ يَمْلِكُهُ أَحَدُهُمَا كَالْمُفَاوَضَةِ بَيْنَ الشَّفْعَوِيِّ وَالْحَنْفِيِّ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ وَيَتَفَاوَتَانِ فِي التَّصَرُّفِ فِي مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِأَنَّ الدِّمِّيَّ لَا يَهْتَدِي إِلَى الْجَائِزِ مِنَ الْعُقُودِ وَلَهُمَا أَنَّهُ لَا تَسَاوِي فِي التَّصَرُّفِ فَإِنَّ الدِّمِّيَّ لَوْ اشْتَرَى بِرَأْسِ الْمَالِ خُمُورًا أَوْ خَنَازِيرَ صَحَّ وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُسْلِمٌ لَا يَصِحُّ

ترجمہ..... وَلَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ الخ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان بھی مفاوضہ جائز نہیں ہے۔ یہ قول امام ابو حنیفہ و محمد رحمہما اللہ کا ہے اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جائز ہے۔ کیونکہ وکالت اور کفالت میں دونوں برابر ہیں اور جس زیادہ تصرف کا ایک مالک ہے اس کا اعتبار نہیں ہے جیسے شافعی و حنفی کے درمیان مفاوضہ جائز ہے۔ حالانکہ جانور پر ان کے ذبح کرتے وقت قصداً بسم اللہ نہیں کہا گیا ہو اس کے حلال ہونے میں ان دونوں کے درمیان اختلاف ہے کہ شافعی کے نزدیک وہ حلال ہے لیکن حنفی کے نزدیک حلال نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان اور کافر کے درمیان بھی جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ کیونکہ ذمی کو مفاوضہ کے معاملات جائز ہونے کے مسائل اور اس کی راہ پورے طور پر معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اور ابو حنیفہ و محمد رحمہما اللہ کی دلیل یہ ہے کہ دونوں میں تصرف کرنے میں برابری کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ذمی نے اصل مال (راس المال) سے سو یا شراب خریدی تو جائز ہے اور اگر مسلمان نے خریدی تو صحیح نہیں ہے۔

### دو غلاموں، دو بچوں اور دو مکاتبوں کے درمیان شرکت مفاوضہ درست نہیں

وَلَا يَجُوزُ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ وَلَا بَيْنَ الصَّبِيِّينِ وَلَا بَيْنَ الْمُكَاتِبَيْنِ لِإِنْعَادَامِ صَحَّةِ الْكَفَالَةِ وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَمْ تَصِحَّ الْمُفَاوَضَةُ لِفَقْدِ شَرْطِهَا وَلَا يَشْتَرِطُ ذَلِكَ فِي الْعَنَانِ كَانَ عَنَانًا لَا سِتِجْمَاعَ شَرَائِطِ الْعَنَانِ إِذْ هُوَ قَدْ يَكُونُ خَاصًّا وَقَدْ يَكُونُ عَامًّا

ترجمہ..... وَلَا يَجُوزُ الخ اور دو غلاموں میں مفاوضہ جائز نہیں ہے اسی طرح دو نابالغوں میں اور دو مکاتبوں میں بھی جائز نہیں ہے کیونکہ ان کی کفالت صحیح نہیں ہوتی ہے اور واضح ہو کہ جس جگہ شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے مفاوضہ صحیح نہ ہو اور وہ شرط ایسی ہو کہ شرکت عنان میں اس کی شرط نہ ہو تو وہی شرکت مفاوضہ شرکت عنان ہو جائے گی۔ کیونکہ شرکت عنان کی سب شرطیں اس وقت پائی جاتی ہیں شرکت عنان کبھی خاص ہوتی ہے۔ اور کبھی عام ہوتی ہے۔ جیسے ایک بالغ اور دوسرے نابالغ نے یا ایک آزاد اور دوسرے غلام یا مکاتب نے آپس میں عقد مفاوضہ کیا یا برابر کے دو آزاد آدمیوں نے مفاوضہ کرتے ہوئے یہ شرط لگائی کہ کفالت نہیں ہے تو ہر صورت میں کفالت نہ ہونے سے شرکت عنان ہو جائے گی۔ اور یہ شرکت عنان عام ہو جائے گی۔ جیسے شرکت مفاوضہ ہمیشہ عام ہوتی ہے۔

### شرکت مفاوضہ وکالت اور کفالت پر منعقد ہوتی ہے

قَالَ وَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْكَفَالَةِ أَمَّا الْوَكَالَةُ فَلِتَحَقِّقَ الْمَقْصُودَ وَهُوَ الشَّرَكَةُ فِي الْمَالِ عَلَى مَا بَيْنَاهُ وَ أَمَّا الْكَفَالَةُ فَلِتَحَقِّقَ الْمُسَاوَاةَ فِيْمَا هُوَ مِنْ مَوَاجِبِ التَّجَارَاتِ وَهُوَ تَوَجُّهُ الْمَطَالِبَةِ نَحْوَهُمَا جَمِيعًا

ترجمہ..... قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ عقد مفاوضہ وکالت اور کفالت پر منعقد ہوتی ہے۔ یعنی دو ساتھیوں میں سے ہر ایک کے لئے دوسرے کا وکیل اور کفیل ہونا لازم ہوتا ہے۔ وکیل ہونا تو اس لئے لازم ہوتا ہے کہ اس عقد کا جو اصل مقصد ہے یعنی مال میں شرکت کا ہونا وہ پایا جاتا ہے تاکہ اس معاملہ سے جو کچھ بھی مالی فائدہ حاصل ہو اس میں دونوں کا حصہ ہو۔ اور کفیل ہونا اس لئے لازم ہوتا ہے کہ اس تجارت کے لئے جتنی چیزیں لوازمات میں سے ہیں ان سب میں دونوں کی برابری پائی جائے یعنی اس کی وجہ سے جو مطالبات سامنے آئیں ان کا تعلق ان دونوں سے ہو۔ سب ان کے ذمہ دار ہوں۔

### کون سی چیزیں مفاوضین خریدیں تو شرکت سے مستثنیٰ ہوں گی

قَالَ وَمَا يَشْتَرِيهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَكُونُ عَلَى الشَّرَكَةِ إِلَّا طَعَامَ أَهْلِهِ وَكِسْوَتُهُمْ وَكَذَا الْإِدَامُ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْعَقْدِ الْمُسَاوَاةَ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَائِمٌ مَقَامَ صَاحِبِهِ فِي التَّصَرُّفِ وَكَانَ شِرَاءُ أَحَدِهِمَا كَشِرَائِهِمَا إِلَّا مَا اسْتَشَاءَ فِي الْكِتَابِ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ لِأَنَّهُ مُسْتَشْنَى عَنِ الْمَفَاوِضَةِ لِلضَّرُورَةِ فَإِنَّ الْحَاجَةَ الرَّائِبَةَ مَعْلُومَةُ الْوُقُوعِ وَلَا يُمْكِنُ إِيْجَابُهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَا الصَّرْفُ مِنْ مَالِهِ وَلَا بَدْءُ الشِّرَاءِ فَيَخْتَصُّ بِهِ ضَرُورَةُ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الشَّرَكَةِ لِمَا بَيَّنَّا

ترجمہ..... اور قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس عقد معاوضہ کے دونوں شرکاء میں سے جو کوئی جو کچھ بھی خریدے اس میں دونوں شریک ہوں گے سوائے اپنے اور اپنے بال بچوں کے کھانے پینے سالن اور پہننے کے سامان کے کہ یہ چیزیں اس شرکت سے مستثنیٰ ہوں گی (ان کے اخراجات اور منافع سب ذاتی اور علیحدہ علیحدہ ہوں گے)۔ کیونکہ عقد مفاوضہ کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں میں مساوات ہو اور اس کے تصرف کرنے میں ہر ایک دوسرے کا قائم مقام ہو کسی ایک کا کچھ خریدنا دونوں کے خریدنے کے حکم میں ہو سوائے ان چیزوں کے جن کو کتاب میں ابھی مستثنیٰ کیا ہے۔ کیونکہ ضرورت یہ چیزیں مفاوضہ سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ یہ چیزیں روزمرہ کی ضرورت کی ہیں (جو ہر ایک کی مختلف ہوتی ہیں) اس لئے ایک کی ضرورت کو دوسرے پر لازم نہیں کیا جاسکتا ہے اور ممکن بھی نہیں ہے۔ اور ان کا خریدنا بھی ضروری ہے۔ اگرچہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بھی شرکت میں داخل ہو کیونکہ عقد شرکت کا مقتضی ہے یعنی قیاس کو چھوڑ کر استحساناً ہم نے ضرورت کی بناء پر ان چیزوں کو مستثنیٰ کیا ہے۔

### بائع مفاوضین میں سے جس سے چاہے ثمن کا مطالبہ کرے

وَلِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَ بِالثَّمَنِ أَيُّهَا شَاءَ الْمُشْتَرِي بِالْإِصَالَةِ وَصَاحِبُهُ بِالْكَفَالَةِ وَيَرْجِعُ الْكَفِيلُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِحِصَّتِهِ بِمَا أَدَّى لِأَنَّهُ قَضَى دَيْنًا عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا



ترجمہ..... اور مفاوضہ کے شرکاء میں سے اگر کسی نے کوئی چیز خریدی تو اس کے فروخت کرنے والے کو یہ حق ہوگا کہ صرف خریدنے والے سے نہیں بلکہ شرکاء میں سے جس سے جی چاہے اس کی قیمت وصول کر لے خریدار سے اس لئے کہ وہی اصل معاملہ کرنے والا ہے اور شرکاء سے مطالبہ کا اس لئے حق ہوگا کہ وہ اس کے کفیل ہوتے ہیں۔ اور کفیل اس کی قیمت ادا کر دینے کے بعد اپنے دوسرے ساتھی سے اس کے حصہ کے مطابق اس کی بقیہ قیمت وصول کر لے۔ کیونکہ ساتھی پر جو قرض تھا وہ دوسرے نے اپنے آپس کے مشترک مال سے ادا کیا ہے۔

### مفاوضین کون سے دین میں مشترک ہوں گے

قَالَ وَمَا يَلْزَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِنَ الدِّيُونِ بَدَلًا عَمَّا يَصِحُّ فِيهِ الْاِشْتِرَاكُ فَالْاِشْتِرَاكُ لَهُ تَحْقِيقًا لِلْمَسَاوَاةِ فَمَا يَصِحُّ فِيهِ الْاِشْتِرَاكُ الْاِشْتِرَاءُ وَالْبَيْعُ وَالْاِسْتِجَارَةُ مِنَ الْقِسْمِ الْاٰخِرِ الْجَنَائَةِ وَالنِّكَاحُ وَالْخُلْعُ وَالصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَعَنِ النَّفَقَةِ

ترجمہ..... اور جس چیز میں شرکت صحیح ہو اس کے عوض ان مفاوضہ کرنے والوں کے درمیان جو بھی قرض کسی ایک پر لازم ہوگا اس کا دوسرا ساتھی بھی لازمی طور سے ضامن اور ذمہ دار ہوگا۔ تاکہ دونوں میں مساوات باقی رہے۔ پس وہ معاملات جن میں شرکت کرنا صحیح ہے وہ یہ ہیں خرید و فروخت کرنا، کرائے پر لینا دینا اور دوسری قسم کی وہ چیزیں جن میں شرکت صحیح نہ ہو وہ یہ ہیں جنایت قتل وغیرہ اور نکاح خلع قتل عمد کے بعد صلح اور نفقہ صلح وغیرہ۔ ان میں سے خرید و فروخت کی صورت تو ظاہر ہے۔ لیکن بیع صحیح میں قیمت متعینہ کا ضامن ہوگا۔ یعنی جو قیمت ان کے درمیان طے ہو چکی ہو اور بیع فاسد میں اس کی بازاری قیمت کا ضامن ہوگا یعنی بازار میں جو اس کی قیمت ہو اور اجارہ لینے کی صورت یہ ہے کہ مفاوضہ کے دونوں شرکاء میں سے کسی ایک نے اس تجارت کے کام میں کوئی مزدور یا جانور یا دوسری کوئی سواری یا چیز کرایہ پر لی تو کرایہ پر دینے والے کو اختیار ہوگا کہ اپنا کرایہ دونوں ساتھیوں میں سے جس کسی سے بھی چاہے اس سے وصول کر لے۔ کیونکہ تجارت کے کام میں ہر ایک دوسرے کا کفیل اور ذمہ دار ہے اور کاروباری معاملہ اور مقصد کے سوا اگر کسی دوسرے کا ان میں سے کسی پر کچھ بھی لازم آجائے تو وہ اسی کے ساتھ مخصوص رہے گا۔ مثلاً مفاوضہ کرنے والوں میں سے ایک پر کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے غلطی سے فلاں کو زخمی کر دیا ہے جس کا کچھ جرمانہ متعین ہے۔ مگر دوسرے شخص نے اس کا انکار کر دیا۔ اس بناء پر اس زخمی شخص نے یہ چاہا کہ اس دوسرے شخص سے قسم لے تو اس کو اس بات کا اختیار نہ ہوگا۔ اور دوسرے شخص کے خلاف وہ کوئی معاملہ نہ کر سکے گا اور نہ دوسرا اس کا مد مقابل ہوگا۔ اور اگر مفاوضہ کرنے والے ایک مرد اور ایک عورت ہوں۔ پھر اس عورت نے اپنے شوہر سے خلع لے لیا تو خلع کا عوض اس عورت پر جو کچھ لازم آئے گا اس کا دوسرا شریک اس عوض کا ضامن نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر دوسرے مرد ساتھی پر اس کی بیوی کا مہر لازم آیا یا اس نے کسی کو عمد قتل کر کے اس کے ورثہ سے مال پر صلح کر لی یا اپنی بیوی کے نفقہ سے کچھ معین مال پر صلح کر لی تو اس کا شریک اس مال کا ضامن نہ ہوگا۔

### ایک شریک اجنبی سے مال کا کفیل بن جائے تو دوسرے کو بھی وہ کفالت لازم ہو جائے گی

قَالَ وَلَوْ كَفَلَ أَحَدُهُمَا بِمَالٍ عَنْ أُجْنَبِيٍّ لَزِمَ صَاحِبَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ مِنَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ الْمَاذُونِ وَالْمُكَاتِبِ وَلَوْ صَدَرَ مِنَ الْمَرِيضِ يَصِحُّ مِنَ الثَّلَاثِ وَصَارَ كَالْإِقْرَاضِ وَالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ



وَلَا يَبِي حَنِيفَةً أَنَّهُ تَبَرُّعٌ إِبْتِدَاءً وَمُعَاوَضَةٌ بَقَاءً لِأَنَّهُ يَسْتَوْجِبُ الضَّمَانَ بِمَا يُؤَدِّي عَلَى الْمُكَفُولِ عَنْهُ إِذَا كَانَتْ  
الْكَفَالَةُ بِأَمْرِهِ فَبِالنَّظَرِ إِلَى الْبَقَاءِ يَتَضَمَّنُهُ الْمُفَاوَضَةُ وَبِالنَّظَرِ إِلَى الْإِبْتِدَاءِ لَمْ تَصِحْ مِنْ ذِكْرِهِ وَيَصِحُّ مِنَ الثَّلَاثِ  
مَنْ الْمَرِيضِ بِخِلَافِ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ إِبْتِدَاءً وَانْتِهَاءً وَأَمَّا الْإِقْرَاضُ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَلْزَمُ صَاحِبَهُ وَ  
لَوْ سَلِمَ فَهُوَ عَارَةٌ فَيَكُونُ لِمِثْلِهَا حُكْمُ عَيْنِهَا لَا حُكْمُ الْبَدَلِ حَتَّى لَا يَصِحَّ فِيهِ الْأَجَلُ فَلَا يَتَحَقَّقُ مُعَاوَضَةٌ وَلَوْ  
كَانَتْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ تَلْزَمْ صَاحِبَهُ فِي الصَّحِيحِ لِانْعِدَامِ مَعْنَى الْمُفَاوَضَةِ وَمُطْلَقُ الْجَوَابِ فِي الْكِتَابِ مُحْمُولٌ  
عَلَى الْمُقَيَّدِ وَضَمَانَ الْغَضَبِ وَالِاسْتِهْلَاكِ بِمَنْزِلَةِ الْكَفَالَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ إِنْتِهَاءً

ترجمہ..... قَالَ وَلَوْ كَفَّلَ الْخُ اور اگر مفاوضہ کرنے والوں میں سے ایک شخص نے ایک اجنبی کی طرف سے جو کاروبار میں ان کا شریک نہیں ہے کچھ مال کی ذمہ داری اپنے اوپر لازم کر لی تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسرے ساتھی پر بھی وہ لازم ہو جائے گی (جبکہ اجنبی کی اجازت سے کفالت کی ہو) اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دوسرے شریک پر لازم نہیں ہوگی کیونکہ یہ کفالت سراسر احسان ہے۔ اس لئے نابالغ اور ایسا غلام جسے کاروبار کی اجازت ہو اور مکاتب کی طرف سے صحیح نہیں ہوتی ہے اور اگر مرض الموت کے مریض نے ایسی کفالت کی تو صرف تہائی سے صحیح ہوتی ہے۔ اور یہ کفالت ایسی ہوگئی جیسے کسی کو قرض دینا یا اس کے نفس کی کفالت کرنا (یعنی بالاتفاق اس کا دوسرا ساتھی ضامن نہیں ہوگا) اور ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ایسی کفالت شروع میں احسان ہے مگر بعد میں یہ معاوضہ ہے کیونکہ جب اس نے مکفول عنہ کی طرف سے مال کفالت ادا کیا تو مکفول عنہ (جس شخص کی ذمہ داری قبول کی گئی ہو) پر اس کی ضمانت واجب ہوئی۔ بشرطیکہ اسی کے کہنے سے کفالت ہوئی ہو۔ تو آئندہ زمانہ کے لحاظ سے عقد معاوضہ اس میں متضمن ہوتا ہے اور ابتداء کا خیال کرنے سے نابالغ اور ماذون غلام اور مکاتب سے صحیح نہیں ہے۔ اور مریض کی طرف سے صرف تہائی مال سے صحیح ہے۔ بلا کسی نفس کی کفالت کے۔ کیونکہ یہ ابتداء و انتہاء دونوں صورتوں میں احسان ہے۔ اور قرض کی ادائیگی کے بارے میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ یہ بھی دوسرے شریک پر لازم ہوگا۔ اور اگر بالفرض لازم نہ بھی ہو پھر بھی صرف عاریت دینا ہوتا ہے۔ اس لئے مقرض اس کے مثل جو کچھ ادا کرے گا وہ مال عین کے حکم میں ہے۔ عوض کے حکم میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس میں میعاد مقرر کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اسی لئے اسے معاوضہ کہنا بھی ثابت نہیں ہوا۔ اور اگر کسی اجنبی کے حکم کے بغیر یہ کفالت کی ہو تو صحیح قول میں دوسرے شریک پر لازم نہ ہوگی۔ کیونکہ یہاں مفاوضہ کے معنی نہیں پائے جارہے ہیں اور کتاب قدوری میں جو حکم مطلق ذکر کیا گیا ہے وہ مقید پر محمول ہے (جیسا کہ اوپر قوسین میں ذکر کر دیا گیا ہے)۔ یعنی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مکفول عنہ (جس کی طرف سے ضمانت لی گئی ہے) کے حکم اور کہنے پر اگر کفالت کی ہو تو دوسرے پر لازم ہوگی۔ اور اگر کسی نے دوسرے کا مال غصب کیا یا ہلاک کر دیا تھا اور اس کی ضمانت کی تھی تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ضمانت کفالت کے منزہ میں ہے یعنی دوسرے شریک پر وہ ضمانت لازم ہوگی۔ کیونکہ یہی بات آخر میں مفاوضہ سے۔ یعنی جب اس کے حکم سے ضمانت کی ہے تو ادائیگی کے بعد اس پر لازم ہوگی۔

تشریح..... امام ابو حنیفہؒ کے ہاں جب کسی ایک شریک معاوضہ نے اجنبی سے کفالت کر لی تو یہ دوسرے شریک پر بھی لازم ہو گا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کفالت مال کی ہو کفالت نفس سب کے ہاں لازم نہ ہو گی۔ اسی طرح حالت مرض میں کفالت تہائی مال سے معتبر ہو گی اسلئے کہ ابتداء کفالت تبرع سے لیکن انتہاء کے اعتبار سے ملکیت کے وجود کی وجہ سے معاوضہ کو لازم کرتی ہے اسی لئے اگر کفالت مکفول عنہ کے



سے ہو تو کفیل مکفول عنہ پر مکفول بہ کیلئے رجوع کرنے کا مجاز ہو سکتا ہے۔ صاحبین کے نزدیک یہ کفالت دوسرے شریک پر لازم نہ ہوگی اس لئے کہ کفالت تبرع ہے اس لئے کفالت بالنفس کی طرح کفالت بالمال بھی جائز نہیں امام صاحبؒ نے فرمایا کہ انتہا کے اعتبار سے تملیک کے وجود سے معاوضہ بن جاتی ہے۔ لہذا دوسرے شریک پر لازم ہوگی۔

**ایک شریک ایسے مال کا وارث ہوا جس میں شرکت ہو سکتی ہے تو شرکت مفاوضہ باطل ہے**

قَالَ فَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَا لَا يَصِحُّ فِيهِ الشَّرَكَةُ أَوْ وَهَبَ لَهُ وَوَصَلَ إِلَى يَدِهِ بَطَلَتِ الْمَفَاوِضَةُ وَصَارَتْ عَنَانًا لِفَقَوَاتِ الْمُسَاوَاةِ فِيمَا يَصْلَحُ رَأْسُ الْمَالِ إِذْ هِيَ شَرْطٌ فِيهِ ابْتِدَاءٌ وَبَقَاءٌ وَهَذَا لِأَنَّ الْآخَرَ لَا يُشَارِكُهُ فِيمَا أَصَابَهُ لِانْعِدَامِ السَّبَبِ فِي حَقِّهِ إِلَّا أَنَّهَا تَنْقَلِبُ عَنَانًا لِلْإِمْكَانِ فَإِنَّ الْمُسَاوَاةَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهِ وَلِدَوَامِهِ حُكْمُ الْإِبْتِدَاءِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ لَازِمٍ

ترجمہ..... اور اگر شرکت مفاوضہ کرنے والوں میں سے کسی ایک کو ایسا مال وراثت میں مل گیا جس میں شرکت صحیح ہوتی ہے یا اسے ہبہ کیا گیا ہو اور وہ مال اس کے قبضہ میں بھی آچکا ہو تب ان دونوں کے درمیان وہ شرکت مفاوضہ ختم ہو کر شرکت عنان ہو جائے گی۔ کیونکہ ایسی صورت میں ایسے مال میں مساوات نہ رہی جو رأس المال ہونے کے قابل ہے۔ حالانکہ اس شرکت مفاوضہ کے ہونے میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ ابتداء اور انتہاء ہر وقت ان کے درمیان مساوات باقی رہے اور اس شرکت کے ختم ہو جانے کی وجہ یہ ہوگی کہ ان میں سے جسے نیا مال ابھی ملا ہے دوسرا ساتھی اس میں اس کا شریک نہیں ہو سکتا ہے اس لئے وہ شرکت مفاوضہ باقی نہ رہی اور اب مفاوضہ سے بدل کر شرکت عنان ہو گئی۔ کیونکہ اس شرکت عنان میں دونوں شرکاء کے درمیان مساوات شرط نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شرکت عنان کی ابتداء اور انتہاء ہر حال میں یکسانیت کا ہونا شرط بھی نہیں ہے کیونکہ یہ عقد لازمی نہیں ہوتا ہے۔

**ایک شریک سامان کا وارث ہوا وہ اسی کا ہے اور مفاوضہ فاسد نہیں ہوگی**

فَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا عَرَضًا فَهُوَ لَهُ وَلَا تَفْسُدُ الْمَفَاوِضَةُ وَكَذَا الْعَقَارُ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِيهِ الشَّرَكَةُ فَلَا يَشْتَرِطُ الْمُسَاوَاةُ فِيهِ

ترجمہ..... اب اگر مفاوضہ کے شرکاء میں سے ایک کو میراث کے طور پر کوئی اسباب مل گیا تو وہ صرف اس کا ہوگا اور اس کی وجہ سے یہ شرکت مفاوضہ ختم بھی نہ ہوگی۔ یہی حکم غیر منقولہ جائیداد کا بھی ہے یعنی اگر زمین یا گھر میراث میں پایا تو بھی یہی حکم ہوگا اور شرکت مفاوضہ باطل نہیں ہوگی۔ کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں شرکت صحیح نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ایسے مال میں دونوں کا مساوی ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ حاصل مسئلہ یہ ہوا کہ شرکت مفاوضہ میں دونوں شریک ایک دوسرے کے وکیل اور کفیل ہوتے ہیں۔ اور مشترکہ کاروبار کے لئے ان دونوں نے جتنی رقم کو رأس المال یا پونجی کے طور پر جمع کیا ہے اس میں دونوں کا برابر ہونا جیسے کاروبار شروع کرتے وقت شرط ہے اسی طرح اس کے بعد بھی جب تک وہ کاروبار اور معاہدہ باقی رہے برابر رہنا بھی شرط ہوگا۔ اور جو مال شرکت کے قابل نہیں ہوگا اس میں مساوات شرط نہیں ہوگی۔ اس لئے اب ان باتوں کا بیان کرنا بھی ضروری ہوا جو شرکت کے قابل ہیں چنانچہ (آئندہ) بیان فرمایا ہے۔



## شرکت مفوضہ دراہم، دنانیر، فلوس نافقہ کے ساتھ درست ہوتی ہے

فَصْلٌ وَلَا يَنْعَقِدُ الشَّرِكَةُ إِلَّا بِالْذَّرَاهِمِ وَالْذَّنَانِيرِ وَالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ وَقَالَ مَالِكٌ يَجُوزُ بِالْعُرُوضِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ إِذَا كَانَ الْجِنْسُ وَاحِدًا لِأَنَّهَا عُقِدَتْ عَلَى رَأْسِ مَالٍ مَعْلُومٍ فَاشْبَهَ النُّقُودَ بِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّ الْقِيَاسَ بِأَبَاهَا لَمَّا فِيهَا مِنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يَضْمَنْ فَتَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ وَلَنَاقَةِ يُوْدِي إِلَى رِبْحٍ مَا لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ إِذَا بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَأْسَ مَالِهِ وَيُقَاضَى الثَّمَانُ فَمَا يَسْتَحِقُّهُ أَحَدُهُمَا مِنَ الزِّيَادَةِ فِي مَالِ صَاحِبِهِ رِبْحٌ مَا لَمْ يَمْلِكْ وَمَا لَمْ يَضْمَنْ بِخِلَافِ الذَّرَاهِمِ وَالْذَّنَانِيرِ لِأَنَّ ثَمَنَ مَا يَشْتَرِيهِ فِي ذِمَّتِهِ إِذْ هِيَ لَا يَتَّعِينَ فَكَانَ رِبْحٌ مَا ضَمِنَ وَلِأَنَّ أَوَّلَ التَّصَرُّفِ فِي الْعُرُوضِ الْبَيْعُ وَفِي النُّقُودِ الشِّرَاءُ وَبَيْعُ أَحَدِهِمَا مَالَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ شَرِيكَافِي ثَمَنِهِ لَا يَجُوزُ وَشِرَاءُ أَحَدِهِمَا شَيْنًا بِمَالِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ جَائِزٌ وَأَمَّا الْفُلُوسُ النَّافِقَةُ تَرُوجُ رَوَاجَ الْأَثْمَانِ فَالْحَقُّ بِهَا قَالُوا هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ لِأَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِالنُّقُودِ عِنْدَهُ حَتَّى لَا تَتَّعِينَ بِالتَّعْيِينِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ بِأَعْيَانِهَا عَلَى مَا عَرَفَ أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ الشَّرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ بِهَا لِأَنَّ ثَمَنِيَّتَهَا تَبَدَّلُ سَاعَةً فَسَاعَةً وَتَصِيرُ سِلْعًا وَيُرْوَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ مِثْلَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَالْأَوَّلُ أَقْبَسُ وَأُظْهِرُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ صَحَّةُ الْمُضَارَبَةِ بِهَا

ترجمہ..... فصل، اور شرکت یعنی مفوضہ صرف درہم و دینار اور رائج الوقت سکوں سے ہی منعقد ہوتی ہے ان کے علاوہ کسی اور چیز سے منعقد نہیں ہوتی ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اسباب اور ناپ اور تول کی جانے والی چیزوں سے بھی منعقد ہوتی ہے۔ بشرطیکہ ایک جنس ہو یعنی جو چیزیں پیمانہ اور مقررہ برتنوں سے بکتی ہیں اسی طرح جو چیزیں وزن سے بکتی ہیں جب دونوں کے پاس ایک ہی جنس کے برابر ہوں تب شرکت مفوضہ منعقد ہو جائے گی (کیونکہ یہ عقد بھی معلوم اور متعین رأس المال پر واقع ہوا اس لئے یہ چیزیں بھی نقد اور سکوں کے مشابہہ ہو گئیں یعنی یہ بات قیاس کے مطابق ہو گئی ہے) بخلاف مضاربہ کے (جو ایک شخص دوسرے کو اپنا مال امانت کے طور پر اس مقصد سے دیتا ہے کہ وہ اس مال سے تجارت کرے اور اس سے جو کچھ نفع حاصل ہو وہ اس مخفی کاروبار اور اصل مالک کے درمیان تقسیم ہو جائے تو ایسی شرکت نقد کے علاوہ کسی دوسری چیز سے جائز نہیں ہوتی ہے) کیونکہ یہ بات قیاس کے خلاف ہے اس لئے کہ اس میں ایسے مال سے نفع حاصل کیا جاتا ہے جس کا ضمان لازم نہیں آتا ہے (بلکہ وہ امانت کے طور پر ہوتا ہے) اس لئے شریعت سے جو حکم جس موقع پر ثابت ہوا اسے اسی حد تک باقی رکھنا چاہئے (جبکہ عقد مفوضہ میں دونوں شریک اسی مال سے کاروبار کرتے ہیں اور اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ اس لئے اس میں نقدی سکے وغیرہ ہوں یا غیر نقدی اسباب وغیرہ کے مثل ہوں سب برابر ہیں۔) اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اسباب پر شرکت مفوضہ کا انجام بھی یہی ہوتا ہے کہ ایسی چیز سے نفع حاصل کیا گیا جو ابھی ضمانت میں نہیں ہے۔ کیونکہ اگر مفوضہ کرنے والا اپنا رأس المال یعنی اصل پونجی فروخت کرے اور ان میں قیمت کے اعتبار سے کافی فرق یعنی کمی اور بیشی ہو (مثلاً ہر ایک کے مال کی قیمت ایک ایک ہزار ہو۔ لیکن ان میں سے ایک اپنا دو ہزار میں اور دوسرا تین ہزار میں فروخت کر دے) تو ان میں سے ایک شخص اپنے ساتھی کے مال سے شرکت کے استحقاق کی بناء پر زیادہ نفع پائے گا۔ جس کا کہ وہ خود مالک نہ ہو اور ہنوز وہ ضمانت میں نہیں آیا تھا۔ بخلاف درہم و دینار اور نقد روپے وغیرہ کے۔ اس لئے کہ اس ایک نے جو خریدا ہے اس کی قیمت اس کے ذمہ لازم ہوگی کیونکہ



خریدنے میں مسئلہ متعین نہیں ہوتا ہے اس لئے یہ ایسے مال کا نفع ہوا جو ضمانت میں آچکا ہے۔ اور اس لئے بھی کہ اسباب میں پہلا تصرف یہ ہے، کہ فروخت کرے۔ اور نقد میں پہلا تصرف یہ ہے کہ خریدے۔ حالانکہ عقد مفاوضہ میں شریک شخص کا اپنا مال اس شرط پر فروخت کرنا ہے کہ دوسرا بھی اس کی قیمت میں شریک ہو، جائز نہیں ہے اور ایک شخص کا اپنے مال سے کوئی چیز اس شرط پر خریدنا کہ اس کا دوسرا شریک بھی اس میں شریک ہو یعنی بیع دونوں میں مشترک ہو یہ جائز ہے (اس طرح نقد کے سوا دوسرے اسباب سے جائز نہیں ہوگا اور درہم و دینار کے علاوہ وہ سکے جو رائج الوقت ہوں تو وہ بھی اشرفی اور روپے کی طرح چلتے ہیں۔ لہذا وہ بھی نقد میں شامل کر لئے گئے۔ اور متاخرین مشائخ رحمۃ اللہ علیہم نے فرمایا ہے کہ یہ قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کیونکہ ان کے نزدیک فلوس بھی نقد کے ساتھ ملا لئے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح درہم و دینار متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ فلوس بھی متعین نہیں ہوتے ہیں۔ (مثلاً کسی نے چار آنے کی کوئی چیز خریدی تو اسے یہ اختیار ہوگا کہ چاہے وہی چار آنے دے جو خریدتے وقت ہاتھ میں دکھائے تھے یا اس کو چھوڑ کر دوسرے پیسے دے دے۔ کیونکہ متعین کرنے کے باوجود یہ متعین نہیں ہوتے ہیں۔) اور معین دو پیسوں کو دوسرے معین ایک پیسہ سے بدلنا اور بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ اصول میں معلوم ہو چکا ہے (لہذا اسے معین کرنا بے فائدہ ہوگا)۔ اور امام ابو حنیفہ و ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک پیسوں سے نہ شرکت کا معاملہ صحیح ہوگا اور نہ مضاربہ صحیح ہوگی۔ کیونکہ ان پیسوں اور فلوس کی خود کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لئے جب ان کو بند کر دیا جائے یا ان پر پابندی عائد کر دی جائے تو وہ بھی اسباب کے حکم میں آجاتے ہیں اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے دوسری روایت مثل امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مذکور ہے۔ لیکن ان کا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہونا قیاس کے زیادہ قریب اور زیادہ ظاہر ہے۔ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ روایت مذکور ہے کہ فلوس کے ساتھ مضاربہ صحیح ہے ۱

جن چیزوں کا لوگوں میں تعامل ہے جیسے تیر اور نقرہ ان میں شرکت درست ہے

قَالَ وَلَا يَجُوزُ الشَّرْكَةُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَتَعَامَلَ النَّاسُ بِالتَّبَرِّ وَالنَّقْرَةِ فَتَصِحَّ الشَّرْكَةُ بِهِمَا هَكَذَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ

ترجمہ..... اور قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مذکورہ مالوں کے سوا دوسری کسی چیز سے شرکت مفاوضہ جائز نہیں ہے مگر اس صورت میں کہ وہاں کے لوگ پتھروں یا پگھلائی ہوئی چاندی سے آپس میں شرکت مفاوضہ کا معاملہ کرتے ہوں تو ان دونوں چیزوں سے بھی شرکت جائز ہوگی (یعنی اگر لوگوں میں ڈھلے ہوئے سکوں کے بغیر صرف چاندی اور سونے کی ڈلی اور ٹکڑوں سے بھی شرکت مفاوضہ کا معاملہ ہوتا ہو تو جائز ہوگا) صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مختصر القدوری میں ایسا ہی بیان کیا ہے۔ (یہ بات بظاہر جامع صغیر کے قول کے مخالف ہے۔ اسی لئے انہوں نے فرمایا ہے۔)

سونے چاندی کے مثقالوں سے شرکت مفاوضہ درست نہیں ہوتی

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَلَا يَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ بِمَثَاقِيلِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَمُرَادُهُ التَّبَرُّفَعْلَى هَذِهِ الرِّوَايَةُ التَّبَرُّسِلْعَةُ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينَ فَلَا يَصْلَحُ رَأْسُ الْمَالِ فِي الْمَضَارِبَاتِ وَالشَّرَكَاتِ وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الصَّرْفِ أَنَّ النَّقْرَةَ لَا يَتَعَيَّنُ حَتَّى لَا يَنْفَسَخَ الْعَقْدُ بِهَلَاكِهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَعَلَى تِلْكَ الرِّوَايَةِ يَصْلَحُ رَأْسُ الْمَالِ فِيهِمَا وَهَذَا لِمَا عَرَفَ أَنَّهِمَا



خَلَقْنَا ثَمَنَيْنِ فِي الْأَصْلِ إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَصَحُّ لِأَنَّهَا وَإِنْ خُلِقَتْ لِلتَّجَارَةِ فِي الْأَصْلِ لَكِنَّ الثَّمَنِيَّةَ تَخْتَصُّ بِالضَّرْبِ الْمَخْصُوصِ لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ لَا يُصَرَّفُ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ ظَاهِرًا إِلَّا أَنْ يَجْرِيَ التَّعَامُلُ بِاسْتِعْمَالِهِمَا ثَمَنًا فَيَنْزِلُ التَّعَامُلُ بِمَنْزِلَةِ الضَّرْبِ فَيَكُونُ ثَمَنًا وَيَصْلُحُ رَأْسُ الْمَالِ

ترجمہ..... اور جامع صغیر میں ہے کہ سونے یا چاندی کے مثقالوں سے شرکت مفاوضہ نہیں ہوتی ہے۔ اس جگہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی مشقال سے مراد تمبر (ٹکڑے) ہیں۔ اس بناء پر تمبر ایسا اسباب ہے جو معین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے۔ اس لئے مضارب بت یا شرکت کے معاملات میں یہ رأس المال نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جامع صغیر کی کتاب الصرف میں مذکور ہے کہ گلائی اور پگھلائی ہوئی چاندی جو ڈھلی ہوئی اور سکہ کی شکل میں نہ ہو وہ بھی متعین نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر بیع میں حوالہ کرنے سے پہلے وہ ضائع ہو جائے تو عقد بیع نہیں ہوگی۔ پس اس روایت کے مطابق (گلائی ہوئی ہو یا ڈلی کی شکل میں ہر سب شرکت اور مضارب بت میں اصل پونجی یا رأس المال ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سونا اور چاندی میں فطری اور خلقی طور سے ثمنیت رکھی گئی ہے۔ خواہ ان کے سکے بنے ہوئے ہوں یا نہ ہوں لیکن پہلی روایت اصح ہے۔ کیونکہ سونا اور چاندی اگرچہ اپنی اصلی خلقت میں تجارت کے لئے مخلوق ہیں۔ لیکن ثمن اور قیمت کے طور پر ان کا استعمال ان کے سکہ ڈھل جانے پر ہی مخصوص ہے (یعنی ڈھال کر درہم دینار وغیرہ بنادئے جانے کے بعد ہی ہوتا ہے) کیونکہ ایسی حالت میں بظاہر ان کو دوسرے کسی کام میں نہیں لایا جاتا ہے۔ پھر بھی بالفرض اگر لوگوں میں سکے میں ڈھالے بغیر ڈلی کی شکل ہی میں بطور ثمن ان کا استعمال ہونے لگے تو ان کے اس استعمال اور رواج ہی کو مسئلہ کے حکم میں فرض کر لیا جائے گا۔ اور اس وقت یہ مطلقاً ثمن ہو جائیں گے۔ اور رأس المال ہونے کے لائق ہو جائیں گے۔

### مکلی، موزونی اور عددی چیزوں میں شرکت مفاوضہ درست نہیں

ثُمَّ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ بِمَاسَاوِي ذَلِكَ يَتَاوَلُ الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ وَالْعَدَدِيَّ الْمُتَقَارِبَ وَلَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَنَا قَبْلَ الْخَلْطِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رِبْعٌ مَتَاعِهِ وَعَلَيْهِ وَضِيعَتُهُ وَإِنْ خَلَطَا ثُمَّ اشْتَرَا كَا فَكَذَا لِكِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَالشَّرَكَةُ شَرَكَةُ مُلْكٍ لَا شَرَكَةُ عَقْدٍ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تَصِحُّ شَرَكَةُ الْعَقْدِ وَثَمَرَةُ الْإِخْتِلَافِ تَظْهَرُ عِنْدَ التَّسَاوِي فِي الْمَالَيْنِ وَاشْتِرَاؤِ التَّفَاضُلِ فِي الرِّبْحِ فَظَاهِرُ الرَّوَايَةِ مَا قَالَهُ أَبُو يُوسُفَ لِأَنَّهُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ بَعْدَ الْخَلْطِ كَمَا يَتَعَيَّنُ قَبْلَهُ وَلِمُحَمَّدٍ أَنَّهَا ثَمَنٌ مِنْ وَجْهِ حَتَّى جَارَ الْبَيْعِ بِهَا دَيْنًا فِي الدِّمَةِ وَبَيْعٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فَعَمَلْنَا بِالشَّبْهِينِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْحَالَيْنِ بِخِلَافِ الْعُرُوضِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ ثَمَنًا بِحَالٍ وَلَوْ اخْتَلَفَا جِنْسًا كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ وَالسَّمَنِ فَخَلَطَا لَا يَنْعَقِدُ الشَّرَكَةُ بِهَا بِالْإِتِّفَاقِ وَالْفَرْقِ لِمُحَمَّدٍ أَنَّ الْمَخْلُوطَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِنْ ذَوَاتِ الْأُمْتَالِ وَمِنْ جِنْسَيْنِ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيمِ فَتَمَكَّنَ الْجَهَالَةُ كَمَا فِي الْعُرُوضِ إِذَا لَمْ تَصِحَّ الشَّرَكَةُ فَحُكْمُ الْخَلْطِ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ

ترجمہ..... اور قدوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ ان کے علاوہ دوسری چیزوں سے شرکت جائز نہیں ہے تو اس میں کیلی اور وزنی چیزیں اور جو گن کر فروخت ہوتی ہیں اور آپس میں تقریباً برابر ہوتی ہیں (جیسے انڈے، اخروٹ) یہ سب چیزیں بھی داخل ہیں (یعنی یہ چیزیں شرکت



مفاوضہ کے لئے رأس المال نہ ہوں گی۔ اس مسئلہ میں ہمارے علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جبکہ خلط سے پہلے ہو (یعنی مال کے ملا دینے سے پہلے شرکت کا عقد ان چیزوں پر نہیں ہو سکتا ہے)۔

اور دونوں شرکاء میں سے ہر ایک کے سامان کا نفع اس کے لئے مخصوص ہوگا۔ اور اگر اس میں نقصان ہو تو وہ بھی اسی کا ہوگا۔ اور اگر دونوں نے اپنا اپنا مال ملا کر ایک کر دیا اور پھر اسکے شرکت کے معاملہ کو طے کیا تو بھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی حکم ہوگا۔ یہ شرکت ملکہ کہلائے گی (یعنی دونوں کی ملکیت آپس میں ملی ہوئی ہے)۔ اس لئے یہ شرکت عقد نہ ہوگی۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرکت عقد بھی صحیح ہے۔ اس اختلاف کا نتیجہ اس شکل میں ظاہر ہوگا کہ دونوں شرکاء کا مال آپس میں برابر ہو لیکن نفع میں ایک کے لئے کچھ زیادہ اور دوسرے کے لئے کچھ کم ہونے کی شرط لگائی گئی ہو (مثلاً ایک کے لئے نفع میں دو تہائی اور دوسرے کے لئے ایک تہائی ہونے کی شرط لگائی گئی ہو تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ شرکت جائز نہ ہوگی)۔ (بلکہ ہر ایک کو اسی کے مال کا نفع ملے گا اور یہی ظاہر الروایت ہے کیونکہ یہ مال ملا دینے کے بعد بھی معین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے۔ جیسے ملانے سے پہلے متعین ہو جاتا ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ایسا مال ایک اعتبار سے ثمن ہے یہاں تک کہ اس کے عوض میں اپنے ذمہ قرض رکھ کر بیع کرنا جائز ہے (مثلاً کسی شخص نے کسی سے کوئی چیز مرغی کے دس انڈوں یا پانچ سیر گیہوں یا تین سیر لوہے کے عوض خریدی اس طرح پر کہ یہ انڈے یا گیہوں یا لوہا مشتری کے ذمہ ادھار ہے تو یہ قرض جائز ہو اس بناء پر یہ چیزیں ثمن ہوں گی)۔ اور دوسرے اعتبار سے یہی چیزیں بیع ہیں۔ کہ معین کرنے سے یہ متعین بھی ہو جاتی ہیں۔ پس ان میں دوہری مشابہت ہوئی۔ اس لئے ہم نے دونوں مشابہتوں پر عمل کیا (یہ کہہ کر ملانے سے پہلے ان کو بیع کہا اور یہ کہ اس میں شرکت جائز نہیں ہے۔ اور ملانے کے بعد ان کو ثمن قرار دیا اور یہ کہ ان میں شرکت جائز ہے)۔ بخلاف دوسرے اسباب (مثلاً تخت و کرسی و صندوق وغیرہ) کے کہ یہ چیزیں کسی حال میں بھی ثمن نہیں بن سکتی ہیں۔ (پھر اختلاف کی یہ صورتیں اس وقت ہیں جبکہ وہ کیلی و وزنی و عددی دونوں کے پاس ایک ہی جنس کی ہوں)۔ کیونکہ اگر دونوں کی جنس مختلف ہو جیسے ایک کے پاس گیہوں اور دوسرے کے پاس جوہوں یا ایک کے پاس روغن زیتون اور دوسرے کے پاس گھی ہو۔ پھر اگر دونوں نے سب مال ملا دیا تو بھی بالاتفاق عقد شرکت نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ و امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پر متفق ہیں (پس امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک جنس ہونے سے خلط کے بعد شرکت جائز ہے۔ لیکن مختلف جنس ہونے سے جائز نہیں ہے)۔ اس میں فرق یہ ہے کہ ایک ہی جنس کے مخلوط ہو جانے سے وہ شئی مثلی چیزوں میں سے ہے (یعنی اگر کوئی شخص اسے برباد کر دے تو اس کی جیسی مثلی چیز اس کا قائم مقام ہو سکتی ہے) اور دو جنسوں کی ملی ہوئی مخلوط چیز مثلی نہیں بلکہ قیمتی (قیمت والی) ہے اس کے برباد کر دینے والے پر اس کا مثل نہیں بلکہ اس کی قیمت واجب ہوتی ہے۔ اس بناء پر اس میں جہالت پیدا ہوگئی (یعنی ہر شریک کو اس کی تقسیم کے وقت اس کا اصل مال مل سکتا ہے جیسے اسباب میں ہوتا ہے)۔ اور جب شرکت صحیح نہ ہوئی تو خلط کا جو حکم ہے وہ ہم نے کتاب القضاء میں بیان کیا ہے۔ (بلکہ کتاب الودیعت میں بیان کیا ہے)۔ بالغایہ یا کفایۃ المنتہی میں ملاحظہ ہو۔

### اسباب میں شرکت مفاوضہ کے جواز کا حیلہ

قَالَ وَإِذَا أَرَادَ الشَّرِكَةُ بِالْعَرُوضِ بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِصْفَ مَالِهِ بِنِصْفِ مَالِ الْآخَرِ ثُمَّ عَقَدَ الشَّرِكَةَ قَالَ وَهَذِهِ شَرْكَةُ مُلْكٍ لِّمَالَيْنَا أَنَّ الْعَرُوضَ لَا تَصِحُّ رَأْسُ مَالِ الشَّرِكَةِ وَتَأْوِيلُهُ إِذَا كَانَ قِيَمَةُ مَتَاعِهِمَا عَلَى السَّوَاءِ



وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ يَبِيعُ صَاحِبُ الْأَقْلِّ بِقَدْرِ مَا يَثْبُتُ بِهِ الشَّرِكَةُ

ترجمہ..... اور جب کوئی شخص کسی کے ساتھ اسباب میں شرکت کا معاملہ کرنا چاہے تو ہر ایک شخص اپنے آدھے مال کو دوسرے کے آدھے مال کے عوض فروخت کر دے اس کے بعد عقد شرکت طے کرے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ شرکت ملک کی ہوگی۔ اس لئے کہ ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ شرکت کا رأس المال یہ اسباب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو مسئلہ ابھی مذکور ہوا اس کی تاویل یہ ہے کہ دونوں کے اسباب کی قیمت برابر ہو۔ اور اگر قیمت میں فرق یعنی کمی اور زیادتی ہو تو کم قیمت والا اپنے مال میں سے دوسرے کے اسباب سے اسی فرق کے اندازہ کے عوض فروخت کر دے۔ تاکہ شرکت ثابت ہو جائے (مثلاً اس شریک کے اسباب کی قیمت چار سو درہم اور دوسرے کے اسباب کی قیمت صرف ایک سو درہم ہوں۔ تو دوسرا شخص اپنے اسباب کے پانچ حصوں میں سے چار حصے دوسرے کے پانچویں حصے کے عوض فروخت کر دے۔ اس طرح خلط کر دینے سے کل اسباب کے پانچ حصے ہوں گے۔ جن میں ایک حصہ کم مال والے کا ہوگا۔ اس لئے اسے نفع کا بھی پانچواں حصہ ہی ملے گا)۔

### شرکت عنان کی تعریف

قَالَ وَأَمَّا شَرِكَةُ الْعِنَانِ فَتَعْقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ دُونَ الْكِفَالَةِ وَهِيَ أَنْ تَشْتَرِكَ اثْنَانِ فِي نَوْعٍ بَرٍّ أَوْ طَعَامٍ أَوْ يَشْتَرِكَ فِي عُمُومِ التَّجَارَاتِ وَلَا يَذْكُرَانِ الْكِفَالَةَ وَانْعِقَادُهُ عَلَى الْوَكَالَةِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِهِ كَمَا بَيَّنَّاهُ وَلَا يَتَعَقَّدُ عَلَى الْكِفَالَةِ لِأَنَّ اللَّفْظَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْإِعْرَاضِ يُقَالُ عَنْ لَهْ أَيْ أُعْرَضُ وَهَذَا لَا يَنْبَغِي عَنِ الْكِفَالَةِ وَحُكْمُ التَّصَرُّفِ لَا يَثْبُتُ بِخِلَافِ مُقْتَضَى اللَّفْظِ

ترجمہ..... قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے عقد شرکت کی دوسری قسم عنان کے بارے میں فرمایا کہ وہ وکالت پر منعقد ہوتی ہے۔ اور کفالت پر منعقد نہیں ہوتی ہے۔ اس طور سے کہ دو شخص کپڑے یا غلہ کی تجارت میں شرکت کریں یا عموماً ہر قسم کی تجارت میں شرکت کریں اور کفالت کا ذکر نہ کریں۔ اس میں وکالت پر انعقاد اس لئے ہے کہ شرکت کا مقصود حاصل ہو جائے۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں لیکن یہ کفالت سے منعقد نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ عنان کے معنی ہیں منہ موڑنا۔ محاورہ میں بولا جاتا ہے عَنْ لَهْ۔ جبکہ کسی سے منہ موڑا ہو۔ اس ترجمہ سے کفالت کا پایا جانا بالکل ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اور لفظ کے مقتضاء کے خلاف کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے۔

### شرکت عنان میں مال اور منافع میں تساوی ضروری ہے

وَيَصِحُّ التَّفَاضُلُ فِي الْمَالِ لِحَاجَةِ إِلَيْهِ وَلَيْسَ مِنْ قِضِيَةِ اللَّفْظِ الْمَسَاوَاةُ وَيَصِحُّ أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الْمَالِ وَ يَتَفَاضَلَا فِي الرِّبْحِ وَقَالَ زُفَرٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ التَّفَاضُلَ فِيهِ يُؤَدِّي إِلَى رِبْحٍ مَالٌ يَضُمَّنُ فَإِنَّ الْمَالَ إِذَا كَانَ نِصْفَيْنِ وَالرِّبْحُ أَثْلَانِ فَصَاحِبُ الزِّيَادَةِ يَسْتَحِقُّهَا بِلاَضْمَانٍ إِذَا الضَّمَانُ بِقَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ وَلِأَنَّ الشَّرِكَةَ عِنْدَهُمَا فِي الرِّبْحِ لِشَرِكَةٍ فِي الْأَصْلِ وَلِهَذَا يَشْتَرِ طَانِ الْخُلْطِ فَصَارَ رِبْحُ الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ نِمَاءِ الْأَعْيَانِ فَيَسْتَحَقُّ بِقَدْرِ الْمَلِكِ فِي الْأَصْلِ وَلَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ وَلَمْ يُفْصَلْ وَلِأَنَّ الرِّبْحَ كَمَا يُسْتَحَقُّ بِالْمَالِ يُسْتَحَقُّ بِالْعَمَلِ كَمَا فِي الْمُضَارَبَةِ وَقَدْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَخَذَ وَأُهْدَى أَوْ



أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقْوَى فَلَا يَرْحَلُ بِالْمَسَاوَاةِ فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى التَّفَاضُلِ بِخِلَافِ اشْتِرَاطِ جَمِيعِ الرِّبْحِ لِأَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ يَخْرُجُ الْعَقْدُ بِهِ مِنَ الشَّرِكَةِ وَمِنْ الْمُضَارَبَةِ أَيْضًا إِلَى قَرْضٍ بِاشْتِرَاطِهِ لِلْعَامِلِ أَوْ إِلَى بَضَاعَةٍ بِاشْتِرَاطِهِ لِرَبِّ الْمَالِ وَهَذَا الْعَقْدُ يَشْبَهُ الْمُضَارَبَةَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَعْمَلُ فِي مَالِ الشَّرِيكَ وَيَشْبَهُ الشَّرِكَةَ إِسْمًا وَعَمَلًا فَإِنَّهُمَا يَعْمَلَانِ فَعَمِلْنَا بِشِبْهِ الْمُضَارَبَةِ وَقُلْنَا يَصِحُّ اشْتِرَاطُ الرِّبْحِ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ وَبِشِبْهِ الشَّرِكَةِ حَتَّى لَا يَبْطُلَ بِاشْتِرَاطِ الْعَمَلِ عَلَيْهِمَا

ترجمہ..... اور (شرکت عنان کی صورت میں) دونوں شریکوں کے مال میں کمی و بیشی کا ہونا صحیح ہے کیونکہ اس کی ضرورت اور مجبوری ہے۔ لفظ عنان اس کا تقاضا نہیں کرتا ہے کہ دونوں میں برابری ہو۔ اور اگر دونوں کا مال برابر ہو پھر بھی نفع میں کسی کے لئے زیادتی کی شرط ہو۔ مثلاً نفع میں ایک کے لئے ایک تہائی اور دوسرے کے لئے دو تہائی کی شرط تو بھی جائز ہے۔ لیکن امام زفر و شافعی رحمہما اللہ نے فرمایا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ نفع میں زیادتی کا مطلب یہ ہوگا کہ جس چیز کا ضمان لازم نہ آئے اس کا نفع لیا جائے۔ اسی لئے اگر سب کا مال برابر ہو لیکن نفع ایک کے لئے دو تہائی اور دوسرے کے لئے ایک تہائی ہو تو جس کے لئے دو تہائی نفع ہوگا اس کا نفع دوسرے کے مقابلہ میں ایک تہائی زیادہ ہو جائے گا۔ اور اس نفع کے مقابلہ میں اس پر کوئی ضمان لازم نہیں آئے گا۔ حالانکہ کسی پر ضمان اتنا ہی لازم آتا ہے جتنی اس کی اصل پونجی یا رأس المال ہو۔ اور ناجائز ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ امام زفر و شافعی رحمہما اللہ کے نزدیک اصل مال میں شرکت کی وجہ سے نفع میں شرکت ہوتی ہے۔ اسی لئے دونوں کے نزدیک اصل مال کا ایک دوسرے کے مال میں ملا جلا ہونا شرط ہے۔ تو مال کا نفع ایسا ہو گیا۔

جیسے اصل مال میں اس کی زیادتی ہوتی ہے، یعنی جیسے بکریوں کے بچے ہو کر اصل مال میں زیادتی ہو جاتی ہے پس اصل مال میں جس کی جتنی ملکیت ہوگی اس کے نفع میں اتنا ہی اس کا حصہ ہوگا۔ اور ہماری دلیل یہ حدیث ہے کہ نفع دونوں کی شرط کے مطابق ہوگا لیکن نقصان مال کے اندازہ سے ہوگا۔ اس روایت میں اصل مال کی برابری یا کمی بیشی کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ (یعنی اگر مال برابر ہو اور نفع میں کمی و بیشی کی شرط کی تو بھی جائز ہوگا۔ بخلاف نقصان کے کہ وہ شرط کے موافق نہیں ہوگا۔ بلکہ مال کے اندازہ سے ہوگا۔ لیکن یہ حدیث صرف حنفیہ کی کتابوں میں حضرت علیؑ سے مرئی ہے۔ ت۔ م۔ ہ۔ اور اس دلیل سے بھی کہ نفع پانے کا حقدار جس طرح انسان مال سے ہوتا ہے اسی طرح کام سے بھی حقدار ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مضارب بت میں ہوتا ہے (یعنی مضارب کو روپیہ دیا کہ وہ اس سے تجارت کر کے نفع حاصل کرے)۔ اس طرح نفع کے تین حصے کر کے مال والا اپنے مال کا نفع پائے گا اور مضارب اپنے کام کی وجہ سے نفع پائے گا۔ اور کبھی دونوں میں سے ایک شریک کو اس تجارت کا ڈھنگ زیادہ اور کام زیادہ آتا ہے اور اپنے شریک سے زیادہ چاق و چوبند اور زیادہ ہوشیار ہوتا ہے اس بناء پر وہ نفع کی برابری پر راضی نہ ہوگا۔ اس ضرورت کی وجہ سے نفع میں کمی و بیشی پر کاروبار کرنا جائز ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر نفع ایک ہی شخص کے لئے شرط ہو جائے تو جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ ایسا کرنے سے عقد شرکت نہیں ہوگا بلکہ عقد مضارب بت بھی نہ ہوگا۔ بلکہ اگر خاص کر کے لئے پورے نفع کی شرط لگا کر دیا (مثلاً ان روپے سے فلاں کام کا کاروبار کرو اور سارا نفع تمہارا ہوگا) تو یہ قرض ہو جائے گا اور اگر سارا نفع مال کے مالک کے لئے ہونے کی شرط پر ہو۔ لیکن یہ عقد ایسا ہو کہ ابتداء میں تو مضارب بت کے مشابہ ہو اس بناء پر کہ وہ شریک کے مال میں کام کرتا ہے ساتھ ہی شرکت مفادہ کے بھی مشابہ ہو اس بناء پر کہ نام کے اعتبار سے تو شرکت ہوتی ہے لیکن عمل کے اعتبار سے تجارت بھی ہوتی ہے۔ پس اس میں دونوں مشابہتوں کا عمل ہوا۔ تو مضارب بت کا اثر یہ ہوگا کہ ہم نے یہ کہا کہ بغیر ضمانت کے بھی نفع کی

شرط کرنا صحیح ہے۔ یعنی جس طرح مضاربہ میں مال امانت کے طور پر ہوتا ہے لیکن ضمانت کے بغیر بھی اس میں نفع کی شرط جائز ہوتی ہے۔ اسی طرح شرکت عنان میں ایک شریک کے لئے زائد نفع کا ہونا جائز ہوتا ہے۔ اور دوسری شرکت، مفاوضہ ہونے کا اثر یہ ہوگا کہ دونوں شریکوں پر کام کی شرط ہونے سے شرکت عنان باطل نہیں ہوتی ہے۔

**شرکت عنان میں ہر دو شریک اپنے کچھ مال کو شرکت میں ملائیں اور بقیہ کو نہ ملائیں جائز ہے**

قَالَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ هَاكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْضَ مَالِهِ دُونَ الْبَعْضِ لِأَنَّ الْمَسَاوَاةَ فِي الْمَالِ لَيْسَ بِشَرَطٍ فِيهِ إِذِ اللَّفْظُ لَا يَفْتَضِيهِ وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْمُفَاوَضَةَ تَصِحُّ بِهِ لِلْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

ترجمہ۔ اور (قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ) شرکت عنان میں یہ بات جائز ہے کہ ہر شریک اپنے تھوڑے مال کو شرکت کے مال میں ملا دے اور باقی کو نہ ملائے۔ کیونکہ اس شرکت میں مال کی برابری شرط نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ عنان کے معنی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی برابری کا تقاضا ہے۔ البتہ شرکت اس مال سے صحیح ہوگی جسے ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے یعنی درہم و دینار اور رائج الوقت سکے یعنی جن سے شرکت مفاوضہ صحیح ہوتی ہے۔ اس کی وجہ بھی وہی ہے جسے وہاں بیان کر چکے ہیں۔

**شرکت عنان میں ایک کی طرف سے درہم اور دوسرے شریک کی طرف سے دینار ہوں جائز ہے**

وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ كَاوَمِنْ جِهَةِ أَحَدِهِمَا دَنَانِيرُ وَمِنْ الْآخَرِ دَرَاهِمُ وَ كَذَا مِنْ أَحَدِهِمَا دَرَاهِمُ بَيْضُ وَمِنْ الْآخَرِ سُودٌ وَقَالَ زُفَرٌ وَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ وَ هَذَا بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاكِ الْخَلْطِ وَ عَدَمِهِ فَإِنَّ عِنْدَهُمَا شَرْطٌ وَ لَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي مُخْتَلَفِي الْجَنَسِ وَ سَبَّيْنُهُ مِنْ بَعْدِ إِنْشَاءِ اللَّهِ تَعَالَى

ترجمہ۔ اور (یہ بھی کہا ہے کہ) شرکت عنان میں یہ بھی جائز ہے کہ ایک شریک کی طرف سے دینار ہوں اور دوسرے کی طرف سے درہم ہوں۔ اس طرح یہ بھی جائز ہے کہ اس کی طرف سے سفید درہم ہوں اور دوسرے کی طرف سے سیاہ درہم ہوں۔ مگر امام زفر و شافعی رحمہما اللہ نے کہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہوگا۔ دراصل یہ اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ دونوں کے مالوں کو ایک دوسرے میں ملانے کی شرط ہے یا نہیں۔ چنانچہ زفر رحمۃ اللہ علیہ و شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ملا دینا شرط ہے۔ حالانکہ جنسیت میں مختلف دو چیزیں ایک دوسرے میں مکمل طور سے مختلف نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس مسئلہ کو ہم انشاء اللہ اس کے بعد پھر بیان کریں گے۔

**شرکت عنان میں جس سے ایک نے کوئی چیز خریدی اسی سے ثمن کا مطالبہ ہو سکتا ہے**

قَالَ وَ مَا اشْتَرَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشَّرَكَةَ طَوْلَبَ بِشَمَنِهِ دُونَ الْآخَرِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الْوَكَالَهَ دُونَ الْكِفَالَةِ وَالْوَكِيلُ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْحَقُوقِ

ترجمہ۔ اور (قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ) شرکت عنان کے دونوں شریکوں میں سے جس کسی نے جو کچھ کاروبار میں شرکت کے لئے خریدا ہے۔ اس کی قیمت کا مطالبہ صرف اسی سے ہوگا اور دوسرے سے نہ ہوگا۔ کیونکہ ہم نے پہلے بتا دیا ہے کہ شرکت عنان میں



صرف وکالت پائی جاتی ہے۔ اور کفالت کو یہ شامل نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ حقوق کے مطالبہ میں اصل وکیل ہی ہوتا ہے۔

ہر شریک دوسرے شریک سے اپنے حصہ کے بقدر رجوع کرے گا

قَالَ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ مَعْنَاهُ إِذَا أَدَّى مِنْ مَالٍ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ وَكَيْلٌ مِنْ جِهَتِهِ فِي حِصَّتِهِ فَإِذَا نَقَدَ مِنْ مَالٍ نَفْسِهِ رَجَعَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ لَا يُعْرِفُ ذَلِكَ إِلَّا بِقَوْلِهِ فَعَلَيْهِ الْحُجَّةُ لِأَنَّهُ يَدَّعِي وَجُوبَ الْمَالِ فِي ذِمَّةِ الْآخِرِ وَهُوَ يُنْكِرُ وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكَرِ مَعَ يَمِينِهِ

ترجمہ۔۔۔ پھر قیمت سے جو کچھ بھی ادا کیا ہے اس میں سے دوسرے شریک سے اس کے حصہ کے برابر اس سے واپس مانگ لے گا۔ اس جملہ کے معنی یہ ہوئے کہ جب ایک شریک نے اپنے مال سے قیمت ادا کی ہو تو اپنے دوسرے شریک سے اس کے حصہ کے برابر واپس لے گا۔ کیونکہ پہلا شریک دوسرے شریک کی طرف سے اس کے حصہ میں وکیل ہے اس لئے جب اس نے اپنے مال سے ادا کر دیا تو وہ دوسرے شریک سے واپس لے گا۔ اور اگر یہ بات کہ کوئی چیز خریدی گئی ہے۔ اور کتنے میں خریدی گئی ہے معلوم نہ ہو سکے (مثلاً جو چیز خریدی ہو وہ موجود نہ ہو حالانکہ شریک یہ کہتا ہے کہ میں نے مثلاً ایک غلام خریدا ہے اور اس کی قیمت بھی ادا کر دی ہے بعد میں وہ غلام مر گیا ہے لیکن دوسرا شریک ان باتوں کا انکار کرتا ہو کہ ایسا بالکل نہیں ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں کہنے اور دعویٰ کرنے والے پر لازم ہوگا کہ اپنے دعویٰ کے مطابق گواہ پیش کرے۔ کیونکہ شریک غلام کی خریداری کا دعویٰ کر کے دوسرے کے ذمہ مال کے واجب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا شریک اس کا انکار کرتا ہے لہذا منکر کا قول قسم کے ساتھ ہی مقبول ہوگا۔ اگر وہ گواہ پیش نہ کرے گا تو انکار کرنے والے شریک کی بات (یعنی انکار) قسم کھالینے کے بعد قابل قبول ہوگی۔

مال شرکت یا ایک کا مال کوئی چیز خریدنے سے پہلے ہلاک ہو گیا شرکت باطل ہوگی

قَالَ وَإِذَا هَلَكَ مَالُ الشَّرِكَةِ أَوْ أَحَدُ الْمَالِكِينَ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا بَطَلَتِ الشَّرِكَةُ لِأَنَّ الْمُعْقُودَ عَلَيْهِ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ الْمَالُ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ فِيهِ كَمَا فِي الْهَبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَبِهَلَاكِ الْمُعْقُودِ عَلَيْهِ يَبْطُلُ الْعَقْدُ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ وَالْوَكَالَةِ الْمَفْرُودَةِ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الثَّمَانُ فِيهِمَا بِالتَّعَيُّنِ وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنَانِ بِالْقَبْضِ عَلَى مَا عُرِفَ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إِذَا هَلَكَ الْمَالَانِ وَكَذَا إِذَا هَلَكَ أَحَدُهُمَا لِأَنَّهُ مَارَضِي بِشَرِكَةِ صَاحِبِهِ فِي مَالِهِ إِلَّا لِيُشْرِكَ فِي مَالِهِ فَإِذَا فَاتَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ رَاضِيًا بِشَرِكَتِهِ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ وَأَيْهَمَا هَلَكَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ إِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ فَظَاهِرٌ وَكَذَا إِذَا كَانَ هَلَكَ فِي يَدِ الْآخِرِ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْخُلْطِ حَيْثُ يَهْلِكُ عَلَى الشَّرِكَةِ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ فَيُجْعَلُ الْهَلَاكُ مِنَ الْمَالِكِينَ

ترجمہ۔۔۔ اگر دونوں شریکوں کی شرکت کا کل مال یا صرف ایک کا مال ہلاک ہو گیا اس سے پہلے کہ شرکت کے مال سے وہ کوئی چیز خریدیں تو شرکت باطل ہو جائے گی۔ کیونکہ عقد شرکت جس چیز پر ہوتی ہے وہ مال ہے کیونکہ یہ عقد شرکت میں متعین ہو جاتا ہے۔ جیسے حصہ دار کا وصیت میں مال متعین ہو جاتا ہے۔ اور جس چیز پر عقد شرکت قائم ہوئی ہے اگر وہ ہلاک ہو جائے تو عقد ہی باطل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ عقد بیع میں ہوتا ہے (مثلاً جس بیع پر معاملہ طے پایا ہے اگر اس کے حوالہ کرنے سے پہلے ہلاک ہو جائے تو بیع باطل ہو جاتی ہے) بخلاف مضاربہ اور تمنا وکالت کے کیونکہ مضاربہ اور تمنا وکالت میں ثمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ قبضہ ہونے سے ہی متعین ہوتا



ہے۔ جیسا کہ یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے۔ (الحاصل مال برباد ہونے سے شرکت باطل ہو جائے گی)۔ پھر اس صورت میں جبکہ دونوں مال ہلاک ہو جائیں تو اس میں شرکت کا باطل ہونا تو ظاہر ہے۔ اور اگر صرف ایک کا مال ضائع ہو تو بھی شرکت باطل ہو گئی۔ کیونکہ جس کا مال ضائع نہیں ہوا ہے وہ اپنے مال میں دوسرے کو شریک کرنے پر صرف اس طرح سے راضی ہوا تھا کہ وہ خود بھی اس مال میں شریک ہو۔ اور اب جبکہ اس کا مال ہی باقی نہ رہا تو یہ اپنے مال میں شریک کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ لہذا عقد شرکت باطل ہو جائے گا کیونکہ اس کا باقی رہنا بے فائدہ ہوگا۔ اور دونوں میں سے جس کسی کا مال ضائع ہوگا اسی کا مال ضائع ہوگا یعنی دوسرا شخص اس کا شامن بالکل نہیں ہوگا کیونکہ اگر خود اس کے قبضہ میں رہتے ہوئے ضائع ہوا جب تو بات واضح ہے۔ اور اگر دوسرے شریک کے قبضہ میں رہتے ہوئے ضائع ہوا تو بھی ضمان لازم نہیں آئے گا کیونکہ وہ مال اس کے قبضہ میں بطور امانت تھا۔ بخلاف اس کے اگر دونوں کا مال ملا دیا گیا اس کے بعد وہ ہلاک ہوا تو اس صورت میں اس کی بربادی بھی مشترک یعنی دونوں شریکوں کے مال سے مشترک ہلاک سمجھا جائے گا کیونکہ مال میں کوئی امتیاز نہیں رہتا ہے کہ کس کا ہلاک ہوا اور کس کا باقی رہا۔ اس لئے دونوں مالوں سے ہی ہلاک ہونا کہا جائے گا۔

ایک کے مال سے کچھ خریدا گیا دوسرے کا مال خریدنے سے پہلے ہلاک ہو گیا مشتری مشترک ہوگی

وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ وَهَلَكَ مَالُ الْآخَرِ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَالْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا لِأَنَّ الْمَلِكَ حِينَ وَقَعَ وَقَعَ مُشْتَرِكًا بَيْنَهُمَا لِقِيَامِ الشَّرْكَهَةِ وَقَدْ شَرَاءِ فَلَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ بِهَلَاكِ مَالِ الْآخَرِ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ الشَّرْكَهَةُ شَرْكَهَةٌ عَقْدٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لِلْحَسَنِ ابْنِ زِيَادٍ حَتَّىٰ أَنْ يُهْمَا بَاعَ جَارَ بَيْعُهُ لِأَنَّ الشَّرْكَهَةَ قَدْ تَمَّتْ فِي الْمُشْتَرَى فَلَا يَنْتَقِضُ بِهَلَاكِ الْمَالِ بَعْدَ تَمَامِهَا

ترجمہ..... اور اگر دونوں میں سے ایک نے اپنے مال سے کچھ خریدا لیکن اس کے خریدنے سے پہلے ہی دوسرے کا مال ضائع ہو گیا تو جو چیز خریدی گئی ہو وہ ان دونوں میں ان کی شرط کے مطابق مشترک ہوگی۔ کیونکہ جس وقت اس پر ملکیت ثابت ہوئی ہے وہ اس وقت دونوں میں مشترک تھی اس لئے اس کے بعد دوسرے کا مال ضائع ہو جانے سے پہلا حکم نہیں بدلے گا۔ پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ شرکت عقد ہوگی اسی لئے ان دونوں شریکوں میں سے جو کوئی بھی اسے فروخت کرے گا وہ فروخت صحیح ہوگی۔ کیونکہ خریدی ہوئی چیز میں شرکت پوری ہو چکی تھی۔ اس لئے اس کے پورا ہو جانے کے بعد دوسرے کا مال ضائع ہو جانے سے شرکت میں فرق نہیں آئے گا بلکہ شرکت باقی رہے گی۔ (الحاصل کلام یہ ہوا کہ خریدی ہوئی چیز دونوں کی مشترکہ ملکیت ہے۔ اگرچہ اس کی قیمت صرف ایک شریک نے ادا کی ہے)۔

ایک شریک دوسرے شریک پر اپنے حصہ ثمن سے رجوع کرے گا

قَالَ وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّةٍ مِّنْ ثَمَنِ لِأَنَّهُ اشْتَرَى نِصْفَهُ بِوَكَالَتِهِ وَنَقَدَ الثَّمَنَ مِنْ مَّالِ نَفْسِهِ وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا إِذَا اشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِأَحَدِ الْمَالَيْنِ أَوْ لَآئِهِمْ هَلَكَ مَالُ الْآخَرِ أَمَّا إِذَا هَلَكَ مَالُ أَحَدِهِمَا ثُمَّ اشْتَرَى الْآخَرُ بِمَالِ الْآخَرِ أَنْ صَرَّحَا بِالْوَكَالَةِ فِي عَقْدِ الشَّرْكَهَةِ فَالْمُشْتَرَى مُشْتَرِكٌ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا لِأَنَّ الشَّرْكَهَةَ إِنْ بَطَلَتْ فَالْوَكَالَةُ الْمَصْرُوحُ بِهَا قَائِمَةٌ فَكَانَ مُشْتَرِكًا بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ وَيَكُونُ شَرْكَهَةً مِّلْكٍ وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ



وَمِنْ الشَّمَنِ لِمَا بَيَّنَّاهُ وَإِنْ ذَكَرْنَا مَجْرَدَ الشَّرِكَةِ وَلَمْ يَنْصَحْ عَلَى الْوَكَالَةِ فِيهَا كَانَ الْمُشْتَرِي لِلَّذِي اشْتَرَاهُ خَاصَّةً لِأَنَّ الْوُقُوعَ عَلَى الشَّرِكَةِ حُكْمُ الْوَكَالَةِ الَّتِي تَضَمَّنَتْهَا الشَّرِكَةُ فَإِذَا بَطَلَتْ يَبْطُلُ مَا فِي ضَمَنِهَا بِخِلَافِ مَا إِذَا صَرَّحَ بِالْوَكَالَةِ لِأَنَّهَا مَقْصُودَةٌ

ترجمہ۔۔۔۔۔ پھر جس شریک نے مال کی قیمت ادا کی ہے وہ اپنے دوسرے شریک سے اس کے حصہ کے برابر اس کی قیمت سے وصول کر لے گا۔ کیونکہ اس شریک نے وکیل کے طور پر دوسرے شریک کا نصف حصہ خریدا ہے۔ لیکن پوری قیمت اپنی جیب سے ادا کر دی تھی۔ اس مسئلہ کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہ حکم اس صورت میں ہوگا جبکہ ایک شریک نے اپنے مال سے کوئی چیز خرید لی اس کے بعد دوسرے کا مال ضائع ہو گیا ہو۔ اور اگر یہ صورت ہو کہ ایک شریک کا مال پہلے ہی ضائع ہو گیا پھر دوسرے شریک نے اپنے مال سے کوئی چیز خریدی تو اس میں دو صورتیں ہیں،

۱۔ ایک یہ کہ عقد شرکت میں دونوں نے وکالت کی تصریح کر دی ہو تو اس صورت میں خریدی ہوئی چیز دونوں شریکوں کے درمیان مقررہ شرط کے مطابق مشترک ہوگی۔ کیونکہ اگر شرکت باطل ہوتی تو صراحت کے ساتھ وکیل بنادینے کی بات اب بھی موجود ہے۔ اسی لئے وہ چیز وکالت کی بناء پر دونوں میں مشترک ہوگئی۔ لیکن یہ شرکت ملک ہوگی یعنی شرکت عقد نہ ہوگی اور خریدنے والا اپنے شریک سے اس کے حصہ کے مطابق قیمت واپس لے لے گا۔ کیونکہ یہ شخص دوسرے شریک کا وکیل تھا اور اپنا ذاتی روپیہ اس کی خریداری میں دیا ہے۔

۲۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں نے صرف عقد شرکت کا ذکر کیا اور اس میں ایک دوسرے کو وکیل بنانے کی تصریح نہیں کی۔ پس اس صورت میں جو چیز خریدی گئی ہے وہ خاص اس کے خریدنے والے کی ہوگی کیونکہ ایسی خریداری میں شرکت اسی وکالت میں ہوتی ہے جو عقد شرکت کے ضمن میں ہو مگر جب شرکت ہی باطل ہوئی ہو تو اس کے ضمن میں جو وکالت پائی جاتی ہو وہ بھی باطل ہو جاتی ہے۔ بخلاف اس کے اگر وکالت کو ضمناً نہیں بلکہ صراحت کے ساتھ بیان کیا ہو تو وہ باطل نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ تو ارادہ اور قصد کے ساتھ بیان ہوئی ہے اور ضمنی نہیں ہوئی ہے۔

مالوں کو علیحدہ علیحدہ رکھنے کے باوجود شرکت درست ہے

قَالَ وَيَجُوزُ الشَّرِكَةُ وَإِنْ لَمْ يَخْلُطَا الْمَالَ وَقَالَ زُفَرَوُ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الرِّبْحَ فَرْعُ الْمَالِ وَلَا يَقَعُ الْفَرْعُ عَلَى الشَّرِكَةِ إِلَّا بَعْدَ الشَّرِكَةِ فِي الْأَصْلِ وَإِنَّهُ بِالْخَلِطِ وَهَذَا لِأَنَّ الْمَحَلَّ هُوَ الْمَالُ وَلِهَذَا يُضَافُ إِلَيْهِ وَيُشْتَرَطُ تَعْيِينُ رَأْسِ الْمَالِ بِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَّرِكَةٍ وَإِنَّمَا هُوَ يَعْمَلُ لِرَبِّ الْمَالِ فَيَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ عَمَلًا عَلَى عَمَلِهِ أَمَّا هُنَا بِخِلَافِهِ وَهَذَا أَصْلٌ كَبِيرٌ لَهُمَا حَتَّى يُعْتَبَرَ اتِّحَادُ الْجَنَسِ وَيُشْتَرَطُ الْخَلْطُ وَلَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي الرِّبْحِ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْمَالِ وَلَا يَجُوزُ شُرُكَةُ التَّقْبَلِ وَالْإِعْمَالِ لِإِنْعَادَامِ الْمَالِ وَلَنَا أَنَّ الشَّرِكَةَ فِي الرِّبْحِ مُسْتَنَدَةٌ إِلَى الْعَقْدِ دُونَ الْمَالِ لِأَنَّ الْعَقْدَ يُسَمَّى شُرُكَةً فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ مَعْنَى هَذَا الْأِسْمِ فِيهِ فَلَمْ يَكُنِ الْخَلْطُ شَرْطًا وَلِأَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالْدَنَانِيرَ لَا يَتَعَيَّنَانِ فَلَا يَسْتَفَادُ الرِّبْحُ بِرَأْسِ الْمَالِ وَإِنَّمَا يَسْتَفَادُ بِالتَّصَرُّفِ لِأَنَّهُ فِي التَّصَفُّفِ



أَصِيلٌ وَفِي النِّصْفِ وَكِيلٌ وَإِذَا تَحَقَّقَتِ الشَّرِكَةُ فِي التَّصَرُّفِ بِدُونِ الْخَلْطِ تَحَقَّقَتْ فِي الْمُسْتَفَادِ بِهِ وَهُوَ الرِّبْحُ بِدُونِهِ وَصَارَ كَالْمُضَارَبَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْجِنْسِ وَالتَّسَاوِي فِي الرِّبْحِ وَتَصَحُّ شَرْكَةِ التَّقْبُلِ

ترجمہ..... اور قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ۔ دو شریکوں نے اگرچہ مال خلط ملط نہ کیا ہو پھر بھی اس میں شرکت جائز ہوگی۔ (یہی قول امام مالک و احمد رحمہما اللہ کا بھی ہے) اور امام زفر و شافعی رحمۃ اللہ علیہما نے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے کیونکہ شرکت میں مال اصل اور اس کا نفع اس کی فرع ہے۔ فرع اس وقت مشترک ہوگی جبکہ اصل مشترک ہو جائے۔ اور اصل اس وقت مشترک ہوگی جبکہ مال مخلوط ہو اور نفع کو مال کے لئے فرع کہنا اس بناء پر ہے کہ اس کا محل مال ہے۔ اسی لئے نفع کو مال کی طرف منسوب اور مضاف کرتے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ مالی شرکت کرنے سے مال کا یہ نفع ہوا ہے۔ لیکن اس میں رأس المال (اصلی پونجی) کو متعین کر لینا ایک شرط ہے۔ بخلاف مضاربہ کے کہ وہ مال کو خلط ملط کئے بھی جائز ہے کیونکہ اس میں شرکت نہیں ہے۔ بلکہ مضارب صرف مال کے مالک کے لئے کام کرتا ہے اس کے بعد اس کا نفع میں سے اپنی محنت اور مزدوری پانے کا مستحق ہوتا ہے۔ اور یہاں اس کے برخلاف ہے کیونکہ اس میں ہر ایک شریک پوری محنت کرتا ہے۔ یہ بات امام زفر و شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے واسطے بڑی اصل ہے یہاں تک کہ جنس کے ایک اور متحد ہونے کا بھی اعتبار ہے۔ اور دونوں کے مال کو ملا کر رکھنا شرط ہے۔ اسی طرح مال برابر ہونے کے باوجود نفع میں کمی و بیشی جائز نہیں ہے۔ اور شرکت کی قسموں میں سے ایک قسم جو شرکت تقبل و اعمال ہے جس کا بیان عنقریب آنے والا ہے وہ بھی اسی قاعدہ اور اصل کی بناء پر جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں مال نہیں ہوتا ہے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نفع میں شرکت کا ہونا عقد کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے ہے۔ مال کی طرف اضافت کرنے کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ عقد اور معاملہ ہی کو شرکت کہتے ہیں۔ اس لئے اس نام کے معنی کا اس میں پایا جانا ضروری ہے اس بناء پر خلط ملط کرنا شرط نہ ہوا۔ اور اس دلیل سے بھی کہ درہم و دینار ایسی چیز نہیں ہے جو عقد میں متعین ہو اس لئے نفع حاصل ہونا رأس المال سے نہیں ہے۔ بلکہ اس تصرف سے ہے جو رأس المال میں ہوتا ہے یعنی رأس المال کے ذریعہ سے کام کرنے پر نفع ملتا ہے۔ کیونکہ ہر شریک آدھے مال میں اصیل اور دوسرے آدھے میں وکیل ہوتا ہے۔ اور جب خلط ملط کئے بغیر تصرف اور تجارت کے کاموں میں شرکت پائی گئی تو اس محنت اور تصرف سے جو کچھ حاصل ہوا یعنی نفع اس میں بھی خلط کے بغیر ہی شرکت پائی گئی۔ اور یہ بھی مضاربہ کے مثل ہوگئی۔ (اس طرح خلاصہ کلام یہ ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفع کی نسبت رأس المال کی طرف ہے۔ اور ہمارے نزدیک عقد اور معاملہ کے مطابق جو کچھ کاروباری کام کرنے پڑتے ہیں اس کی طرف ہے) پس ہمارے نزدیک مالوں کے جنس کا متحد ہونا۔ اور برابر مالوں میں نفع کا بھی برابر ہونا کچھ شرط نہیں ہے۔ اور لوگوں کے کام قبول کرنے میں عقد شرکت کرنا صحیح ہے۔

نفع میں ایک کیلئے دراہم مسماۃ کی قید لگانے سے شرکت درست نہیں

قَالَ وَلَا يَجُوزُ الشَّرِكَةُ إِذَا شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا دَرَاهِمُ مُسَمَّاهُ مِنَ الرِّبْحِ لِأَنَّهُ شَرَطَ يُوجِبُ انْقِطَاعَ الشَّرِكَةِ فَعَسَاهُ لَا يَخْرُجُ إِلَّا قَدْرُ الْمُسَمَّى لِأَحَدِهِمَا وَنَظِيرُهُ فِي الْمُزَارَعَةِ

ترجمہ..... اور قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ۔ اگر شرکت کے معاملہ میں ایک نے اس شرط کے ساتھ شرکت کی کہ نفع میں سے متعین (مثلاً دس) درہم اس کے ہوں گے تو یہ معاملہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ یہ شرط ایسی لگائی گئی ہے جو اس شرکت ہی کو ختم کر دیتی ہے۔ اس احتمال



کی بناء پر کہ شاید کل نفع یہی دس درہم ہوئے ہوں۔ (اس طرح ایک ہی کوکل دینے کے بعد دوسرا شریک بالکل محروم بھی ہو سکتا ہے۔) اس حکم کی نظیر مزارعت کے مسئلہ میں ہے۔ یعنی زمین کے مالک اور کاشتکار میں سے کسی ایک کے لئے بٹائی کے حصہ کے سوا پیداوار میں سے متعین چند من گیہوں ہوگا۔ اس وجہ سے کہ شاید کل پیداوار اتنی ہی ہوئی ہو۔ اور اب یہاں سے شرکت مفاوضہ اور شرکت عنان کے کچھ ضروری احکام بیان کئے جا رہے ہیں۔

**شرکت مفاوضہ مفاوضین اور شرکت عنان کے دونوں شریک مال کو بضاعت پر دے سکتے ہیں**

قَالَ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُفَاوِضِينَ وَشَرِيكِي الْعِنَانِ أَنْ يُبْذَعَ الْمَالُ لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ وَلِأَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَى الْعَمَلِ وَالتَّحْصِيلِ بغيرِ عَوَضٍ دُونَهُ فِيمِلِكُهُ وَكَذَلِكَ أَنْ يُودِعَهُ لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ وَلَا يَجِدُ التَّاجِرُ مِنْهُ بَدَلًا

ترجمہ..... اور شرکت مفاوضہ کے دونوں شریکوں میں ہر ایک کو اس طرح شرکت عنان کے دونوں شریکوں میں ہر ایک کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ مال مشترک بضاعت پر دے (بضاعت پر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مال کسی تاجر کو اس غرض سے دے کہ وہ اس مال میں سے کچھ مال خرید کر کاروبار کرے۔ اور جو کچھ نفع ہو وہ اصل کے ساتھ مال کے مالک کو دے دے تو ہر شریک کو اس طرح مال دینا جائز ہے) کیونکہ عقد شرکت میں بضاعت دینے کا دستور اور عادت جاریہ ہے۔ اور اس دلیل سے کہ شریک کو اس بات کا اختیار ہے کہ کام کرنے کے لئے اجرت دے کر کوئی مزدور مقرر کرے اور جب خرچ دے کر رکھنا جائز ہو تو بغیر مزدوری کے یعنی مفت میں ایسا آدمی حاصل ہونا تو معمولی بات ہے اس لئے وہ ضرور اس کا بھی مالک ہوگا۔ اور شریک کو یہ بھی اختیار ہے کہ مال کسی کے پاس بطور امانت رکھ دے کیونکہ کاروبار میں اس کی بھی عادت جاریہ ہے۔ اور کبھی تاجر اس کام کے لئے انتہائی مجبور بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے علاوہ اس کو چارہ نہیں ہوتا ہے۔

**ہر شریک مال کو مضاربیت پر بھی دے سکتا ہے**

قَالَ وَيَدْفَعُهُ مُضَارِبَةً لِأَنَّهَا دُونَ الشَّرِكَةِ فَيَتَضَمَّنُهَا وَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ نَوْعُ شَرِكَةٍ وَالْأَصَحُّ هُوَ الْأَوَّلُ وَرَوَايَةُ الْأَصْلِ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ غَيْرَ مَقْصُودٍ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ تَحْصِيلُ الرَّبْحِ كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَ بِأَجْرٍ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ تَحْصِيلٌ بِدُونِ ضَمَانٍ فِي ذِمَّتِهِ بِخِلَافِ الشَّرِكَةِ حَيْثُ لَا يَمْلِكُهَا لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَسْتَتَبِعُ مِثْلَهُ

ترجمہ..... اور ہر ایک شریک کو اس بات کا بھی اختیار ہوتا ہے کہ مال کو مضاربیت پر دے کیونکہ یہ شرکت سے کم ہے اس لئے شرکت اس کو شامل ہے۔ (کیونکہ شرکت میں کچھ نقصان آ جانے سے دوسرے شریک کا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ اور مضارب پر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے اس لئے شرکت کے ضمن میں مضاربیت کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ عفو) اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اسے مضاربیت پر دینے کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ مضاربیت بھی ایک قسم کی شرکت ہے۔ (اس لئے ایک شریک کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ کسی تیسرے کو بھی شریک بنالے جبکہ شرکت کا مال ایک ہو)۔ مگر پہلی ہی روایت اصلح ہے۔ اور وہی مبسوط کی روایت ہے۔ کیونکہ مضاربیت پر دینے سے شرکت مقصود نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ صرف نفع حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو اجرت پر رکھ کر اس سے تجارت کا کام لے بلکہ



مضارب بتو بدرجہ اولیٰ جائز ہے کیونکہ یہ نفع تو اپنے اوپر کوئی اجرت لازم آئے بغیر مفت میں حاصل ہوتا ہے۔ بخلاف شرکت کے کہ شریک کو اس مال سے دوسرے کے ساتھ شرکت کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ عقد شرکت کے ماتحت اسی کی جیسی شرکت کا اختیار نہیں ہوتا ہے کیونکہ کسی شئی کے تابع ہو کر اس کی جیسی چیز ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔

ہر شریک دوسرے شخص کو تصرفات کا وکیل بنا سکتا ہے

قَالَ وَيُوكِّلُ مَنْ يَتَصَرَّفُ فِيهِ لِأَنَّ التَّوَكُّلَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ وَالشَّرِكَةُ انْعَقَدَتْ لِلتِّجَارَةِ بِخِلَافِ التَّوَكُّلِ بِالشِّرَاءِ حَيْثُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَتَّوَكَّلَ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ عَقْدٌ خَاصٌّ طَلَبَ مِنْهُ تَحْصِيلُ الْعَيْنِ فَلَا يَسْتَتَبِعُ مِثْلَهُ

ترجمہ..... قال وینوکل..... الخ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ہر شریک کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ اس مال شرکت میں کسی بھی شخص کو اس بات کا وکیل بنادے جو اس میں تجارتی تصرف کر سکے کیونکہ خرید و فروخت کے لئے وکیل بنانا بھی کاروبار کے لوازمات اور اس کے ضروری کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اور شرکت کا معاہدہ کاروبار کے عوض سے ہی طے پایا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی شخص کو صرف خریدنے کا وکیل بنایا گیا ہو تو اس کو اپنے مؤکل کی اجازت صریحہ کے بغیر یہ اختیار نہیں ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کسی دوسرے کو وکیل بنادے کیونکہ یہ عقد و معاہدہ بالکل خاص تھا۔ جس سے کسی ایک متعین مال کو حاصل کرنا مقصود تھا۔ اس لئے اس وکیل کے عقد میں اس کے مثل وکیل بنانا تابع نہ ہوگا۔

شریک کا قبضہ امانت کا قبضہ ہے

قَالَ وَيَدُهُ فِي الْمَالِ يَدُ أَمَانَةٍ لِأَنَّهُ قَبْضُ الْمَالِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ لَا عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ وَالْوَثِيقَةُ فَصَارَ كَالْوَدِيعَةِ

ترجمہ..... قال ویدہ..... الخ اور قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ شرکت مفادضہ و عمنان میں سے ہر شریک کے قبضہ میں جتنا مال ہو وہ بطور امانت ہوتا ہے۔ کیونکہ اس نے مالک کی اجازت سے کسی عوض کے بغیر اپنے قبضہ میں لیا ہے۔ (جیسے خریدنے کے لئے دام اور سکے کے عوض کوئی چیز لے کر آتا ہے کہ اگر وہ چیز کسی طرح ضائع ہو جائے تو اس کی وہ قیمت ادا کرنی ہوتی ہے)۔ اسی طرح معاملہ کو بچتہ کرنے کے طور پر بھی نہیں (جیسے مرہن کا قبضہ اس مال پر ہوتا ہے جو بطور رہن رکھا جاتا ہے)۔ اس لئے یہ مال امانت اور ودیعت کے طور پر ہوا۔ (یہاں تک کہ اگر کسی شریک کے پاس کچھ مال ضائع ہو جائے تو وہ شرکت کے مال سے ضائع ہوگا۔ جس کا وہ ضامن نہیں ہوگا)۔

شرکت الصنائع کی تعریف

قَالَ وَأَمَّا شَرِكَةُ الصَّنَائِعِ وَيُسَمَّى شَرِكَةُ التَّقْبُلِ كَالْحَيَاطِينِ وَالصَّبَاغِينَ يَشْتَرِ كَانِ عَلَى أَنْ يَقْبَلَ الْأَعْمَالُ وَيَكُونُ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا فَيَجُوزُ ذَالِكُ وَهَذَا عِنْدَنَا وَقَالَ زُفَرٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ هَذِهِ شَرِكَةُ لَا يُفِيدُ مَقْصُودَهَا وَهُوَ التَّشْمِيرُ لِأَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَهَذَا لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِي الرِّبْحِ تَبْتَنِي عَلَى الشَّرِكَةِ فِي الْمَالِ عَلَى أَصْلِهَا عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ وَلَنَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ التَّحْصِيلُ وَهُوَ مُمَكِّنٌ بِالتَّوَكُّلِ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ وَكِيلًا فِي



النِّصْفِ أَصِيلاً فِي النِّصْفِ تَحَقَّقَتِ الشَّرِكَةُ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ وَلَا يَشْتَرُطُ فِيهِ اتِّحَادُ الْعَمَلِ وَالْمَكَانِ خِلَافاً  
لِمَالِكٍ وَزُفَرٍ فِيهِمَا لَأَنَّ الْمَعْنَى الْمُجَوِّزُ لِلشَّرِكَةِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ لَا يَتَفَاوَتُ

ترجمہ..... اور شرکت کی قسموں میں سے تیسری قسم شرکت الصانع ہے۔ اسی کو شرکت التقبل بھی کہتے ہیں۔ یعنی کام قبول کرنا۔ جیسے دو درزیوں یا دو رنگریزوں نے آپس میں اس شرط کے ساتھ شرکت کی کہ لوگوں سے کام جمع کریں اور اس میں محنت کے بعد جو کچھ بھی ہاتھ آئے وہ دونوں کے درمیان مشترک نفع ہو اور دونوں اسے آپس میں تقسیم کر لیں۔ تو یہ صورت ہمارے نزدیک جائز ہے اور امام زفر و شافعی رحمۃ اللہ علیہما نے کہا ہے کہ یہ شرکت جائز نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس شرکت کا جو مقصد ہے یعنی نفع سے مال بڑھانا وہ حاصل نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کے لئے رأس المال (اصل پونجی) کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ و شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس اصل پر جس کو بیان کر چکے ہیں کہ مال کی شرکت پر نفع کی شرکت موقوف ہے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ عقد شرکت سے مقصود مال حاصل کرنا ہے اور یہ بات کسی کو وکیل مقرر کر دینے سے بھی ممکن ہے۔ کیونکہ جب ہر ایک شخص دوسرے کی طرف سے نصف مال میں وکیل ہے تو دوسرے نصف میں اکیلے بھی ہوا۔ پس جو مال حاصل ہوا اس میں شرکت ثابت ہوگئی۔ اور اس شرکت میں کام اور جگہ کا متحد ہونا شرط بھی نہیں ہے کیونکہ جس اعتبار سے شرکت جائز ہوتی ہے یعنی مال حاصل ہو جانا اس میں کچھ فرق نہیں آتا ہے۔ یعنی خواہ کام اور جگہ متحد ہو یا نہ ہو اور اس میں امام مالک و زفر رحمہما اللہ کا اختلاف ہے۔ اور ان کا یہ اختلاف اس روایت پر ہے کہ شرکت التقبل اس شرط کے ساتھ جائز ہوتی ہے کہ کام اور جگہ متحد ہو۔

### کام نصف نصف اور مال اثلاً تقسیم کی شرط سے بھی جائز ہے

وَلَوْ شَرَطَا الْعَمَلُ نِصْفَيْنِ وَالْمَالُ اثْلًا جَازَوْا فِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الضَّمَانَ بِقَدْرِ الْعَمَلِ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ رِبْحٌ  
مَا لَمْ يَضْمَنْ فَلَمْ يَجْزِ الْعَقْدُ لِتَادِيَتِهِ إِلَيْهِ وَصَارَ كَشَرِكَةِ الْوُجُوهِ لَكِنَّا نَقُولُ مَا يَأْخُذُهُ لَا يَأْخُذُهُ رُبْحًا لِأَنَّ الرِّبْحَ  
عِنْدَ اتِّحَادِ الْجَنَسِ وَقَدْ اخْتَلَفَ لِأَنَّ رَأْسَ الْمَالِ عَمَلٌ وَالرِّبْحُ مَالٌ فَكَانَ بَدَلُ الْعَمَلِ وَالْعَمَلُ يَتَقَوَّمُ بِالتَّقْوِيمِ  
فَيُتَقَدَّرُ بِقَدْرِ مَا قَوَّمَهُ بِهِ فَلَا يُحَرِّمُ بِخِلَافِ شَرِكَةِ الْوُجُوهِ لِأَنَّ جِنْسَ الْمَالِ مُتَّفِقٌ وَالرِّبْحُ يَتَحَقَّقُ فِي الْجِنْسِ  
الْمُتَّفِقِ وَرِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ

ترجمہ..... اور اگر دونوں نے اس طرح کی شرط لگائی کہ دونوں کی محنت برابر ہوگی لیکن نفع دو تہائی اور ایک تہائی یعنی ایک کو دو تہائی اور دوسرے کو ایک تہائی ہوگا تو بھی جائز ہوگا۔ اگرچہ قیاس کا تقاضا تھا کہ ایسی شرط جائز نہ ہو کیونکہ ضمانت کام کے حساب اور اندازہ سے ہوتی ہے اور اس سے زیادہ لینا ایسی چیز کا نفع ہوا جس کا ضمان نہیں ہے اس لئے زیادتی کی شرط کے ساتھ یہ عقد جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ اسی عقد کی وجہ سے یہ نفع حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح یہ عقد بھی شرکت وجوہ کے مثل ہو گیا۔ لیکن ہم اسے استحساناً جائز کہتے ہیں کیونکہ ایک شخص دوسرے سے جو زیادہ لیتا ہے وہ نفع نہیں لیتا ہے اس لئے کہ نفع وہ ہوتا ہے جو اپنے مال کی جنس سے متحد ہو حالانکہ یہاں اصل اور زیادتی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کیونکہ یہاں شریک کی پونجی نقد روپے نہیں ہیں بلکہ اس کی محنت ہی اصل اور رأس المال ہے اور جو کچھ زیادتی حاصل ہوئی وہ مال ہے۔ اس طرح اس نے جو کچھ لیا وہ کام کا عوض یا مزدوری ہے۔ اور ہر کام کی قیمت لگائی جاتی ہے تو باہمی رضامندی سے اس کی جو



قیمت لگائی گئی ہے وہی اس کی قیمت ہے اس بناء پر اس میں زیادتی و کمی سے شرکت حرام نہ ہوگی بخلاف شرکت الوجوہ کے کہ وہاں جنس مال متحد ہے۔ اور جنس متحد پر جو کچھ حاصل ہوتا وہ نفع ہوتا ہے اور جس چیز کا ضمان نہ ہو اس کا نفع جائز نہیں ہے سوائے مضاربیت کے کیونکہ وہاں ضمان لازم نہ ہونے کے باوجود نفع کا حصہ جائز ہوتا ہے۔

ہر شریک کا قبول کیا ہوا کام دوسرے کو بھی لازم ہے

قَالَ وَمَا يَتَقَبَّلُهُ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْعَمَلِ يَلْزَمُهُ وَيَلْزَمُ شَرِيكَهُ حَتَّىٰ أَنْ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُطَالِبُ بِالْعَمَلِ وَ يُطَالِبُ بِالْأَجْرِ وَيَبْرَأُ الدَّفْعُ بِالْدَفْعِ إِلَيْهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْمُفَاوَضَةِ وَفِي غَيْرِهَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ خِلَافٌ ذَلِكَ لِأَنَّ الشَّرْكَةَ وَقَعَتْ مُطْلَقَةً وَالْكَفَالَةُ مُقْتَضِي الْمُفَاوَضَةِ وَجَهُ الْاسْتِحْسَانِ أَنَّ هَذِهِ الشَّرْكَةَ مُقْتَضِيَةٌ لِلضَّمَانِ أَلَا تَرَىٰ أَنَّ مَا تَقْبَلُهُ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْعَمَلِ مَضْمُونٌ عَلَى الْآخَرِ وَلِهَذَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ بِسَبَبِ نِفَاضِ تَقْبَلِهِ عَلَيْهِ فَجَرَىٰ مَجْرَىٰ الْمُفَاوَضَةِ ضَمَانُ الْعَمَلِ وَاقْتِضَاءُ الْبَدَلِ

ترجمہ..... قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دونوں شریکوں میں سے جو کوئی جس عمل کو قبول کرے گا وہ اس پر اور اس کے شریک دونوں پر لازم ہوگا۔ یہاں تک کہ ان دونوں میں سے ہر ایک سے اس کام کے پورا کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اسی طرح ان دونوں میں سے ہر ایک اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اجرت دینے والا ان میں سے جس کسی کو اجرت ادا کر دے گا وہ اجرت سے بری ہو جائے گا اور یہ بات اس صورت میں کہ شرکت مفاوضہ کے طور پر ہو تو ظاہر ہے۔ اور دوسری صورتوں میں یہ حکم بطور استحسان ہے۔ کیونکہ قیاس اس کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ شرکت میں کفالت کا کچھ ذکر نہیں ہوا ہے بلکہ مطلق ہے۔ اگرچہ اس میں مفاوضہ کی تصریح نہیں کی گئی ہے پھر بھی صرف شرکت مفاوضہ میں ہی کفالت ثابت ہوتی ہے اس لئے ان صورتوں میں ثابت نہ ہوگی۔ اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ یہ شرکت ضمان کا تقاضا کرتی ہے، کیا یہ بات نہیں ہے کہ دونوں شریکوں میں سے جس نے جو کام قبول کیا ہے دوسرا بھی اس کا ضامن ہوتا ہے۔ اس لئے تو وہ اجرت کا بھی مستحق ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دوسرے کا قبول کرنا بھی اس کا قبول کرنا مانا جاتا ہے۔ اس طرح کام کی ضمانت اور اجرت کے مطالبہ میں یہ شرکت مفاوضہ کے حکم میں جاری ہوئی۔

شرکت الوجوہ کی تعریف

قَالَ وَأَمَّا شَرْكََةُ الْوُجُوهِ فَالْجُلَانِ يَشْتَرِي كَانٍ وَلَا مَالَ لَهُمَا عَلَىٰ أَنْ يَشْتَرِيََا بِوُجُوهِهِمَا وَيَبِيعَا فَتَصِحُّ الشَّرْكََةُ عَلَىٰ هَذَا سُمِّيَتْ بِهِ لِأَنَّهَا لَا يَشْتَرِي بِالنِّسْبَةِ إِلَّا مَنْ كَانَ لَهُ وَجَاهَةٌ عِنْدَ النَّاسِ

ترجمہ..... قال واما شركة الوجوه..... الخ۔ اور قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ۔ شرکت کی قسموں میں سے چوتھی قسم شرکت الوجوہ ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دو شخص کاروبار میں شرکت کا معاملہ کریں حالانکہ ان کے پاس مال کچھ نہیں ہے اس شرط پر کہ دونوں شریک اپنے ذاتی اثرو رسوخ اور تعلقات اور امانت داری کے حوالہ سے خرید و فروخت کریں۔ تو یہ شرکت بھی صحیح ہے۔ اس کا نام شرکت الوجوہ اس بناء پر رکھا گیا ہے کہ لوگوں سے وہی شخص ادھا خرید سکتا ہے جس کا لوگوں میں مقام ہو اور اس پر لوگوں کا پورا اطمینان ہو۔



### شرکت مفاوضہ کے صحیح ہونے کی وجہ

وَإِنَّمَا تَصِحُّ مَفَاوِضُهُ لِأَنَّهُ يُمَكِّنُ تَحْقِيقَ الْكَفَالَةِ وَالْوَكَالَةِ فِي الْأُبْدَالِ وَإِذَا أُطْلِقَتْ تَكُونُ عِنَانًا لِأَنَّ مُطْلَقَهُ يُنْصَرَفُ إِلَيْهِ وَهِيَ جَائِزَةٌ عِنْدَ نَاحِلَاتِ الشَّافِعِيِّ وَالْوُجْهُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَا قَدَّمَ مِنْهُ فِي شُرْكَهِ التَّقْبِيلِ

ترجمہ ..... اور یہ شرکت مفاوضہ کے طور پر اسی وجہ سے صحیح ہے کہ ثمن اور بیع میں وکالت و کفالت کا ثبوت ممکن ہے۔ اور اگر اس شرکت کو کفالت کی شرط کے بغیر رکھا تو یہی شرکت شرکت العنان ہو جائے گی۔ کیونکہ ایسی مطلق شرکت کو شرکت عنان کے حکم میں مانا جاتا ہے۔ اور یہ شرکت ہمارے نزدیک جائز ہے لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ ہم نے اپنی اور شوافع دونوں کی دلیلیں شرکت التقبیل میں بیان کر دی ہیں۔

### شرکت وجوہ کے شرکاء خریدے ہوئے مال میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں

قَالَ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَكُلُّ الْآخَرِ فِيمَا يَشْتَرِيهِ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ عَلَى الْغَيْرِ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِوَكَالَةٍ أَوْ بِوِلَايَةٍ وَلَا وَلايَةَ فَتَعَيَّنَ الْوَكَالَةُ

ترجمہ ..... اور دونوں شریکوں میں سے جو شخص بھی کوئی چیز خریدے گا وہ اس میں دوسرے شریک کی طرف سے وکیل سمجھا جائے گا کیونکہ دوسرے شخص کی چیز پر کسی کو بھی تصرف کرنے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ سوائے ان دو صورتوں کے کہ یا تو اس کا ولی ہو یا وکیل ہو اور اس جگہ چونکہ ولایت نہیں ہے یعنی کوئی کسی کا ولی نہیں ہے۔ لہذا وکالت ہی ہوگی۔

### مشرقی میں جس قدر رقم لگائی ہے منافع بھی اسی قدر تقسیم ہوں گے

فَبِأَن شَرَطًا أَنَّ الْمُشْتَرِي بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَالرِّبْحُ كَذَلِكَ يَجُوزُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَفَاوَصَا فِيهِ وَإِنْ شَرَطَا أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي بَيْنَهُمَا أَثْلَانِ فَالرِّبْحُ كَذَلِكَ وَهَذَا لِأَنَّ الرِّبْحَ لَا يُسْتَحَقُّ إِلَّا بِالْمَالِ أَوْ الْعَمَلِ أَوْ بِالضَّمَانِ فَزَبَّ الْمَالُ يَسْتَحِقُّهُ بِالْمَالِ وَالْمُضَارِبُ يَسْتَحِقُّهُ بِالْعَمَلِ وَالْأُسْتَاذُ الَّذِي يُلْقَى الْعَمَلُ عَلَى التِّلْمِيزِ بِالنِّصْفِ بِالضَّمَانِ وَلَا يُسْتَحَقُّ بِمَا سِوَاهَا إِلَّا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ تَصَرَّفْ فِي مَالِكَ عَلَيَّ أَنْ لِي رِبْحُهُ لَمْ يَجْزَلْ لِعَدَمِ هَذِهِ الْمَعْنَى وَاسْتِحْقَاقِ الرِّبْحِ فِي شُرْكَهِ الْوُجُوهِ بِالضَّمَانِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَالضَّمَانُ عَلَى قَدْرِ الْمَلِكِ فِي الْمُشْتَرَى وَكَانَ الرِّبْحُ الزَّائِدُ عَلَيْهِ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ فَلَا يَصِحُّ اشْتِرَاؤُهُ إِلَّا فِي الْمُضَارَبَةِ وَالْوُجُوهُ لَيْسَتْ فِي مَعْنَاهَا بِخِلَافِ الْعِنَانِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهَا مِنْ حَيْثُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَعْمَلُ فِي مَالِ صَاحِبِهِ فَيُلْحَقُ بِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ترجمہ ..... اور اگر دونوں نے اس شرط پر معاملہ کیا ہو کہ خریدی ہوئی چیز دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگی اسی طرح حاصل شدہ نفع بھی نصف نصف ہوگا۔ تو یہ شرکت اور شرط جائز ہوگی۔ لیکن اس میں کمی و بیشی کی شرط جائز نہ ہوگی۔ اور اگر یہ شرط رکھی ہو کہ وہ چیز ان دونوں کے درمیان دوثلث اور ایکثلث کے حساب سے ہوگی (یعنی دونوں کے درمیان تین تہائی یعنی ایک کے لئے دو تہائی اور دوسرے کے لئے ایک تہائی ہوگی تو نفع بھی اسی طرح تین تہائی کے حساب سے ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نفع کے مستحق ہونے کی کوئی



صورت نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ مال کے ذریعہ ہو یا محنت اور کام کے ذریعہ ہو یا ضمان برداشت کرنے کی بناء پر ہو۔ تو مال کا اصل مالک اپنا مال لگانے کی وجہ سے مستحق ہوتا ہے اور اس کا دوسرا شریک مضارب اپنے کام اور محنت کی وجہ سے مستحق ہوتا ہے اور پیشہ والے اپنے کام اپنے شاگردوں کے حوالہ کر دیتے ہیں اور ان کو جو مقررہ اجرت ملتی ہے اس میں سے وہ اپنے شاگردوں کو کبھی آدھے کے حساب سے یا کبھی کسی دوسرے حساب سے دے دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ ضمان کے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے کچھ زیادتی کے مستحق ہوتے ہیں اور ان صورتوں کے سوا کسی صورت سے بھی نفع پانے کے مستحق نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسرے سے یہ کہا کہ تم اپنے مال سے تجارت کرو۔ اس شرط پر کہ اس کا نفع میرے لئے ہوگا۔ تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا کیونکہ اس صورت میں مذکورہ تین صورتوں میں سے کوئی صورت بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ اور شرکت الوجوہ میں نفع کا مستحق ہونا ضمانت کا ذمہ دار ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور خریدی ہوئی چیز میں جتنی ملکیت ہوگی اس حساب سے وہ مضمون ہوگی تو اس مقدار سے زیادہ نفع لینا ایسی چیز کا نفع ہوگا جو مضمون نہیں ہے۔ اس لئے اس کی شرط رکھنا بھی مضارب کی صورت کے سوا صحیح نہیں ہوگا۔ حالانکہ شرکت وجوہ مضارب کی معنی میں نہیں ہے۔ بخلاف شرکت عنان کے کیونکہ وہ مضارب کی معنی میں ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے کہ مضارب اور شریک عنان دونوں ہی اپنے ساتھی کے مال میں تصرف کرتے ہیں۔ اس لئے شرکت عنان بھی مضارب کے حکم میں ہو جائے گی۔ یعنی جیسے مضارب کی معنی میں کم و بیش کے ساتھ نفع مقرر کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اسی طرح شرکت عنان میں بھی اختیار ہوتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

## فَصْلٌ فِي الشَّرْكَۃِ الْفَاسِدَةِ

ترجمہ..... فصل، شرکت فاسدہ کا بیان

اختطاب اور اصطیاد میں شرکت درست نہیں

وَلَا يَجُوزُ الشَّرْكَۃُ فِي الْاِحْتِطَابِ وَالْاِصْطِيَادِ وَمَا اصْطَادَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَوْ اِحْتَطَبَهُ فَهُوَ لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ وَعَلَىٰ هَذَا الْاِشْتِرَاكُ فِي اخْذِ كُلِّ شَيْءٍ مُّبَاحٌ لِأَنَّ الشَّرْكَۃَ مَتَضَمِّنَةٌ مَعْنَى الْوَكَالَةِ وَالتَّوَكُّلُ فِي اخْذِ الْمَالِ الْمُبَاحِ بَاطِلٌ لِأَنَّ أَمْرَ الْمُوَكَّلِ بِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَالتَّوَكُّلُ يَمْلِكُهُ بِدُونِ أَمْرِهِ فَلَا يَصْلَحُ نَائِبًا عَنْهُ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُمَا بِالْاِخْذِ وَاحِرَازِ الْمُبَاحِ فَإِنْ اخْذَاهُ مَعًا فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لَا يَسْتَوِيَانِ فِي سَبَبِ الْاِسْتِحْقَاقِ وَإِنْ اخْذَهُ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَعْمَلِ الْاُخَرُ شَيْئًا فَهُوَ لِلْعَامِلِ وَإِنْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا وَأَعَانَهُ الْاُخَرُ فِي عَمَلِهِ بَأَنْ قَلَعَهُ أَحَدُهُمَا وَجَمَعَهُ الْاُخَرُ أَوْ قَلَعَهُ وَجَمَعَهُ وَحَمَلَهُ الْاُخَرُ فَلِلْمُعِينِ أَجْرُ الْمِثْلِ بِالْعَامَّةِ بَلَّغَ عَنْهُ مُحَمَّدٌ وَعَنْهُ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجَاوِزُ بِهِ نِصْفَ ثَمَنِ ذَالِكَ وَقَدْ عَرَفَ فِي مَوْضِعِهِ

ترجمہ..... ایندھن جمع کرنے میں، (گھاس جمع کرنے اور گداگری کرنے میں) اور شکار کرنے میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ دونوں میں سے جو شخص جس جانور کو شکار کرنے کا یا جنگل سے جتنا بھی ایندھن لکڑی پتے وغیرہ لائے گا وہ اسی کا ہوگا۔ اور دوسرے ساتھی کا اس میں کوئی حق نہ ہوگا۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مباح چیز کے لینے میں شرکت کرنے کا یہی حکم ہے (جیسے پہاڑی میوے، پھل مثلاً



انروٹ، انجیر، پستہ اور دوسری چیزیں مثلاً نمک و برف و سرمہ وغیرہ) کیونکہ شرکت کرنے سے ہی اس میں وکیل بنانا شامل اور لازم ہوتا ہے جبکہ مباح مال لینے کے لئے وکیل مقرر کرنا باطل ہے کیونکہ اس کام کے لئے موکل کا حکم کرنا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ وکیل کو موکل کے حکم کے بغیر بھی یہ اختیار ہوتا ہے۔ اس لئے کوئی دوسرے کا نہ اصل ہو سکتا ہے اور نہ نائب ہو سکتا ہے (اور جب وکالت ہی صحیح نہ ہوئی تو شرکت بھی صحیح نہ ہوگی۔) اور دونوں شریک اپنے اپنے حاصل کئے ہوئے جانور وغیرہ کے پورے مالک اسی وقت ہوں گے کہ اسے لے کر اپنے قبضہ میں کر لیں یا اپنی کسی محفوظ جگہ پر پہنچ جائیں۔ پھر اگر ایسی چیز یا جانور وغیرہ کو لینے میں دونوں ساتھ ہوں تو یہ چیز ان دونوں شرکاء میں نصف نصف ہوگی۔ کیونکہ اس کے حاصل کرنے اور سبب استحقاق میں دونوں برابر ہیں اور اگر صرف ایک ہی نے محنت کی اور دوسرے نے کچھ بھی کام نہیں کیا تو وہ چیز صرف محنت کرنے اور لینے والے کی ہوگی اور اگر لینے میں صرف ایک نے کام کیا اور دوسرے نے اس کی مدد کی مثلاً ایک نے درخت اکھیڑا اور توڑا اور دوسرے نے جمع کر دیا یا ایک نے اکھیڑ کر اور توڑ کر جمع کر لیا اور دوسرے نے لا دیا یا لے کر آیا تو اس مددگار کو اس کے کام کرنے کی جو مزدوری ہو سکتی ہے وہ ملے گی مگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جتنا بھی کام ہو اس کی پوری مزدوری مل جائے گی۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو چیز جمع ہوئی ہے اس کی مجموعی قیمت کے نصف سے زیادہ اسے نہیں ملے گی۔ یہ اختلاف اپنی جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ (یعنی مبسوط اور کتاب الشریکۃ میں مذکور ہے اور ظاہر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہی مختار ہے۔)

دو آدمیوں نے اس طرح شرکت کی کہ ایک کا نچر اور دوسرے کا مشکیزہ جس سے پانی پلانے

میں شرکت کی کمائی کام کرنے والے کی ہوگی اور دوسرے کی چیز کی اجرت لازم ہوگی

قَالَ وَإِذَا اشْتَرَكََا وَلَا أَحَدِهِمَا بَغْلٌ وَلَا آخِرَ رَاوِيَةٍ يَسْتَقْفِي عَلَيْهِمَا الْمَاءَ فَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا لَمْ تَضَحِ الشَّرِكَةُ وَالْكَسْبُ كُلُّهُ لِلَّذِي اسْتَقْفَى وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ الرَّاوِيَةِ إِنْ كَانَ الْعَامِلُ صَاحِبَ الْبَغْلِ وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ الرَّاوِيَةِ فَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ الْبَغْلِ أَمَّا فَسَادُ الشَّرِكَةِ فَلَا نَعْقَادَ هَا عَلَيَّ إِحْرَازِ الْمُبَاحِ وَهُوَ الْمَاءُ وَأَمَّا وَجُوبُ الْأَجْرِ فَلِأَنَّ الْمُبَاحَ إِذَا صَارَ مِلْكًا لِلْمُحَرِّزِ وَهُوَ الْمُسْتَقْفَى فَقَدْ اسْتَوْفَى مَنَافِعَ مِلْكِ الْغَيْرِ وَهُوَ الْبَغْلُ أَوِ الرَّاوِيَةُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَيَلْزَمُهُ أَجْرُهُ

ترجمہ..... اگر دو آدمیوں نے اس طرح شرکت کا معاملہ کیا کہ ایک کے پاس نچر وغیرہ ہو اور دوسرے کے پاس پکھال (چمڑے کی وہ بڑی مشک جس میں پانی بھر کر بیل یا اونٹ پر لا کر لایا جاتا) ہے۔ یہ طے کیا کہ اس پکھال یا مشک میں پانی بھر کر اس جانور پر لا کر لائیں اور لوگوں کو فروخت کریں۔ اس سے جو کچھ بھی حاصل ہو وہ دونوں میں مشترک ہو تو یہ شرکت صحیح نہ ہوگی۔ اور پوری آمدنی اسی کی ہوگی جس نے پانی بھرا ہو اور اس پکھال کی جو اجرت ہو وہ اس کے مالک کو ملے گی۔ بشرطیکہ وہ جانور بھی اس کام کرنے والے کا ہو۔ اور اگر کام کرنے والے کی پکھال ہو۔ اور نچر یا جانور دوسرے کا ہو تو آمدنی اس کام کرنے والے کی ہوگی اور نچر کا اجر مثل اس دوسرے کا ہوگا۔ اس شرکت کو فاسدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں آدمیوں نے ایک مباح چیز یعنی پانی جمع کرنے میں شرکت کی ہے۔ اور اجر مثل لازم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مباح پانی جب ایک شخص کے بھر لینے کی وجہ سے اس کی ملکیت میں آ گیا مگر اس طرح کہ اس کام کے لئے دوسرے شخص کے جانور یا پکھال سے بھی فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ البتہ عقد صحیح میں نہیں بلکہ عقد فاسد میں۔ تو اس پر اس کی پوری مزدوری لازم آ جائے گی۔



### شرکت فاسدہ میں منافع مال کی مقدار پر تقسیم ہوں گے

وَكُلُّ شِرْكَةٍ فَاسِدَةٌ فَالرِّبْحُ فِيهِمَا عَلَى قَدْرِ الْمَالِ وَيَبْطُلُ شَرْطُ التَّفَاضُلِ لِأَنَّ الرِّبْحَ فِيهَا تَابِعٌ لِلْمَالِ فَيَقْدَرُ بِقَدْرِهِ كَمَا أَنَّ الرِّبْحَ تَابِعٌ لِلْبَدْرِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالزِّيَادَةُ إِنَّمَا تُسْتَحَقُّ بِالتَّسْمِيَةِ وَقَدْ فَسَدَتْ فَبَقِيَ الْإِسْتِحْقَاقُ عَلَى قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ

ترجمہ..... اور ہر ایسی شرکت جو فاسد ہو اس میں مال کی مقدار کے اعتبار سے نفع ہوگا۔ یعنی جس شریک کا جتنا مال ہوگا اسے اسی قدر نفع ملے گا۔ اور اگر اس میں کمی و بیشی کی شرط ہوگی تو وہ باطل ہو جائے گی۔ کیونکہ ایسی شرکت میں نفع مال کے تابع ہوتا ہے۔ اس لئے مال کے حساب سے اس میں نفع کا اندازہ رہے گا۔ جیسے پیداوار میں کم پیداوار بیج کے تابع ہوتی ہے۔ لیکن نفع کی زیادتی کا حق دار ہونا قرار داد اور شرط کے مطابق تھا حالانکہ عقد فاسد ہے۔ اس لئے وہ استحقاق صرف پونجی کی مقدار کے مطابق ہوگا۔

### شریکین میں سے کوئی فوت ہو گیا یا مرتد ہو گیا اور دار الحرب چلا گیا شرکت باطل ہے

وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتِ الشَّرْكَةُ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَهَ وَلَا بُدَّ مِنْهَا لِتَحَقُّقِ الشَّرْكَةِ عَلَى مَأْمَرٍ وَالْوَكَالَهَ تَبْطُلُ بِالمَوْتِ وَكَذَلِكَ لِالتَّحَاقِ مُرْتَدًّا إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِلِحَاقِهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا إِذَا عُلِمَ الشَّرِيكُ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ لِأَنَّهُ عَزْلٌ حُكْمِي فَإِذَا بَطَلَتِ الْوَكَالَهَ بَطَلَتِ الشَّرْكَةُ بِخِلَافِ مَا إِذَا فَسَخَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الشَّرْكَةَ حَيْثُ يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِ الْآخِرِ لِأَنَّهُ عَزْلٌ قَصْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ترجمہ..... اگر دونوں شریکوں میں سے ایک مر جائے یا مرتد ہو کر دار الحرب پہنچ جائے تو شرکت باطل ہو جائے گی۔ خواہ یہ شرکت مغاوضہ ہو یا شرکت عنان ہو۔ کیونکہ شرکت میں از خود وکالت پائی جاتی ہے۔ اور شرکت میں وکالت کا ہونا ضروری ہے تاکہ شرکت پائی جائے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اور وکالت موت کی وجہ سے بھی باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مرتد ہو کر دار الحرب پہنچ جانے سے بھی باطل ہو جاتی ہے اس وقت جبکہ قاضی نے اس شخص کے بارے میں دار الحرب پہنچ جانے کا اقرار اور اعلان کر دیا ہو۔ کیونکہ دار الحرب میں پہنچ جانا موت کے برابر ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ معلوم ہونا چاہئے کہ شریک کے مرنے کی خبر دوسرے کو ہو یا نہ ہو ہر صورت اس کے مرنے سے شرکت باطل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہ معزولی کے حکم میں ہے (گویا اس زندہ ساتھی نے اپنے شریک کو شرکت سے معزول کر دیا ہے اس لئے اسے خبر نہ ہونے پر بھی وہ معزول ہو جائے گا) اور جب وکالت باطل ہو گئی تو شرکت بھی باطل ہو گئی۔ بخلاف اس کے اگر دونوں شریکوں میں سے ایک نے شرکت توڑ دی تو یہ بات دوسرے کو معلوم ہو جانے تک موقوف رہے گی۔ کیونکہ معزولی اس کے اپنے ارادہ سے ہو رہی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

### ہر شریک دوسرے شریک کی اجازت کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا

فَصُلِّ، وَ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُؤَدِيَ زَكَاةَ مَالِ الْآخَرِ إِلَّا بِإِذْنِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ التَّجَارَةِ فَإِنْ أُذِنَ



کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكْوَتَهُ فَأَدَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَالثَّانِي ضَامِنٌ عِلْمَ بِإِدَاءِ الْأَوَّلِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ لَا يَضْمَنُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ وَهَذَا إِذَا أُدِّيَا عَلَى التَّعَاقُبِ أَمَّا إِذَا أُدِّيَا مَعًا ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَ صَاحِبِهِ وَعَلَى هَذَا الْإِخْتِلَافِ الْمَأْمُورُ بِإِدَاءِ الزَّكَاةِ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى الْفَقِيرِ بَعْدَ مَا أَدَّى الْأَمْرُ بِنَفْسِهِ لَهُمَا أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالتَّمْلِيكِ مِنَ الْفَقِيرِ وَقَدْ أَتَى بِهِ فَلَا يَضْمَنُ لِلْمُؤَكَّلِ وَهَذَا لِأَنَّ فِي وَسْعِهِ التَّمْلِيكِ لَا وَقُوعَهُ زَكَاةٌ لِتَعَلُّقِهِ بِنِيَّةِ الْمُؤَكَّلِ وَإِنَّمَا يُطْلَبُ مِنْهُ مَا فِي وَسْعِهِ وَصَارَ كَالْمَأْمُورِ بِذَبْحِ دَمِ الْإِحْصَارِ إِذَا ذَبَحَ بَعْدَ مَا زَالَ الْإِحْصَارُ وَحَجَّ الْأَمْرُ لَمْ يَضْمَنِ الْمَأْمُورُ عِلْمَ أَوْ لَا وَلَا يُبَى حَنِيفَةَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِإِدَاءِ الزَّكَاةِ وَالْمُؤَدِّي لَمْ يَقْعُ زَكَاةٌ فَصَارَ مُخَالَفًا هَذَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْأَمْرِ اخْرَاجُ نَفْسِهِ عَنْ عَهْدَةِ الْوَاجِبِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَلْتَزِمُ الضَّرَرَ إِلَّا لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَهَذَا الْمَقْصُودُ حَصَلَ بِإِدَائِهِ وَعَرَى أَدَاءُ الْمَأْمُورِ عَنْهُ فَصَارَ مَعْزُومًا لَا عِلْمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ لِأَنَّهُ عَزَلَ حُكْمِيَّ وَأَمَّا دَمُ الْإِحْصَارِ فَقَدْ قِيلَ هُوَ عَلَى هَذَا الْإِخْتِلَافِ وَقِيلَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَوَجْهُهُ أَنَّ الدَّمَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُمَكِّنُهُ أَنْ يَصِيرَ حَتَّى يَزُولَ الْإِحْصَارُ وَفِي مَسْأَلَتِنَا الْأَدَاءُ وَاجِبٌ فَاعْتَبِرَ الْإِسْفَاطُ مَقْصُودًا فِيهِ دُونَ دَمِ الْإِحْصَارِ

ترجمہ..... فصل، دو شریکوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ دوسرے کے مال کی زکوٰۃ اس کی اجازت کے بغیر ادا کرے۔ اس لئے اگر وہ اجازت دے دے تو جائز ہے۔ کیونکہ یہ کام تجارت کی قسموں سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ اب اگر ہر ایک نے دوسرے کو اس کام کی اجازت دے دی کہ میرے مال کی زکوٰۃ دے دو پھر ان میں سے ہر ایک نے زکوٰۃ دے دی (یعنی ایک مرتبہ صاحب مال نے اور دوسری مرتبہ اس کے شریک نے ادا کر دی) تو جس نے بعد میں یعنی دوسری بار ادا کی وہ ضامن ہوگا خواہ پہلے شخص کے ادا کرنے سے وہ واقف ہو یا نہ ہو۔ یہ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر دوسرے کو اس کی خبر نہ ہو کہ پہلے نے بھی ادا کر دی ہے تو وہ ضامن ہوگا اور اگر اسے خبر ہو کہ اس نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو وہ ضامن ہوگا (اور اگر اسے خبر تھی تو بھی صحیح یہ ہے کہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضامن نہ ہوگا۔ جیسا کہ عتابی کی شرح زیادات میں مذکور ہے)۔ یہ تفصیل اس صورت میں ہے کہ دونوں نے آگے پیچھے ٹھہر ٹھہر کر دی ہو۔ اور اگر دونوں نے ایک وقت ایک ساتھ ادا کی ہو تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان میں سے ہر ایک اپنے شریک کے حصہ کا ضامن ہوگا۔

اور اگر کسی شخص نے دوسرے کو اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لئے وکیل مقرر کیا پھر مؤکل نے خود ہی زکوٰۃ ادا کر دی اس کے بعد اس وکیل نے مؤکل کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دی تو بھی یہی اختلاف ہوگا (یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضامن ہوگا اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضامن نہیں ہوگا)۔ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ شریک کو اس بات کا اختیار دیا گیا تھا کہ یہ زکوٰۃ فقیر کی ملکیت میں دے دی جائے اس لئے اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس لئے وہ مؤکل کے واسطے ضامن نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اس دینے والے کو تو صرف اسی بات کا اختیار تھا کہ اپنے ساتھی کی طرف سے اسے دے دے چنانچہ اس نے دے دیا۔ لیکن اسے یہ اختیار نہ تھا کہ وہ جو کچھ بھی دے وہ زکوٰۃ سے ادا ہو۔ کیونکہ اس زکوٰۃ کے ادا ہونے میں مؤکل کی نیت کا تعلق ہے اور وکیل سے اسی قدر کا مطالبہ ہوتا ہے جتنا اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس لئے یہ مسئلہ ایسا ہو گیا جیسے کسی کو کسی نے اپنی طرف سے (حج کی ادائیگی سے مجبوری پر) احصار کی قربانی ادا کرنے پر مامور کیا



ہو۔ پھر اس کا وہ احصار ختم ہو گیا ہو اس لئے منوکل نے اپنا حج ادا کر لیا۔ اس کے بعد وکیل نے کہی ہوئی بات کے مطابق قربانی ادا کر دی تو یہ وکیل ضامن نہیں ہوتا ہے خواہ وہ منوکل کے حال سے باخبر ہو یا نہ ہو (اور جیسا کہ اپنا قرض ادا کرنے کے لئے کسی کو وکیل مقرر کیا پھر خود ادا کر دیا اس کے بعد اس وکیل نے بھی ادا کر دیا تو وہ ضامن نہیں ہوتا ہے خواہ اسے اس بات کا علم ہو یا نہ ہو کہ زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہے) اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ اسے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا مگر جو اس نے ادا کیا وہ زکوٰۃ نہ ہوئی پس جس کام پر اسے مقرر کیا گیا تھا اس نے وہ کام نہ کر کے دوسرا کام (مخالف زکوٰۃ) کر دیا۔ اور مخالفت کرنے والا ضامن ہوا کرتا ہے۔ اور منوکل کا جو مقصود تھا وہ اس نے خود ہی ادا کر دیا۔ پھر وکیل کا وہ کام مقصود (زکوٰۃ) کی ادائیگی سے خالی ہوا۔ اس لئے وہ معزول ہو گیا۔ خواہ وہ وکیل منوکل کے قول سے باخبر ہو یا نہ ہو۔ کیونکہ یہ حکم معزولی ہے۔ اور حج میں مجبوری (احصار) کی قربانی کا مسئلہ تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں بھی اس قسم کا اختلاف ہے۔ لیکن بعضوں نے کہا ہے کہ اس مجبور کی قربانی کے مسئلہ میں اور زکوٰۃ کے مسئلہ میں فرق ہے کہ جس پر احصار ہوا ہے اس پر قربانی واجب نہ تھی کیونکہ وہ صبر کر سکتا تھا۔ اتنے دن کہ اس کا احصار ختم ہو جائے۔ لیکن زکوٰۃ تو ہر صورت واجب ہے۔ اس لئے اسے اپنے ذمہ سے نکال دینا ہی مقصود ہوا۔ لیکن احصار کی قربانی میں مقصود نہیں ہے۔

متفاوضین میں سے ایک نے دوسرے کو باندی خرید کر اس سے وطی کی اجازت دی دوسرے نے ایسا ہی کیا باندی بغیر کسی عوض کے ماذون کی ہوگی

قَالَ وَإِذَا أُذِنَ أَحَدُ الْمَتَفَاوِضِينَ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَيَطَّاهَا ففَعَلَ فَهِيَ لَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَذَى دَيْنًا عَلَيْهِ خَاصَّةً مِنْ مَالٍ مُشْتَرِكٍ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ بِنِصْفِهِ كَمَا فِي شِرَاءِ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَهَذَا لِأَنَّ الْمَلِكَ وَقَعَ لَهُ خَاصَّةً وَالثَّمَنُ بِمُقَابَلَةِ الْمَلِكِ وَلَهُ أَنَّ الْجَارِيَةَ دَخَلَتْ فِي الشَّرْكََةِ عَلَى الثَّبَاتِ جَرِيًّا عَلَى مُقْتَضَى الشَّرْكََةِ إِذْهُمَا لَا يَمْلِكَانِ تَغْيِيرُهُ فَاشْبَهَ حَالَهُ عَدَمُ الْإِذْنِ غَيْرَ أَنَّ الْإِذْنَ يَتَضَمَّنُ هَبَةً نَصِيبَهُ مِنْهُ لِأَنَّ الْوُطْىَ لَا يَحِلُّ إِلَّا بِالْمَلِكِ وَلَا وَجْهَ إِلَى اثْبَاتِهِ بِالْبَيْعِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ يَخَالِفُ مُقْتَضَى الشَّرْكََةِ فَاتَّبَعْنَا بِالْهَبَةِ الثَّابِتَةِ فِي ضَمَنِ الْإِذْنِ بِخِلَافِ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَشْنَى عَنْهَا لِلضَّرُورَةِ فَيَقْعُ الْمَلِكُ لَهُ خَاصَّةً بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَكَانَ مُؤَدِيًا دَيْنًا عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ الشَّرْكََةِ وَفِي مَسْأَلَتِنَا قَضَى دَيْنًا عَلَيْهِمَا لِمَا بَيَّنَّا

ترجمہ۔۔۔ (اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں فرمایا ہے۔ اگر شرکت مغاوضہ کے ایک شریک نے دوسرے شریک کو اس بات کی اجازت دی کہ ایک باندی خرید کر اس سے ہمبستری کر لو۔ چنانچہ دوسرے ساتھی نے مشترک مال سے باندی خرید کر اس سے اپنی خواہش پوری کر لی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ باندی مفت میں اسی کی ہو جائے گی۔ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وہ حکم دینے والا اپنے دوسرے ساتھی سے اس کی آدھی قیمت واپس لے گا۔ کیونکہ اس نے مشترک مال سے اپنا قرضہ ادا کیا جو صرف اسی پر واجب ہوا تھا۔ اس لئے اس کا ساتھی اس سے اپنا حصہ واپس مانگ لے گا۔ جیسا کہ اپنے بال بچوں کے لئے کھانا اور کپڑا خریدنے میں ایسا ہی ہوتا ہے) (کہ آدھی قیمت واپس جمع کر دیتا ہے) اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ باندی تو خاص اور صرف اسی خریدار کی مالک رہی۔ اور قیمت تو



ملکیت کے مقابلہ میں ہوتی ہے۔ اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ باندی بلاشبہ مشترکہ ملکیت میں آئی ہے۔ کیونکہ شرکت مفادہ اسی کا تقاضا کرتی ہے۔ کیونکہ دونوں شریکوں میں سے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ شرکت کے تقاضہ کو بدل دیں۔ اس لئے یہ معاملہ اس حال کے مشابہہ ہوا کہ جس میں اجازت نہ ہو۔ پھر بھی اس میں کچھ اجازت پائی جاتی ہے کہ اجازت دینے والے نے اپنا حصہ اپنے شریک کو ہبہ کر دیا ہے۔ کیونکہ اسی نے وطی کرنے کی اجازت دی ہے اور یہ بات اسی وقت حلال ہوتی ہے کہ اس پر ملکیت پائی گئی ہو۔ جبکہ اس صورت میں بیع کے ذریعہ ملکیت حاصل ہونے کی کوئی صورت نہیں پائی جا رہی ہے۔ کیونکہ ہم نے یہ پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ بات تقاضائے شرکت کے خلاف ہے۔ اس لئے اس میں ملکیت کا ہونا اس ہبہ کے ذریعہ ثابت کیا جو اس کی اجازت دینے کے اندر پائی گئی ہے۔ بخلاف کھانے پینے اور کپڑے کے کیونکہ یہ چیزیں انتہائی ضروری ہونے کی وجہ سے شرکت سے مستثنیٰ ہوتی ہیں۔ لہذا خریدتے ہی اسی کی ملکیت میں داخل ہو جاتی اور مال شرکت سے اس کی قیمت ادا کرنے سے یہ ثابت ہوا کہ اس نے اپنا ذاتی قرض ادا کیا ہے۔ بخلاف باندی کی صورت کے کہ اس نے اس باندی کے خریدنے کے بعد اس کی وہ قیمت ادا کی جو دونوں پر ادھار لازم ہوئی تھی۔ کیونکہ اس باندی کی خریداری مشترک طور پر ہوئی تھی۔

مالک باندی دونوں میں سے جس سے چاہے ثمن وصول کرے

وَلِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَ بِالثَّمَنِ أَيُّهُمَا شَاءَ بِالْإِتِفَاقِ لِأَنَّهُ ذَيْنُ وَجَبَ بِسَبَبِ التَّجَارَةِ وَالْمُفَاوَضَةِ تَضَمَّنَتْ الْكَفَالَةُ فَصَارَ كَالطَّعَامِ وَالْكُسُوفَةِ

ترجمہ..... اور اس باندی کے بیچنے والے یا مالک کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنی اس باندی کی قیمت دونوں شریکوں میں سے جس کسی سے چاہے وصول کر لے۔ اس مسئلہ میں صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کا اتفاق ہے۔ کیونکہ یہ ایسا قرض لازم آیا ہے جو تجارت کی وجہ سے واجب ہوا ہے۔ اور شرکت مفادہ میں کفالت کا ضمناً پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ الحاصل اس باندی کی قیمت ایسی ہوگئی جیسے کھانا کپڑا خریدنے کی قیمت ہوتی ہے۔

## کتاب الوقف

ترجمہ..... کتاب، وقف کے بیان میں

لغت میں وقف کے معنی ہیں روکنا اور شریعت میں یہ ہے کہ کسی معین مال کو مالک اپنی ملکیت میں روک کر رکھے۔ لیکن اس کے منافع کو دوسروں کیلئے صدقہ کر دے یا جن لوگوں میں چاہے خرچ کر دے۔ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک مال عین کو (حبسہ لا ملک احد غیر اللہ) اللہ کی ملکیت کے علاوہ کسی دوسرے کی ملکیت میں نہ ہوتے ہوئے بھی اسے روک کر رکھنا۔ اس کی شرط یہ ہے کہ روکنے والا (۱) عاقل، (۲) بالغ، (۳) آزاد ہو اور وقف کسی چیز پر معلق نہ ہو۔ (۴) چنانچہ اگر کسی نے اس طرح کہا کہ اگر میرا فلاں لڑکا واپس آ گیا تو میرا یہ گھر وقف ہے کہ اس طرح کہنے سے وقف جائز نہ ہوگا۔ اس کے لئے واقف کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ اسی بناء پر اگر کسی ذمی نے اپنی جائیداد اپنی اولاد پر نسل بعد نسل وقف کی تو جائز ہے۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ (۵) وقف کرنے والا مجبور نہ ہو۔ اس بناء پر اگر کسی شخص کی حماقت وغیرہ کی وجہ سے قاضی نے اسے مجبور کر دیا (یعنی اس پر معاملات کرنے سے پابندی عائد کر دی) تو اس کا وقف کرنا جائز نہ ہوگا اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واقف کی ملکیت سے نکلنے کی شرط خاص یہ ہے کہ اس نے یہ وقف اپنی موت کے بعد کیا ہو یا حاکم نے اس کے بارے میں حکم دے دیا ہو۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے۔ اور وقف کا رکن اس کے خاص الفاظ ہیں مثلاً یوں کہے کہ میری یہ زمین صدقہ موقوفہ دائمی مساکین وغیرہ پر ہے۔

### اصطلاحی الفاظ

واقف : وقف کرنے والا۔

موقوف یا وقف : وہ چیز جو وقف کی گئی ہو۔ اس کی جمع اوقاف آتی ہے۔

موقوف علیہم : وہ لوگ جن پر وقف واقع ہو۔

جہت وقف : جس راہ پر وقف کیا گیا ہو۔ مثلاً مساکین و فقراء و حج کرنے والے و اہل قرابت وغیرہ ذالک۔

قیم : وہ شخص جو وقف کی ہوئی چیز پر متولی اور اس کی دیکھ بھال پر مقرر کیا گیا ہو۔

### واقف کا وقف سے ملک کب زائل ہوتا ہے

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَزُولُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنِ الْوَقْفِ إِلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ أَوْ يَعْلِقَهُ فَيَقُولُ إِذَا مِتُّ فَقَدْ وَقَفْتُ دَارِي عَلَى كَذَا وَقَالَ أَبُو يُونُسَ يَزُولُ مِلْكُهُ بِمَجَرَّدِ الْقَوْلِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَزُولُ حَتَّى يَجْعَلَ لِلْوَقْفِ وَلِيًّا وَيُسَلِّمُهُ إِلَيْهِ قَالَ الْوَقْفُ لُغَةً هُوَ الْحَبْسُ يَقُولُ وَقَفْتُ الدَّابَّةَ وَأَوْقَفْتُهَا بِمَعْنَى وَهُوَ فِي الشَّرْعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَةِ ثُمَّ قِيلَ الْمَنْفَعَةُ مَعْدُومَةٌ فَالتَّصَدُّقُ بِالْمَعْدُومِ لَا يَصِحُّ فَلَا يَجُوزُ الْوَقْفُ أَصْلًا عِنْدَهُ وَهُوَ الْمَلْفُوظُ فِي الْأَصْلِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ جَائِزٌ عِنْدَهُ إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَةِ وَعِنْدَهُمَا حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَزُولُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنْهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى



عَلَى وَجْهِ تَعَوُّدٍ مَنفَعَتُهُ إِلَى الْعِبَادِ فَيَلْزَمُ وَلَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَاللَّفْظُ يَنْتَظِمُهُمَا وَالتَّرْجِيحُ بِالذَّلِيلِ لَهُمَا قَوْلُ النَّبِيِّ لِعُمَرَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِأَرْضٍ لَهُ تَدْعَى تَمَعٌ تَصَدَّقُ بِأَصْلِهَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ مَأْسَاةً إِلَى أَنْ يَلْزَمَ الْوَقْفُ مِنْهُ لِيَصِلَ ثَوَابُهُ إِلَيْهِ عَلَى الدَّوَامِ وَقَدْ امْكَنَ دَفْعُ حَاجَتِهِ بِإِسْقَاطِ الْمَلِكِ وَجَعَلِهِ اللَّهُ تَعَالَى إِذْ لَهُ نَظِيرٌ فِي الشَّرْعِ وَهُوَ الْمَسْجِدُ فَيُجْعَلُ كَذَلِكَ وَلِأَبَى حَنِيفَةَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَنْ شُرَيْحٍ جَاءَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِيَعِ الْحَبْسَ وَلِأَنَّ الْمَلِكَ بَاقٍ فِيهِ بِدَلِيلٍ أَنَّهُ يُجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ زَرَاةً وَسُكْنَى وَغَيْرَ ذَلِكَ وَالْمَلِكُ فِيهِ لِلوَاقِفِ الْإِتْرَى أَنْ لَهُ وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِصَرَفٍ غَلَاظِهِ إِلَى مَصَارِفِهَا وَنَصِبِ الْقَوَامِ فِيهَا إِلَّا أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِمَنَافِعِهِ فَصَارَ شَبِيهَ الْعَارِيَةِ وَلِأَنَّهُ يُحْتَاجُ إِلَى التَّصَدَّقِ بِالْعَلَّةِ دَائِمًا وَلَا تَصَدَّقُ عَنْهُ إِلَّا بِالْبَقَاءِ عَلَى مِلْكِهِ وَلِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَزَالَ مِلْكُهُ لَا إِلَى مَالِكٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ مَعَ بَقَائِهِ كَالسَّائِبَةِ بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ إِتْلَافٌ وَبِخِلَافِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ جُعِلَ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى وَلِهَذَا لَا يُجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ وَهَهُنَا لَمْ يَنْقَطِعْ حَقُّ الْعَبْدِ عَنْهُ فَلَمْ يَصِرْ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى قَالَ قَالَ فِي الْكِتَابِ لَا يَزُولُ مِلْكُ الْوَاقِفِ إِلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ أَوْ يُعْلِقَهُ بِمَوْتِهِ وَهَذَا فِي حُكْمِ الْحَاكِمِ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ فِي مُجْتَهَدٍ فِيهِ أَمَّا فِي تَعْلِيْقِهِ بِالْمَوْتِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ إِلَّا أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِمَنَافِعِهِ مُؤَبَّدًا فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِعِ مُؤَبَّدًا فَيَلْزَمُ وَالْمُرَادُ بِالْحَاكِمِ الْمَوْلَى فَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَفِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَائِخِ وَلَوْ وَقَفَ فِي مَرَضٍ مَوْتِهِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَلْزَمُهُ إِلَّا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنَ الثَّلَاثِ وَالْوَقْفُ فِي الصَّحَةِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَإِذَا كَانَ الْمَلِكُ يَزُولُ عِنْدَهُمَا يَزُولُ بِالْقَوْلِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِمَنْزِلَةِ الْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ إِسْقَاطُ الْمَلِكِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا بُدَّ مِنَ التَّسْلِيمِ إِلَى الْمُتَوَلَّى لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّمَا يَثْبُتُ فِيهِ فِي ضَمَنِ التَّسْلِيمِ إِلَى الْعَبْدِ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مَالِكُ الْأَشْيَاءِ لَا يَتَحَقَّقُ مَقْصُودًا وَقَدْ يَكُونُ تَبَعًا لغيرِهِ فَيَأْخُذُ حُكْمُهُ فَيَنْزِلُ مَنْزِلَةُ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ

ترجمہ..... ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وقف کرنے سے واقف کی اس کے مال موقوف پر سے حق ملکیت ختم نہیں ہوتی ہے۔ البتہ اگر کوئی حاکم اس کے ختم ہونے کے بارے میں حکم دے دے یا خود وقف کرنے والا اپنی موت پر اسے معلق کر دے اور یوں کہہ دے کہ جب میں مر جاؤں میں نے اپنا گھریا زمین اس کام کے لئے وقف کر دی ہے۔ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وقف کرتے ہی اس کی ملکیت اس پر سے ختم ہو جائے گی۔ یعنی اس نے جیسے ہی کہا کہ میں نے اسے وقف کیا وہ گھر اس کی ملکیت سے نکل گیا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ واقف کی ملکیت ختم نہیں ہوئی مگر اس وقت جبکہ وہ کسی دوسرے کو متولی مقرر کر کے اس کے حوالہ کر دے۔ قال الوقف لغة الخ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ لغت میں وقف کے معنی ہیں جس کرنا یعنی روک لینا چنانچہ محاورہ میں بولا جاتا ہے وقفت الدابة، میں نے اپنا گھوڑا روک لیا۔ اور اوقفته بھی اسی معنی میں بولتے ہیں۔ اور شرع میں جس کے معنی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہیں کہ مال عین کو وقف کرنے والا اپنے پررو کے اور اس کے منافع کو صدقہ کر دے جیسے کہ عاریت ہوتی ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ منافع تو معدوم ہوتے ہیں اور کسی معدوم چیز کو صدقہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس لئے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقف بالکل جائز نہیں ہونا چاہئے۔ اصل میں یہی الفاظ مذکور ہیں۔ یعنی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسے جائز نہیں کہتے تھے۔ لیکن قول اصح یہ ہے کہ امام



ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی وقف جائز ہے لیکن بمنزلہ عاریت کے لازم نہیں ہے۔ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقف کے معنی یہ ہیں کہ مال عین کو اللہ تعالیٰ کی ملک پر روکنا۔ پس وقف کرنے والے کی ملکیت کا بندہ سے ختم ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح منتقل ہو جانا کہ اس کے منافع بندوں ہی کو حاصل ہوں۔ جس سے وقف لازم ہو جائے گا اس کے بعد وہ چیز فروخت نہیں کی جاسکے گی۔ اور نہ ہیہ ہو سکے گی اور نہ وہ میراث بن سکے گی۔ پس لفظ وقف دونوں قول کو شامل ہے۔ یعنی وقف صحیح ہو جائے گا۔ خواہ ملک ختم ہو یا نہ ہو اور امام صاحب یا صاحبین میں سے ہر ایک کے قول کی ترجیح دلیل سے ہوتی ہے۔ چنانچہ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے اپنے حصہ خیبر کو جس کا نام شمع (ٹا کے فتح اور میم کے سکون کے ساتھ) تھا صدقہ کرنا چاہا تو رسول اللہؐ نے فرمایا کہ اس کی اصل کو صدقہ کر دو تا کہ وہ آئندہ کبھی نہ بیچی جاسکے گی اور نہ میراث بنے گی اور نہ ہیہ ہو سکے گی (صحاح ستہ نے اس کی روایت کی ہے)۔ اور اس دلیل سے بھی کہ واقف کو کبھی اس بات کی ضرورت درپیش ہو جاتی ہے کہ اس کا وقف لازم ہو جائے تاکہ قیامت تک کے لئے اسے اس وقف کا ثواب ملتا رہے اور صدقہ جاریہ ہو جائے۔ اور اس ضرورت کے پورے ہونے کی صورت اسی طرح ممکن ہوگی کہ چیز اس کی ملکیت سے باہر کر کے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں دے دی جائے۔ کیونکہ شریعت میں اس کی فطری موجود ہے اور وہ مسجد ہے۔ اسی طرح وقف بھی کر دیا جائے۔

ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل..... یہ ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کوئی چیز جس نہیں ہے۔ یعنی ہر چیز میراث کی طرح فرائض الہی میں تقسیم ہو جائے گی۔ (اس کی روایت دارقطنی و ابن ابی شیبہ اور طبرانی نے ضعیف اسناد کے ساتھ کی ہے) اور شرح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ رسول اللہؐ نے آ کر جس کو فروخت کیا ہے اس کی روایت ابن ابی شیبہ، بیہقی اور طحاوی نے اسناد صحیح کے ساتھ کی ہے اور اس دلیل سے بھی کہ وقف کرنے والے کی ملکیت وقف میں باقی رہتی ہے۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ واقف کو موقوفہ زمین سے نفع اٹھانا مثلاً زمین میں کھیتی کر کے یا گھر میں رہ کر اور دوسرے طریقوں سے جائز ہے۔ اور وقف کرنے والے کی ملکیت اس میں باقی ہے۔ اسی لئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسے وقف میں تصرف کرنے کا پورا حق ہے۔ اور اس کی آمدنی اور پیداوار کو جہاں تصرف کرنا چاہئے کرتا ہے۔ اس وقف کی دیکھ بھال کے لئے متولی اور قیم مقرر کرتا ہے۔ البتہ اس کی پیداوار اور منافع کو صدقہ کر دیتا ہے۔ لہذا یہ وقف عاریت کے مشابہ ہو گیا اور اس دلیل سے کہ وقف کرنے والے کو ہمیشہ اس کی آمدنی کو وقف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی طرف سے صدقہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ وہ وقف اس کی ملکیت میں باقی ہو۔ اور اس دلیل سے بھی کہ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ موقوف سے واقف کی ملکیت اس طرح ختم کر دی جائے کہ دوسرا اس کا کوئی مالک باقی نہ رہے کیونکہ ایسی صورت شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ وہ چیز خود باقی رہتی ہے۔ جیسے جانور، سائڈ وغیرہ کو آزاد چھوڑنا ممنوع ہے۔

بخلاف الاعتاق..... یعنی غلامی کو ختم کر نیکی بخلاف۔ کیونکہ اس میں مملوکی کی صفت کو دور کرنا ہوتا ہے۔ اور بخلاف مسجد کے کیونکہ وہ خالصۃ اللہ تعالیٰ کے نام کی کر دی جاتی ہے۔ اس لئے مسجد سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اور وقف کی صورت میں بندہ کا حق وقف سے ختم نہیں ہوتا ہے۔ اسی لئے وقف خالصۃ اللہ تعالیٰ کے نام کا نہیں ہوتا ہے۔ (پھر ترجیح میں علماء نے کلام کیا ہے۔ ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حضرت عمرؓ کے وقف میں رسول اللہؐ نے حکم دے دیا تھا۔ اس لئے وہ وقف لازم ہو گیا)۔

(میں مترجم کہتا ہوں کہ نہیں حکم نہیں فرمایا تھا بلکہ صرف ارشاد فرمایا تھا۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط کی شرح میں کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نقلی دلیل میں کوئی حجت نہیں ہے کیونکہ جب واقف نے وقف کر دیا تو فرائض الہی یعنی میراث کا اس سے کوئی تعلق



نہیں رہا اس لئے فرائض الہی سے کوئی جس نہیں ہوا۔ جیسے مال منقولہ و وصیت و ہبہ و صدقہ میں کوئی جس نہیں ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام نے طویل کلام کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اس مقام میں حق بات یہی ہے کہ صاحبین و علامہ علماء کے قول کو ترجیح ہے۔ یعنی وقف لازم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس بحث میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ اور صحابہ و تابعین اور ان کے بعد عام امت کا بھی اسی پر عمل چلا آتا ہے۔ اور حدیث شریعہ کے صرف یہی معنی ہیں کہ کفار جو اپنے زمانہ میں حام و بحیرہ وغیرہ کو بتوں کے نام کر دیتے اسے رسول اللہؐ نے منسوخ کر دیا۔ اسی لئے بعض مشائخ رحمۃ اللہ علیہم نے کہا ہے کہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے قول پر ہی فتویٰ ہے۔ میں مترجم کہتا ہوں کہ یہی قول مختار اور اوفق ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

قَالَ قَالَ فِي الْكِتَابِ..... الخ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کتاب یعنی قدوری میں جو یہ فرمایا ہے کہ ”وقف سے مالک کی ملکیت ختم نہ ہوگی مگر جبکہ کوئی حاکم حکم دے دے یا یہ کہ خود واقف اپنی موت پر اسے معلق کر دے“ تو یہ کلام حاکم کے حکم کی صورت میں تو صحیح ہے۔ کیونکہ اس کا حکم ایک اجتہادی مسئلہ میں واقع ہوگا۔ مگر موت پر معلق کرنے کی صورت میں مشائخ رحمۃ اللہ علیہم نے اختلاف کیا ہے اور صحیح یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس طرح معلق کرنے سے ملکیت ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اس نے وقف کے منافع کو ہمیشہ کے لئے صدقہ کیا ہے تو ایسا ہو گیا کہ گویا منافع کے بارے میں ہمیشہ کے لئے کسی کے واسطے وصیت کر دی جو لازم ہو جائے گی۔ معلوم ہونا چاہئے کہ یہاں حاکم سے مراد وہ حاکم ہے جو سلطان ہو یا سلطان کی طرف سے قاضی مقرر کیا گیا ہو۔ اور اگر کسی شخص کو لوگوں نے اپنے طور پر حاکم مقرر کر لیا ہو تو اس کے حکم دینے میں مشائخ رحمۃ اللہ علیہم کا اختلاف ہے۔ یعنی اس کے فیصلہ سے بعض مشائخ رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک حکم لازم نہ ہوگا۔ (اور اس قول یہ ہے کہ حکم لازم ہو جائے گا۔ جیسا کہ خلاصہ میں ہے)

وَلَوْ وَقَفَ فِي مَرَضٍ مَوْتِهِ..... الخ اور اگر کسی نے اپنے مرض الموت میں وقف کیا ہو تو طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ وصیت بعد الموت کے حکم میں ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ لازم نہ ہوگا۔ لیکن صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک لازمی ہوگا۔ مگر اس کا اعتبار صرف ایک تہائی مال سے ہوگا۔ اور جو وقف صحت کی حالت میں ہو تو اس کا اعتبار پورے مال سے ہوگا اور اب جبکہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک ملکیت ختم ہو جاتی ہے تو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف قول سے ہی ختم ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ (بلکہ اکثر علماء کا یہی قول ہے۔ اور محققین کے نزدیک یہی وجہ ہے۔ اور منیہ میں ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے)۔ کیونکہ یہ اعتاق کے حکم میں ہے کیونکہ یہ بھی ملکیت ساقط کرنے کا نام ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف کہنے سے نہیں بلکہ اسے متولی کے سپرد کرنا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو سارے جہاں کا مالک ہے اس کو خاص ارادہ کر کے مالک نہیں بنایا جاسکتا ہے۔ بلکہ کبھی تبعاً ہوا کرتا ہے۔ تو اس کا وہی حکم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اس کے کسی بندہ کو دیا تو اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں دینا ثابت ہو گیا۔ پس صدقہ اور زکوٰۃ کے حکم میں ہو گیا۔ اسی قول کو مشائخ بخارانے قبول کیا ہے۔

وقف کے صحیح ہونے کی صورت میں شئی موقوفہ کس کی ملک میں چلی جاتی ہے

قَالَ وَإِذَا صَحَّ الْوَقْفُ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَإِذَا اسْتَحَقَّ مَكَانَ قَوْلِهِ وَإِذَا صَحَّ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَلَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ دَخَلَ فِي مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لَأُتِيقَفَ عَلَيْهِ بَلْ



يَنْفَذُ بَيْعَهُ كَسَائِرِ أَمْلاكِهِ وَلَآئِنَّهُ لَوْ مَلَكَهُ لَمَّا انْتَقَلَ عَنْهُ بِشَرَطِ الْمَالِكِ الْأَوَّلِ كَسَائِرِ أَمْلاكِهِ قَالَ وَقَوْلُهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْوَاقِفِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ

ترجمہ..... اور قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب فقہاء کے اختلاف کے موافق وقف صحیح ہو گیا تو وہ موقوف وقف کرنے والے کی ملکیت سے نکل گیا ساتھ ہی جن لوگوں پر وہ وقف ہے ان کی ملک میں داخل بھی نہیں ہوا۔ کیونکہ اگر اس شخص (موقوف علیہ) کی ملک میں داخل ہو جاتا تو اس پر وہ وقف نہ رہتا بلکہ اگر وہ اسے فروخت کرنا چاہتا تو فروخت صحیح ہو جاتی جیسے کہ اس کی دوسری ذاتی ملکیت کی چیزیں (زمین، مکان وغیرہ میں اس کا فروخت کرنا صحیح ہو جاتا ہے) اور اس دلیل سے بھی کہ اگر موقوف علیہ اس کا مالک ہو جاتا تو پہلے مالک کی شرط کے موافق دوسروں کی طرف وہ منتقل نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے اس کی دوسری املاک کا حال ہے اور مصنف ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ وقف کرنے والے کی ملکیت سے نکل گیا تو اوپر بیان کئے ہوئے اختلاف کے مطابق یہ قول صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے قول کے مطابق ہونا چاہئے۔ (کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق حکم یہ ہے کہ وقف کی اصل جائیداد مالک کی ملک پر باقی تو رہے لیکن اس کے منافع دوسروں کو حاصل ہوتے رہیں۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے)۔

تشریح..... واذا صح الوقف الخ قدوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کے مطابق ایسا ہی ہے۔ لیکن دوسرے نسخے کے مطابق یہی عبارت بجائے صح کے یوں ہے واذا استحق الخ۔ ترجمہ سے مطلب واضح ہے۔

(واضح ہو کہ آئندہ مشاع کے وقف کی بحث آ رہی ہے۔) مشاع وہ چیز جو تقسیم کی جاسکتی ہو مگر ابھی تک تقسیم نہیں کی گئی ہو، یا مشترک ہو۔ یعنی ہزارے کے بعد اس کی حدیں قائم نہ ہوئی ہوں مثلاً ایک زمین دو شخصوں کے درمیان مشترک ہو جس کی وجہ سے اس کی تقسیم ہونے تک یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ اس کا کونسا حصہ یا گوشہ کس کا ہے اور کہاں تک ہے۔ لہذا ایسی حالت تک وہ مشاع ہوگی۔

### مشاع کے وقف کا حکم

قَالَ وَوَقَفَ الْمُشَاعَ جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ تَمَامِ الْقَبْضِ وَالْقَبْضُ عِنْدَهُ لَيْسَ بِشَرَطٍ فَكَذَا تَتِمَّتْهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ أَصْلَ الْقَبْضِ عِنْدَهُ شَرَطٌ فَكَذَا مَا يَتِمُّ بِهِ وَهَذَا فِيْمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ فَأَمَّا فِيْمَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ فَيَجُوزُ مَعَ الشُّيُوعِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَعْتَبَرُ بِالْهَبَةِ وَالصَّدَقَةِ الْمُنْفَذَةِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَقْبَرَةِ فَإِنَّهُ لَا يَتِمُّ مَعَ الشُّيُوعِ فِيْمَا لَا يَحْتَمِلُ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّ بَقَاءَ الشَّرْكَاءِ يَمْنَعُ الْخُلُوصَ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِأَنَّ الْمُهَيَاةَ فِيهِمَا فِي غَايَةِ الْقُبْحِ بَأَن يُقْبَرَ فِيهِ الْمَوْتَى سَنَةً وَيُزْرَعُ سَنَةً وَيُصَلَّى فِيهِ فِي وَقْتٍ وَيَتَّخَذُ اصْطِبْلًا فِي وَقْتٍ بِخِلَافِ الْوَقْفِ لِأَمَّا الْإِسْتِغْلَالِ وَقِسْمَةِ الْغَلَّةِ وَلَوْ وَقَفَ الْكُلُّ ثُمَّ اسْتَحَقَّ جُزْءٌ مِنْهُ بَطَلَ فِي الْبَاقِي عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ الشُّيُوعَ مُقَارَنٌ كَمَا فِي الْهَبَةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا رَجَعَ الْوَاهِبُ فِي الْبَعْضِ أَوْ رَجَعَ الْوَارِثُ فِي الثَّلَاثِينَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَرِيضِ وَقَدْ وَهَبَ أَوْ وَقَفَ فِي مَرَضِهِ وَفِي الْمَالِ ضَيْقٌ لِأَنَّ الشُّيُوعَ فِي ذَلِكَ طَارِئٌ وَلَوْ اسْتَحَقَّ جُزْءٌ مُمَيَّزٌ بَعَيْنِهِ لَمْ يَبْطُلْ فِي الْبَاقِي لِعَدَمِ الشُّيُوعِ وَلِهَذَا جَازَ فِي الْإِبْتِدَاءِ وَعَلَى هَذَا الْهَبَةُ وَالصَّدَقَةُ الْمَمْلُوكَةُ

ترجمہ..... اور قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وقف مشاع یعنی ایسی جائیداد جسے وقف کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے اور وہ ابھی تک



دوسری جائیداد کے ساتھ ملی ہو اس کو بھی وقف کرنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے کیونکہ اس خاص حصہ کو دوسرے کے حصہ سے علیحدہ کر دینا یعنی بٹوارہ کر دینا اس پر قبضہ کر لینے کے لوازمات میں سے ہے۔ مگر ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر قبضہ کرنا ہی شرط نہیں ہے اس لئے قبضہ کے لئے جو تہ اور لوازمات میں سے ہے وہ بھی شرط نہ ہوگا۔ بلکہ اس پر قبضہ سے پہلے ہی وہ زمین وقف ہو جائے گی۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وقف مشاع جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اصل قبضہ ان کے نزدیک شرط ہے اس لئے جس چیز سے قبضہ پورا ہو وہ بھی شرط ہے۔ یہ اختلاف ایسی جائیداد میں ہے جو قابل قسمت ہو (واضح ہو کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قابل قسمت ایسی چیز جس کو تقسیم کرنے کے بعد بھی وہ مقصود حاصل ہو جو اس سے مطلوب اور منظور ہو۔ جیسے بڑا گھر، بڑا کمرہ اور قابل تقسیم نہ ہونے کے معنی یہ ہوئے کہ تقسیم کر دینے کے بعد وہ چیز ایسی نہ رہے جس سے اس کا مقصود حاصل ہو جائے۔ مثلاً چھوٹے کمرے، چھوٹے راستے، چھوٹے پیالے۔ وغیرہ کہ ان کو تقسیم کر دینے کے بعد یہ چیزیں اپنے مقصود پورا کرنے کے قابل نہیں۔) بلکہ کسی کے بھی کام کی نہیں رہتی ہیں) اور جو چیز بٹوارے کے قابل نہ ہو تو اسے وقف کرنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی مشاع ہونے کے باوجود جائز ہے۔ کیونکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس وقف کو ایسے ہبہ و صدقہ پر قیاس کرتے ہیں جو سپرد کر دیا گیا ہو یعنی جیسے ہبہ و صدقہ جائز ہو جاتا ہے اسی طرح جو چیز تقسیم ہونے کے قابل نہ ہو اس کو بھی وقف کرنا جائز ہے۔ پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد اور مقبرہ کو مستثنیٰ کیا ہے۔ یعنی اگر کسی ایسی مشترک زمین کو جو تقسیم ہونے کے قابل نہ ہو مسجد یا مقبرہ کے واسطے وقف کیا تو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ایسی زمین جائز نہیں ہے جو تقسیم ہونے کے قابل نہ ہو۔ اس لئے کہ اس میں شرکت باقی رہنا خالصۃً لوجہ اللہ ہونے سے مانع ہے۔ اور اس لئے بھی کہ مسجد اور قبرستان سے متعلق باری باری سے نفع اٹھانے کا معاہدہ کرنا بہت ہی بری سی بات ہے۔ اس طرح سے کہ مثلاً قبرستان میں ایک سال مردے دفن کئے جائیں اور دوسرے سال اس میں کھیتی کی جائے یا ایک وقت اس میں نماز پڑھی جائے اور دوسرے وقت وہ اصطبل بنادیا جائے۔ جبکہ وہ بٹوارے کے قابل نہیں ہے بخلاف مسجد اور مقبرہ کے دوسرے طور پر وقف جائز ہے۔ کیونکہ یہ ممکن ہے کہ کرایہ یا اجارہ یا زراعت وغیرہ سے اس کی پیداوار اور منافع لے کر آپس میں تقسیم کر لی جائے۔ یعنی جو وقف کا حصہ ہو وہ وقف کر دیا جائے۔

مسئلہ..... اگر ایک شخص نے زمین کا پورا ایک ٹکڑا وقف کیا۔ بعد میں یہ ثابت ہوا کہ اس کی ایک تہائی یا چوتھائی یا کسی جزو کا دوسرا کوئی شخص مستحق ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باقی حصہ کا وقف بھی باطل ہو گیا۔ کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ وقف کرنے کے وقت وہ ٹکڑا مشاع اور مشترک تھا۔ جیسے ہبہ میں ہوتا ہے۔ یعنی ہبہ مشاع ہو کہ اس میں ہبہ کے وقت اشتراک پایا جا رہا ہو تو وہ ہبہ باطل ہو جاتا ہے۔ بخلاف اس کے جب ہبہ کے وقت شیوع نہ ہو بلکہ بعد میں کسی طرح اشتراک پایا جائے تو وہ ہبہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے پوری زمین پہلے ہبہ کر دی مگر بعد میں اس ہبہ کرنے والے نے اس میں سے تھوڑے سے حصہ سے رجوع کر لیا یا مریض نے مرض کی حالت میں ہبہ یا وقف کیا لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے سوا اس کی دوسری کوئی زمین نہیں ہے جو ترک ہو سکے اور اس کے لحاظ سے یہ ایک ثلث ہو سکے۔ جب بھی یہ ہبہ یا وقف باطل نہ ہوگا کیونکہ اس میں ورثہ کی شرکت بعد میں ثابت ہو رہی ہے۔ اور اتنا حصہ جس کا استحقاق اس میں سے ثابت ہوا ہے کوئی معین اور مختار ہو یعنی دوسرے باقی حصہ سے بالکل علیحدہ ہو تو باقی کا وقف باطل نہ ہوگا۔ کیونکہ اس صورت میں حقیقت میں اشتراک اور شیوع نہیں پایا گیا ہے۔ اسی لئے ابتداء میں باقی کا وقف جائز تھا۔ اور یہی حالت ہبہ اور صدقہ مملوکہ کی ہے۔ یعنی اگر اس ہبہ کے کسی مشترک حصہ میں کسی کا حق ثابت ہو تو وہ ہبہ اور صدقہ باطل ہوگا۔ اور اگر کوئی معین حصہ ایسا مشترک ثابت ہو تو وہ باطل نہ ہوگا۔



خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز وقف یا ہبہ کی پھر اس میں سے کسی جزو پر کسی شخص کا دعویٰ ثابت ہو گیا تو دیکھنا چاہئے کہ وہ حصہ یا جزو دوسرے قبضہ سے علیحدہ اور ممتاز ہے تو وہ حصہ اسی حقدار اور مدعی کا ہو جائے گا اور باقی حصہ کا وقف یا ہبہ ثابت اور قائم رہ جائے گا۔ اور اگر وہ حصہ معین نہ ہو بلکہ سب میں ملا جلا اور مشترک ہو تو وہ وقف اور ہبہ باطل ہو جائے گا اور اگر وقف یا ہبہ کے وقت شرکت بالکل نہ ہو مگر کسی بھی صورت سے اس میں بعد میں شرکت پیدا ہو گئی ہو تو باقی کا وقف اور ہبہ قائم رہے گا۔

### وقف تام کب ہوتا ہے

قَالَ وَلَا يَتِمُّ الْوَقْفُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ حَتَّى يَجْعَلَ آخِرَهُ بِجِهَةٍ لَا تَنْقَطِعُ أَبَدًا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إِذَا سَمِيَ فِيهِ جِهَةٌ تَنْقَطِعُ جَازًا وَصَارَ بَعْدَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِمْ لَهُمَا أَنْ مُوجِبُ الْوَقْفِ زَوَالُ الْمَلِكِ بِدُونِ التَّمْلِيكِ وَأَنَّهُ يَتَأَبَّدُ كَالْعِتْقِ فَإِذَا كَانَتِ الْجِهَةُ يَتَوَقَّعُ انْقِطَاعُهَا لَا يَتَوَقَّرُ عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ فَلِهَذَا كَانَ التَّوَقُّفُ مُبْطِلًا لَهُ كَالْتَّوَقُّفِ فِي الْبَيْعِ وَلَا يُسَفُّ أَنْ الْمَقْصُودُ هُوَ التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مُوَفَّرٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ التَّقَرُّبُ تَارَةً يَكُونُ فِي الصَّرْفِ إِلَى جِهَةٍ تَنْقَطِعُ وَمَرَّةً بِالصَّرْفِ إِلَى جِهَةٍ تَتَأَبَّدُ فَيَصِحُّ فِي الْوَجْهَيْنِ وَقِيلَ إِنَّ التَّأَبُّدَ شَرْطٌ بِالْإِجْمَاعِ إِلَّا أَنَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَشْتَرُطُ ذِكْرُ التَّأَبُّدِ لِأَنَّ لَفْظَةَ الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ مُبْنِيَةٌ عِنْدَ لَمَّا بَيْنَا أَنَّهُ إِزَالَةُ الْمَلِكِ بِدُونِ التَّمْلِيكِ كَالْعِتْقِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْكِتَابِ فِي بَيَانِ قَوْلِهِ وَصَارَ بَعْدَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِمْ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ذِكْرُ التَّأَبُّدِ شَرْطٌ لِأَنَّ هَذَا صَدَقَةٌ بِالْمَنْفَعَةِ أَوْ بِالْغَلَّةِ وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مُوقَّتًا وَقَدْ يَكُونُ مُؤَبَّدًا فَمُطْلَقُهُ لَا يَنْصَرِفُ إِلَى التَّأَبُّدِ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّنْصِيصِ

ترجمہ..... قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ و محمد رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک وقف کا کام اسی وقت پورا ہوگا کہ اس کے آخر میں یہ بتا دیا جائے کہ اس کا مصرف ایسا کام ہوگا جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہو۔ (اور وہ ایسا مصرف نہ ہو جو ایک وقت میں اس طرح ہو جائے کہ اس میں خرچ کرنے کا موقع باقی نہ رہے مثلاً یہ کہہ دینا کہ یہ مال فقراء اور مساکین اور دینی طلبہ کی تعلیم میں خرچ کیا جائے کہ یہ سلسلہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہ ہوگا۔ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کے برخلاف ہونے سے بھی (مثلاً یہ مال میرے بیٹوں میرے بھائیوں پر یا صرف فلاں مد میں خرچ کیا جائے جو کچھ دنوں بعد بند اور ختم ہو سکتا ہے اور رشتہ داری کا سلسلہ کبھی منقطع بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسا ہونے سے بھی وقف جائز ہو جائے گا۔ البتہ اگر وہ مخصوص رشتہ دار یا مدرسہ کسی وقت ناپید ہو جائے تو اس کے بعد عام فقراء و مساکین و مدارس میں خرچ کیا جاسکے گا۔ اگرچہ اس نے کھل کر فقراء کا نام نہ لیا ہو۔ امام ابو حنیفہ و محمد رحمۃ اللہ علیہما کی دلیل یہ ہے کہ وقف کا کام تو صرف یہ لازم کرنا ہوتا ہے کہ اب وقف کرنے والے کی ملکیت اس پر باقی نہیں رہے گی بلکہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بغیر کہ وہ دوسرے شخص کی ملکیت میں جائے۔ اور یہ ہمیشہ رہنے والی بات ہے جیسے غلام کی آزادی ہمیشہ کے لئے ہو جاتی ہے۔ پس جب واقف نے اپنے وقف کے لئے ایسا مصرف مقرر کر دیا جس کے ختم ہو جانے کا وہم ہو تو وقف کا اصل مقصد اس سے پورا نہ ہوگا۔ اسی واسطے اگر وقف کو کسی مخصوص یا متعین وقت تک کے لئے کیا ہو مثلاً دس یا پندرہ برس تو یہ وقت مقرر کرنا اس کو باطل کر دیتا ہے۔ جیسے کہ دس دنوں تک کے لئے کسی چیز کو فروخت کرنا باطل ہوتا ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ وقف کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بارگاہ الہی میں تقرب حاصل ہو۔ اور یہ بات وقف کرنے سے پورے طور پر صادق آتی ہے۔ کیونکہ تقرب کا حصول کبھی اس طرح سے ہوتا



ہے کہ وہ ہو کر ختم ہو جائے۔ اور کبھی اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ اس راہ میں خرچ کر دینے کے بعد وہ ہمیشہ کے لئے باقی رہ جائے۔ اور وقف ان دونوں ہی صورتوں سے صحیح ہوتا ہے۔ اور بعض مشائخ نے کہا ہے کہ وقف کا ہمیشہ کے لئے ہونا بالاتفاق شرط ہے لیکن اختلاف یہ ہے کہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیان میں ہمیشہ کے لئے ذکر ہونا شرط نہیں ہے۔ کیونکہ لفظ وقف اور صدقہ سے ہی یہ مفہوم ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ پہلے یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ وقف کے معنی یہ ہیں کوئی چیز کسی کے ملک میں دیئے بغیر اپنی ملکیت سے نکال دینا۔ پھر ایسا کرنا محدود مدت کے لئے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے ہونا۔ جیسا کہ غلام کو آزاد کر دینے میں ہوتا ہے۔ اسی بناء پر کتاب میں ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس طرح کرنے کے بعد بالآخر وہ چیز فقیروں کے واسطے ہو جائے گی۔ اگرچہ اس وقت فقراء کا نام نہ لیا گیا ہو اور یہی قول صحیح ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقف میں ہمیشہ کے لئے بیان کرنا شرط ہے کیونکہ وقف تو کسی چیز کی پیداوار یا منافع کے وقف کرنے کا نام ہے۔ اور یہ بات کبھی مخصوص اور محدود وقت کے لئے ہوتی ہے اور کبھی ہمیشہ کے لئے ہوتی ہے۔ اس لئے ہمیشگی کا ذکر کئے بغیر کلام کو مطلق رکھنے سے ہمیشگی مراد نہیں ہو سکتی ہے بلکہ ہمیشگی کو ظاہر کرنے کے لئے اس کو صراحت کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے۔

### زمین کے وقف کا حکم

قَالَ وَيَجُوزُ وَقْفُ الْعَقَارِ لِأَنَّ جَمَاعَةً مِّنَ الصَّحَابَةِ رَضُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَقْفُهُ

ترجمہ..... اور عقار (غیر منقولہ جائیداد) کا وقف جائز ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے یہ وقف کیا ہے۔

تشریح..... قال ويجوز..... الخ غیر منقولہ جائیداد زمین و مکان کا وقف جائز ہے۔ کیونکہ متعدد صحابہ کرام نے وقف کیا ہے۔ ان میں سے ارقم بن ابی الارقم ہیں چنانچہ ان کے بیٹے عثمان نے روایت کی کہ میرا باپ چھ آدمیوں کے بعد ساتواں مسلمان ہوا۔ ان کا ایک گھر صفا پر تھا۔ یہ وہی گھر تھا جس میں رسول اللہ ﷺ رہتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت فرماتے تھے۔ چنانچہ اس میں کئی آدمیوں کی ایک جماعت اسلام لائی جن میں عمر بن الخطاب بھی تھے۔ اسی وجہ سے اس گھر کا نام دارالاسلام رکھا گیا۔ بعد میں ارقم نے اسے اپنی اولاد پر وقف کر دیا۔ (الحديث)

حاکم نے اس کی روایت کی ہے۔ اور ان وقف کرنے والوں میں حضرت عثمان غنیؓ بھی ہیں۔ چنانچہ پینتیس (۳۵) ہزار سے بیڑرومہ کو خرید کر وقف کر دیا جو مشہور واقعہ ہے۔ جیسا کہ اصحاح اور الطبرانی میں ہے۔ اور حضرت زبیرؓ کا وقف صحیح بخاری میں معلق مروی ہے۔ اور حضرت ابو بکرؓ نے اپنے مکہ کا گھر اور حضرت عمرؓ نے اپنی زمین اور حضرت علیؓ نے اپنی زمین اور مدینہ کے اپنے اموال کو اپنی اپنی اولادوں پر وقف کیا۔ جو آج تک موجود ہیں اور بخاری نے عمرو بن الحارث سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی وفات کے وقت کوئی دینار یا کوئی درہم یا کوئی غلام یا کوئی باندی یا کوئی چیز نہیں چھوڑی سوائے اپنے خچر اور بیضا کے جس پر سوار ہوتے۔ اور اپنے ہتھیار اور ایک زمین کے جس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تھا۔



## منقولی اور محولی چیزوں کا وقف درست نہیں

وَلَا يَجُوزُ وَقْفُ مَا يَنْقَلُ وَيُحَوَّلُ قَالَ وَهَذَا عَلَى الْإِرْسَالِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُونُسَ إِذَا وَقَفَ ضَيْعَةً بِقَرَاهَا وَأَكْرَتَهَا وَهُمْ عِبِيدُهُ جَازَ وَكَذَا سَائِرُ الْأَلِ الْجَرَائِةِ لِأَنَّهُ تَبَعَ لِلْأَرْضِ فِي تَحْصِيلِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَقَدْ يَثْبُتُ مِنَ الْحُكْمِ تَبَعًا مَا لَا يَثْبُتُ مَقْصُودًا كَالشَّرْبِ فِي الْبَيْعِ وَالْبِنَاءِ فِي الْوَقْفِ وَمُحَمَّدٌ مَعَهُ فِيهِ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ أَفْرَادُ بَعْضِ الْمَنْقُولِ بِالْوَقْفِ عِنْدَهُ فَلِأَنَّ يَجُوزُ الْوَقْفُ فِيهِ تَبَعًا أُولَى

ترجمہ..... اور ایسی چیز جو ادھر سے ادھر لے جانے کے قابل ہو یعنی مال منقولہ کو وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مطلقاً ناجائز ہونے کا یہ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا کھیت اس کے جوتے والے بیلوں اور ان کا شکاروں کے جو وقف کرنے والے کے غلام ہیں وقف کیا تو جائز ہے۔ اسی طرح کاشتکاری کے دوسرے سامان ہل وغیرہ کا بھی اس کے ساتھ وقف کر دینا جائز ہو جائے گا۔ کیونکہ اصل مقصود یعنی غلہ کے حصول میں یہ چیزیں زمین کے تابع ہوتی ہیں۔ اور کبھی ایک چیز اس کے مستقل ارادہ سے ثابت نہیں ہوتی ہے مگر وہی چیز دوسرے وقت تابع ہو کر ثابت ہو جاتی ہے۔ جیسے زمین کو فروخت کرنے سے اس کا پانی اس میں داخل ہو جاتا ہے یعنی جس پانی سے وہ زمین سیراب کی جاتی ہو اگر کوئی صرف اسی پانی کو فروخت کرنا چاہے تو وہ فروخت کے قابل نہیں ہوگا۔ مگر زمین کے ساتھ وہ پانی فروخت ہو جاتا ہے اور جیسے صرف عمارت کو اس کی زمین کے بغیر وقف کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ لیکن زمین کے ساتھ وقف ہو جاتی ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی اس مسئلہ میں ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے موافق ہے۔ کیونکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب بعض منقول اشیاء کا وقف تنہا مستقل طور پر جائز ہے تو غیر منقول کے تابع ہو کر بدرجہ اولیٰ وقف جائز ہوگا (اسی لئے آگے بیان فرمادیا ہے)۔

## گھوڑے اور ہتھیاروں کے وقف کا حکم

وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَجُوزُ حَبْسُ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ مَعْنَاهُ وَقْفُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبُو يُونُسَ مَعَهُ فِيهِ عَلَى مَا قَالُوا وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ الْأَثَرُ الْمَشْهُورَةُ فِيهِ مِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ أَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ حَبَسَ أَدْرَعًا وَأَفْرًا سَأَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ طَلْحَةَ حَبَسَ دُرُوعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَيُرْوَى وَأَكْرَاعُهُ وَالْكُرَاعُ الْخَيْلُ وَيَدْخُلُ فِي حُكْمِهِ الْإِبِلُ لِأَنَّ الْعَرَبَ يُجَاهِدُونَ عَلَيْهَا وَكَذَا السِّلَاحُ يُحْمَلُ عَلَيْهَا وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَجُوزُ وَقْفُ مَا فِيهِ تَعَامُلٌ مِنَ الْمَنْقُولَاتِ كَالْفَأْسِ وَالْمِرِّ وَالْقُدُومِ وَالْمِنْشَارِ وَالْجِنَازَةِ وَثِيَابِهَا وَالْقُدُورِ وَالْمَرَاجِلِ وَالْمَصَاحِفِ وَعِنْدَ أَبِي يُونُسَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْقِيَاسَ إِنَّمَا يَتَرَكُ بِالنَّصِّ وَالنَّصُّ وَرَدَّ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهِ وَمُحَمَّدٌ يَقُولُ الْقِيَاسُ قَدْ يَتَرَكُ بِالتَّعَامُلِ كَمَا فِي الْإِسْتِصْنَاعِ وَقَدْ وَجَدَ التَّعَامُلَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَعَنْ لَصِيرِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ وَقَفَ كُتُبَهُ الْحَاقِقَ بِالْمُصْحَفِ وَهَذَا صَحِيحٌ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُمَسَّكُ لِلدِّينِ تَعْلِيمًا وَتَعَلُّمًا وَقِرَاءَةً وَأَكْثَرُ فَفَقَاءِ الْأُمُصَارِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَمَا لَا تَعَامُلَ فِيهِ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا وَقْفُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كُلُّ مَا يُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ أَصْلِهِ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ يَجُوزُ وَقْفُهُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فَاشْبَهَ الْعَقَارَ وَالْكُرَاعَ وَالسِّلَاحَ وَلَنَا أَنَّ الْوَقْفَ فِيهِ لَا يَتَأَبَّدُ مِنْهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَصَارَ كَالدَّرَاهِمِ وَالْدَّنَانِيرِ بِخِلَافِ



الْعَقَارُ وَلَا مُعَارَضَ مِنْ حَيْثُ السَّمْعِ وَلَا مِنْ حَيْثُ التَّعَامُلِ فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ وَهَذَا لِأَنَّ الْعَقَارَ يَتَأَبَّدُ وَالْجِهَادُ سَنَامُ الدِّينِ فَكَانَ مَعْنَى الْقُرْبَةِ فِيهِمَا أَقْوَى فَلَا يَكُونُ غَيْرُهُمَا فِي مَعْنَاهُمَا

ترجمہ..... اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ گھوڑے اور ہتھیاروں کا جس (وقف) جائز ہے یعنی ان کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا جائز ہے۔ اور بعض مشائخ رحمۃ اللہ علیہم کے قول کے مطابق امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اور یہ حکم استحسان کی بناء پر ہے۔ کیونکہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ جائز نہ ہو کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وقف کے لئے ہمیشگی شرط ہے۔ اس لئے منقول مال اس قابل نہیں ہوتا ہے اور استحسان کی دلیل وہ دلیل اور آثار ہیں جو اس بارہ میں مشہور ہیں۔ ان میں سے رسول اللہ کی وہ حدیث ہے جو خالد بن الولید کے بارہ میں ہے کہ انہوں نے اپنی زمین اور گھوڑے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کئے ہیں (اور اصل حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ نے حضرت عمرؓ کو صدقات کی وصولی پر مقرر کیا۔ اس وقت ابن جمیل اور خالد بن الولید اور عباسؓ نے صدقہ دینے سے انکار کیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ابن جمیل کو کون سی بات بری لگتی ہے۔ سوائے اس کے کہ وہ فقیر تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اسے مالدار بنادیا۔ اور خالد کے بارے میں فرمایا کہ تم اس سے زکوٰۃ مانگنے میں ظلم کرتے ہو حالانکہ اس نے اپنی زرہیں و سامان جنگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کیا ہے۔ اور وہ عباسؓ تو ان کی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے۔ (بخاری و مسلم نے اس واقعہ کی روایت کی ہے۔) اور طلحہ نے اپنی زرہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کیں (لیکن یہ روایت نہیں ملتی ہے۔)

اور کراع سے مراد گھوڑے ہیں۔ اسی کے حکم میں اونٹ بھی داخل ہیں۔ کیونکہ عرب اونٹوں پر بھی جہاد کرتے ہیں۔ اور اس پر ہتھیار بھی لادے جاتے ہیں اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جن منقولہ مالوں اور جائیداد میں لین دین کا تعامل جاری ہے۔ ان کا وقف بھی جائز ہے جیسے کلہاڑی، گدالا (وہ بڑی کدال جس سے زمین کھودتے ہیں)، یسولا، آرا، تابوت مع اپنے کپڑوں کے پتیلیاں و ہانڈیاں و دیگیں و پتھر کی دیگیں اور قرآن مجید۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی خلاف قیاس ہے۔ اور قیاس اسی موقع پر ترک کیا جاتا ہے جبکہ اس کے لئے کوئی نص موجود ہو۔ جبکہ نص صرف گھوڑے اور ہتھیار کے بارے میں ہے۔ اس لئے اس حکم کو ان ہی دونوں تک محدود رکھا جائے گا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کبھی تعامل اور عمل درآمد ہونے کے موقع میں قیاس ترک بھی کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کاری گر سے چیز بنوانے میں ہے۔ اور وقف کا تعامل بھی ان چیزوں میں پایا گیا ہے۔ اور نصیر بن یحییٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے مصحف (قرآن مجید) پر قیاس کرتے ہوئے اپنی دینی کتابیں بھی وقف کی تھیں۔ اور یہ صحیح ہے۔ کیونکہ مصحف اور دینی کتابوں میں سے ہر ایک دین کے پڑھنے، پڑھانے و قرأت و تلاوت کے واسطے وقف ہوتی ہے اور شہروں کے اکثر فقہاء کرام امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ اور جن چیزوں میں لوگوں کا تعامل نہ ہو ان کا وقف ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہر ایسی چیز جس کی اصل باقی رہتے ہوئے اس سے نفع اٹھانا ممکن ہے۔ اور اس کی بیع جائز ہے تو اس کا وقف کرنا بھی جائز ہے۔ کیونکہ اس سے نفع اٹھانا ممکن ہے۔ اس لئے غیر منقولہ جائیداد و گھوڑے و ہتھیار کے مشابہ ہو گئے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اس کے وقف میں ہمیشگی نہیں ہو سکتی ہے۔ حالانکہ ہمیشگی کا پایا جانا شرط ہے۔ تو ایسی چیز دینار اور درہم کے مانند ہو گئی۔ بخلاف عتقار کے کہ وہ دائمی ہے۔ اور یہاں کوئی معارض نہیں ہے۔ نہ حدیث اور اثر کے اعتبار سے اور نہ ہی تعامل کے اعتبار سے۔ اس لئے حکم اصلی قیاس پر باقی رہا۔ کہ عتقار (زمین وغیرہ) تو ہمیشہ باقی رہتی ہے اور جہاد دین کا رکن اعلیٰ ہے۔ اس لئے ان دونوں



میں تقریب کے معنی بہت قوی ہوئے۔ اس لئے دوسری چیزیں ان کے معنی میں نہ ہوں گی۔

### وقف صحیح ہونے کے بعد اس کی بیع اور تملیک جائز نہیں

قَالَ وَإِذَا صَحَّ الْوَقْفُ لَمْ يَجْزِ بَيْعُهُ وَلَا تَمْلِيكُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُشَاعًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَيَطْلُبُ الشَّرِيكَ الْقِسْمَةَ فَيَصِحَّ مَقَاسَمَتُهُ أَمَّا إِمْتِنَاعُ التَّمْلِيكِ فَلَمَّا بَيَّنَّا وَأَمَّا جَوَازُ الْقِسْمَةِ فَلِأَنَّهَا تَمَيِّزٌ وَافْرَازٌ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْغَالِبَ فِي غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ إِلَّا أَنْ فِي الْوَقْفِ جَعْلًا الْغَالِبَ مَعْنَى الْإِفْرَازِ نَظَرُ الْوَقْفِ فَلَمْ يَكُنْ بَيْعًا وَتَمْلِيكًا ثُمَّ إِنْ وَقَفَ نَصِيبُهُ مِنْ عَقَارٍ مُشْتَرَكٍ فَهُوَ الَّذِي يُقَاسِمُ شَرِيكَهُ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ إِلَى الْوَاقِفِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ إِلَى وَصِيِّهِ وَإِنْ وَقَفَ نِصْفَ عَقَارٍ خَالِصٍ لَهُ فَالَّذِي يُقَاسِمُهُ الْقَاضِي أَوْ يَبِيعُ نَصِيبَهُ الْبَاقِي مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ يُقَاسِمُهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ يَشْتَرِي ذَلِكَ مِنْهُ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُقَاسِمًا وَمُقَاسَمًا وَلَوْ كَانَ فِي الْقِسْمَةِ فَضْلٌ دَرَاهِمَ إِنْ أُعْطِيَ الْوَاقِفُ لَا يَجُوزُ لِإِمْتِنَاعِ بَيْعِ الْوَقْفِ وَإِنْ أُعْطِيَ الْوَاقِفُ جَازَ وَيَكُونُ بِقَدْرِ الدَّرَاهِمِ شِرَاءً

ترجمہ..... اور جب کسی چیز کو وقف کرنا صحیح مان لیا گیا یعنی لازم ہو گیا تو اسے بیچنا یا ملکیت میں لانا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق وہ وقف مشاع ہو۔ اور دوسرے ساتھی نے اس کے بٹوارے کا مطالبہ کیا تو اس کے ساتھ بٹوارہ کر دیا جائے گا۔ پس مالک بنانے کے ناجائز ہونے کی دلیل وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں (یعنی حضرت عمرؓ کے وقف کرنے کی حدیث کہ اس کی اصل کو وقف کرو کہ اس کی بیع نہ ہوگی۔ اور نہ ہبہ ہوگا اور نہ صدقہ ہوگا)۔ اور اس کے بٹوارے کے جائز ہونے کی دلیل سے ایک یہ بھی ہے کہ بٹوارے کے معنی ہیں کسی چیز کو دوسری چیز سے ممتاز کر دینا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ناپ اور تول والی چیزوں کے سوائے دوسری چیزوں کے بٹوارے میں مبادلہ کے معنی غالب ہیں۔ لیکن وقف میں ہم نے موقع کے لحاظ سے ممتاز کرنے اور جدا کرنے کے معنی ہی کو غالب سمجھا ہے۔ اس لئے یہ بیع یا تملیک نہ ہوگی۔ پھر اگر ایک شخص نے ایک مشترک جائیداد زمین میں سے اپنا حصہ وقف کیا تو وہ خود اپنے شریک سے اپنا حصہ ممتاز یعنی بٹوارہ کرالے۔ کیونکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر ولایت کا حق خود وقف کرنے والے کو ہوتا ہے۔ اور اس کے مرجانے کے بعد وہ ہوتا ہے جس کو اس نے اپنا وصی مقرر کیا ہو۔ اور اگر کسی نے خالص اپنی غیر مشترک زمین سے نصف (وغیر معین) وقف کیا تو قاضی وقت اس کی طرف سے بٹوارہ کرنے والا ہوگا یا پھر اس کا حیلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اپنا باقی حصہ کسی کے ہاتھ فروخت کر دے اور وہ مشتری اس سے اس کا بٹوارہ کرے۔ پھر اس خریدار سے اگر چاہے تو اس کا حصہ خود خرید کر لے۔ اس بات سے بچنے کے لئے ایک ہی شخص دونوں طرف سے اس کا بٹوارہ کرنے والا ہو اور اگر اس بٹوارے میں کسی حصہ میں کچھ نقد درہم لگانے کی ضرورت ہو جائے۔ پس اگر وقف کرنے والے کو یہ درہم دیئے جائیں یعنی زمین کا حصہ اور کچھ درہم دوسرے کو دیئے جائیں تو یہ جائز نہ ہوگا کیونکہ وقف کو بیچنا ممنوع ہے۔ اور اگر وقف کرنے والے نے یہ درہم دیئے تو جائز ہوگا۔ اور یہ کہا جائے گا کہ اس درہم کے برابر اس نے وقف میں خریدا ہے۔



## وقف کی تعمیر کس آمدنی سے کی جائے

قَالَ وَالْوَاجِبُ أَنْ يَتَدَي مِنْ إِرْتِفَاعِ الْوَقْفِ بِعِمَارَتِهِ شَرْطٌ ذَلِكَ الْوَقْفُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ لِأَنَّ قَصْدَ الْوَقْفِ صَرْفُ الْغَلَّةِ مُؤَبَّدًا وَلَا يَبْقَى دَائِمَةً إِلَّا بِالْعِمَارَةِ فَيَشْبُتُ شَرْطُ الْعِمَارَةِ اقْتِضَاءً وَلِأَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ وَصَارَ كَنَفَقَةِ الْعَبْدِ الْمُؤَصَّى بِخِدْمَتِهِ فَإِنَّهَا عَلَى الْمُؤَصَّى لَهُ بِهَا ثُمَّ إِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَلَا يُظْفَرُ لَهُمْ وَأَقْرَبُ أَمْوَالِهِمْ هَذِهِ الْغَلَّةُ فَيَجِبُ فِيهَا وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى رَجُلٍ بَعِيْنِهِ وَآخِرُهُ لِلْفُقَرَاءِ فَهُوَ فِي مَالِهِ أَيْ مَالِهِ شَاءَ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ الْغَلَّةِ لِأَنَّهُ مُعَيَّنٌ يُمَكِّنُ مُطَالَبَتَهُ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْعِمَارَةَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَبْقَى الْمَوْقُوفُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي وَقَفَهُ وَإِنْ خَرِبَ يُبْنَى عَلَى ذَلِكَ الْوَصْفِ لِأَنَّهَا بِصِفَتِهَا صَارَتْ غَلَّتُهَا مَضْرُوفَةً إِلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَتْ بِمُسْتَحَقَّةٍ عَلَيْهِ وَالْغَلَّةُ مُسْتَحَقَّةٌ لَهُ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهَا إِلَى شَيْءٍ آخَرَ إِلَّا بِرِضَاؤِهِ وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْبَعْضِ وَعِنْدَ الْآخَرِينَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِأَنَّ الصَّرْفَ إِلَى الْعِمَارَةِ وَضُرُورَةَ إِبْقَاءِ الْوَقْفِ وَلَا ضُرُورَةَ فِي الزِّيَادَةِ

ترجمہ..... قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وقف کے منافع اور آمدنی سے پہلے اس کی تعمیر (حفاظت) میں خرچ کیا جائے۔ خواہ وقف کرنے والے نے اس کی شرط کی ہو یا نہ کی ہو کیونکہ وقف کا قصد یہ ہے کہ یہ وقف ختم نہ ہو بلکہ ہمیشہ رہے اور اس کی آمدنی سے اس کے مستحقین کو فائدہ پہنچتا رہے اور یہ مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کی حفاظت اور رکھ رکھاؤ میں خرچ نہ کیا جائے۔ اس طرح اس کی تعمیر کی شرط اقتضاء ثابت ہے یعنی وقف خود اس شرط کی مقتضی ہے۔ اور اس دلیل سے بھی کہ ایک حدیث میں یہ مذکور ہے کہ خراج ضمان سے ہے یعنی وقف کی درستی اس شخص پر لازم ہوگی جو اس سے منافع حاصل کرے۔ (رواہ ابو عبید)

اور وقف کی تعمیر کا حکم ایسا ہو گیا جیسے اس غلام کا خرچ کہ یہ اسی پر لازم ہوگا جس کے بارے میں مالک نے خدمت کی وصیت کی ہو۔ یعنی جب وہ شخص اس غلام سے نفع حاصل کرے گا تو اس غلام کے نفقہ کا بھی وہی ضامن ہوگا۔ پھر اگر وہ وقف مطلقاً فقیروں کے نام پر ہو اور ان پر قابو نہیں پایا جاسکتا ہو (فقیروں کی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے سب کو مجبور کر کے اس وقف کی تعمیر و حفاظت نہیں کرائی جاسکتی ہو) اور ان کے اموال میں سے اس وقف کے منافع زیادہ قریب ہوں یعنی ان پر قابو پایا جاسکتا ہو تو اسی میں وقف کی تعمیر واجب ہوگی اور اگر کسی مخصوص شخص کے نام پر وقف ہو لیکن آخر کار وہ فقیروں کے پاس لوٹ کر جانے والا ہو تو اس وقف کی تعمیر اس مخصوص شخص کے کسی بھی مال سے ہو سکتی ہے۔ کہ وہ اپنی زندگی میں جس مال سے چاہے اس وقف کی تعمیر اصلاح کرے اور خاص اسی وقف کی آمدنی سے ہی اس تعمیر کا خرچ نہیں لیا جائے گا۔ کیونکہ یہ شخص ایک ہے اور معین ہے جس سے مطالبہ ممکن ہے۔ پھر وقف کی تعمیر اسی قدر لازم ہوگی کہ جس سے وہ وقف اس حالت پر باقی رہ سکے جس حالت پر اسے وقف کیا گیا تھا اور اگر وہ خراب ہو جائے تو اسی صورت اور نقشہ پر اسے بنایا جائے کہ جیسے حالت پر اسے وقف کیا گیا تھا کیونکہ اسی صفت پر اس کا یہ حکم ہوا کہ اس کی آمدنی اور منافع اس موقوف علیہ (وقف) پر خرچ کی جائے لہذا اس موقوف علیہ (جس کے نام پر وقف کیا گیا) کے ذمہ اس سے زیادہ واجب نہیں ہوگا۔ اور چونکہ اس کی آمدنی کا وہی مستحق بھی ہے اس لئے اس کی رضامندی کے بغیر ایسی کسی مد میں کچھ خرچ کرنا جائز نہ ہوگا جو غیر ضروری ہو۔ اور اگر وقف فقیروں کے نام پر ہو تو بھی بعض فقہاء کے نزدیک یہی حکم ہے یعنی اس وقف کی حفاظت اور تعمیر ضروری ہے اس سے زیادہ ان فقراء کی رضامندی کے بغیر خرچ کرنا جائز نہ



ہوگا۔ اور دوسرے علماء کے نزدیک فقراء کے نام وقف کی چیزوں میں تعمیر کی زیادتی جائز ہے۔ مگر پہلا قول ہی اصح ہے۔ کیونکہ تعمیر کی مد میں خرچ کرنا اس وقف کی حفاظت کی ضرورت سے ہے۔ حالانکہ اس کی زیادتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

گھر کی رہائش جس کیلئے وقف کی ہے عمارت بھی اسی کیلئے ہوگی

قَالَ فَإِنْ وَقَفَ دَارًا عَلَى سُكْنَى وَلَدِهِ فَالْعِمَارَةُ عَلَى مَنْ لَهُ السُّكْنَى لِأَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ عَلَى مَأْمَرٍ فَصَارَ كَنَفَقَةٍ الْعَبْدِ الْمُؤَصَّى بِخِدْمَتِهِ

ترجمہ..... قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ۔ اگر کسی نے اپنا گھر اپنی اولاد کی رہائش پر وقف کیا تو اس گھر کی تعمیر اسی شخص پر لازم ہوگی جو اس میں رہے گا۔ کیونکہ اس سے نفع اور آمدنی تو ضمانت کے مقابلہ میں ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ تو یہ بھی ایسے غلام کے نفقہ کے حکم میں ہو گیا جس کی خدمت کی کسی شخص کے واسطے وصیت کی گئی ہے یعنی اس غلام کا نفقہ اسی شخص پر لازم ہوگا جس کی وہ خدمت کرے گا۔

من لہ السکنی تعمیر وقف سے رک جائے یا فقیر ہو حاکم وقف کو کرائے پر دے اور کرایہ سے اس کی تعمیر مکمل کرائے

فَإِنْ أَمْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ كَانَ فَقِيرًا أَجَرَهَا الْحَاكِمُ وَعَمَّرَهَا بِجُورَتِهَا وَإِذَا عَمَّرَهَا رَدَّهَا إِلَى مَنْ لَهُ السُّكْنَى لِأَنَّ فِي ذَلِكَ رِعَايَةَ الْحَقِّينِ حَقُّ الْوَاقِفِ وَحَقُّ صَاحِبِ السُّكْنَى لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعَمَّرْهَا تَفَوَّتَ السُّكْنَى أَصْلًا وَالْأَوَّلُ أَوْلَى وَلَا يُجْبَرُ الْمُتَمَتِّعُ عَلَى الْعِمَارَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِتْلَافٍ مَالِهِ فَاشْبَهَ أَمْتِنَاعَ صَاحِبِ الْبَذْرِ فِي الْمُزَارَعَةِ فَلَا يَكُونُ أَمْتِنَاعُهُ رِضًا مِنْهُ بِبُطْلَانِ حَقِّهِ لِأَنَّهُ فِي حَيْزِ التَّرَدُّدِ وَلَا يَصِحُّ إِجَارَةٌ مَنْ لَهُ السُّكْنَى لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ

ترجمہ..... پھر اگر موقوف علیہ (جس کے نام پر وصیت کی گئی) نے وقف کی تعمیر سے انکار کیا یا وہ شخص فقیر ہے تو حاکم اس مکان کو کرایہ پر لگا دے اور کرایہ سے ہی اس کی تعمیر کرے۔ اس کے بعد جب تعمیر پوری ہو جائے تب جس کے نام حق سکونت ہے اسی کو دے دے۔ ایسا کرنے میں وقف کرنے والے کی، وقف کی اور رہنے والے کی سب کے حق کی رعایت ہے۔ کیونکہ اگر اس وقف کی تعمیر نہیں کی جائے گی تو اس میں رہائش ناممکن ہو جائے گی۔ اس لئے مذکورہ طریقہ سے اس کی تعمیر بہتر ہے۔ اور جب موقوف علیہ نے اس کی تعمیر سے انکار کر دیا تو اس پر جبر نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اس میں اس کے مال کو برباد کرنا لازم آتا ہے تو ایسا ہو گیا جیسے زراعت میں بیجوں والے نے زراعت سے انکار کر دیا ہو اس جگہ موقوف علیہ کا انکار کرنا اپنے حق کو ضائع کرنے پر رضامندی نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے بارے میں شک ہے (کہ شاید اس نے فی الحال اس امید پر اپنا مال ضائع نہ کیا ہو کہ قاضی اسے بنوا کر واپس کر دے گا۔) اور جس شخص کو اس میں سکونت کا حق حاصل ہے اگر اس نے خود اس مکان کو کرایہ پر دے دیا تو صحیح نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ مالک نہیں ہے۔

وقف کی عمارت منہدم ہو جائے اور آلات ناقص ہو جائیں اس کا مصرف کیا ہے

قَالَ وَمَا أَنهَدَمَ مِنْ بِنَاءِ الْوَقْفِ وَآلَتِهِ صَرَفَهُ الْحَاكِمُ فِي عِمَارَةِ الْوَقْفِ إِنْ أَحْتَاجَ إِلَيْهِ وَإِنْ اسْتَغْنَى عَنْهُ أُمْسَكَهُ



حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى عِمَارَتِهِ فَيَصْرِفَهُ فِيهَا لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْعِمَارَةِ لِيَبْقَى عَلَى التَّابِيدِ فَيَحْصُلَ مَقْصُودُ الْوَاقِفِ فَإِنْ مَسَّتْ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ فِي الْحَالِ صَرَفَهَا فِيهَا وَإِلَّا أُمْسَكَهَا حَتَّى لَا يَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ إِنْ الْحَاجَةُ فَيَبْطُلُ الْمَقْصُودُ وَإِنْ تَعَذَّرَ عَادَةُ عَيْنِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ بَيْعَ وَصَرَفَ ثَمَنَهُ إِلَى الْمَرْمَةِ صَرَفًا لِلْبَدَلِ إِلَى مَصْرِفِ الْمَبْدَلِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَسِّمَهُ يَعْنِي النِّقْضَ بَيْنَ مُسْتَحَقِّي الْوَقْفِ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنَ الْعَيْنِ وَلَا حَقَّ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فِيهِ وَإِنَّمَا حَقُّهُمْ فِي الْمَنَافِعِ وَالْعَيْنُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يُصْرَفُ إِلَيْهِمْ غَيْرَ حَقِّهِمْ

ترجمہ..... قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ۔ اگر وقف کی عمارت میں سے کچھ حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا یا اس کے اسباب اور آلات میں سے کوئی چیز ناقص ہوگئی تو حاکم اس سامان کو وقف کی تعمیر ہی میں استعمال کرے بشرطیکہ اس کی ضرورت ہو۔ اور اگر فی الحال اس کی ضرورت نہ ہو تو حفاظت کے ساتھ کہیں پر رکھ دے تاکہ ضرورت پڑنے پر اسے تعمیر میں لگا سکے۔ کیونکہ بہر صورت اس عمارت کی تعمیر کی ضرورت تو ہوتی رہے گی تاکہ وہ مدتوں باقی رہ سکے اور اس طرح واقف کی مراد حاصل ہو۔ پھر اگر اس کی فوری ضرورت ہو جائے تو اسی میں لگا دے۔ ورنہ اسے رکھ دے تاکہ ضرورت پڑنے پر کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ جس کی وجہ سے مقصود میں خلل آجائے۔ اور اگر اسی چیز کو اس حالت میں اس کی جگہ پر دوبارہ لگانا ممکن نہ ہو تو اسے فروخت کر کے اس عمارت کی مرمت کے وقت اس سامان کی قیمت خرچ کر دے تاکہ بجائے مبدل کے بدل (سامان کے عوض اس کی قیمت) خرچ ہو۔ ولايجوز ان يقسمه الخ اور یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے ٹوٹے پھوٹے اور فی الحال فاضل سامان کو اس وقف کے مستحقین میں تقسیم کر دے۔ کیونکہ وہ سب سامان عین وقف کا حصہ اور جزو ہے اور جن لوگوں پر وہ وقف کیا گیا ہے اصل اور عین وقت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ ان کا حق تو صرف وقف کے منافع میں ہوتا ہے اور وہ عین یا اصل تو حق اللہ ہے۔ لہذا ان مستحقین کے حق کے سوا دوسری کوئی چیز بھی ان کو نہیں دی جائے گی

### واقف وقف کی آمدنی یا تولیت اپنے لئے کر سکتا ہے

قَالَ وَإِذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ غَلَّةَ الْوَقْفِ لِنَفْسِهِ أَوْ جَعَلَ الْوَلَايَةَ إِلَيْهِ جَارَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ قَالَ ذَكَرَ فَصْلَيْنِ شَرْطُ الْغَلَّةِ لِنَفْسِهِ وَجَعَلَ الْوَلَايَةَ إِلَيْهِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَلَا يَجُوزُ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ هَلَالِ الرَّازِيِّ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقِيلَ إِنَّ الْإِخْتِلَافَ بَيْنَهُمَا بِنَاءً عَلَى الْإِخْتِلَافِ فِي اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ وَالْإِفْرَازِ وَقِيلَ هِيَ مَسْأَلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ وَالْإِخْلَافُ فِيمَا إِذَا شَرَطَ الْبَعْضَ لِنَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَفِيمَا إِذَا شَرَطَ الْكُلَّ لِنَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ لِلْفُقَرَاءِ سَوَاءٌ وَلَوْ وَقَفَ وَشَرَطَ الْبَعْضَ أَوْ الْكُلَّ لِأَمْهَاتٍ أَوْ لِأَدَمٍ وَمُدَبِّرِيهِ مَا دَامُوا أَحْيَاءً فَإِذَا مَاتُوا فَهُوَ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ فَقَدْ قِيلَ يَجُوزُ بِالْإِتِّفَاقِ وَقَدْ قِيلَ هُوَ عَلَى الْإِخْلَافِ أَيْضًا وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ اشْتِرَاطَهُ لَهُمْ فِي حَيَاتِهِ كَاشْتِرَاطِهِ لِنَفْسِهِ وَجْهٌ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْوَاقِفَ تَبَرُّعٌ عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ بِالطَّرِيقِ الَّذِي قَدْ مَنَاهُ فَاشْتِرَاطُ الْبَعْضِ أَوْ الْكُلِّ لِنَفْسِهِ يُبْطِلُهُ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ مِنْ نَفْسِهِ لَا يَتَحَقَّقُ فَصَارَ كَالصَّدَقَةِ الْمُنْفَذَةِ وَشَرَطَ بَعْضَ بُقْعَةِ الْمَسْجِدِ لِنَفْسِهِ وَلَا يُبَيِّنُ يُوسُفُ مَا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ صَدَقَتِهِ وَالْمُرَادُ مِنْهَا صَدَقَةُ الْمُوقُوفَةِ وَلَا يَجِلُّ الْأَكْلُ مِنْهَا إِلَّا بِالشَّرْطِ فَدَلَّ عَلَى صِحَّتِهِ وَلِأَنَّ الْوَاقِفَ إِزَالَةُ الْمِلْكِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَإِذَا شَرَطَ الْبَعْضَ أَوْ الْكُلَّ لِنَفْسِهِ فَقَدْ جَعَلَ مَا صَارَ مُمْلُوكًا لِلَّهِ تَعَالَى لِنَفْسِهِ







فرق نہیں ہوگا۔ اور اگر وقف میں یہ شرط کی ہو کہ آمدنی سے کچھ یا سب کی سب اپنی ام ولد یا مدبروں کے واسطے ہوگی جب تک کہ وہ زندہ رہیں لیکن ان کے مرجانے کے بعد وہ آمدنی فقراء اور مساکین کے لئے ہو جائے گی۔ تو کہا گیا ہے کہ یہ شرط بالاتفاق جائز ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اس میں بھی صاحبین کا اختلاف ہے۔ اور یہی صحیح ہے۔ کیونکہ ام ولد اور مدبروں کی زندگی تک کے لئے آمدنی اور پیداوار کو مخصوص کرنے کی شرط کرنا ایسا ہے۔ جیسے اپنی ذات کے لئے شرط کرنا ہے (تو گزشتہ اختلاف جاری ہو گیا۔) اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ وقف کے معنی ہیں کسی پر احسان کرتے ہوئے مذکورہ بالا طریقہ سے کسی جز کا مالک بنادینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ عزوجل کی جناب میں تقرب حاصل کرنے کے لئے۔ لہذا اس میں تھوڑی سی آمدنی یا پوری کی پوری آمدنی کو اپنی ذات کے لئے مخصوص کر لینے کی شرط کرنا اس کو باطل کر دے گا۔ کیونکہ خود اپنی ذات کو مالک بنادینا متحقق نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ایسا ہو گیا جیسے صدقہ منفذہ۔ یعنی کسی فقیر کو بطور صدقہ کچھ مال اس شرط پر دینا کہ اس میں سے کچھ اسی دینے والے کے لئے ہے۔ جیسے زمین کے کچھ حصہ کو مسجد بنادینا اس شرط کے ساتھ کہ اس کا کچھ حصہ خود اسی بنادینے والے کے لئے ہے (حالانکہ یہ دونوں صورتیں باطل ہیں) اس لئے مذکور طریقہ سے وقف کرنا بھی باطل ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں روایت ہے کہ رسول اللہ اپنے صدقہ میں سے کھاتے تھے۔ تو اس صدقہ سے مراد وقف ہے۔ حالانکہ وقف کے مال سے کھانا حلال نہیں ہے، مگر شرط کے ساتھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقف میں شرط کر لینا صحیح ہے۔ (لیکن یہ حدیث کہیں نہیں ملی ہے۔ بلکہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ کے صدقہ یعنی وقف میں سے آپ کے اہل و عیال عام دستور کے مطابق کھاتے تھے)۔ (رواہ ابن ابی شیبہ)

اس دلیل سے کہ وقف کے معنی ہیں کسی چیز سے اپنی ملکیت زائل کر کے تقرب کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ملک میں دینا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ پس اگر واقف نے وقف کی آمدنی سے اس کی کچھ یا کل آمدنی اپنی ذات کے لئے شرط کی تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی مملوک ہو چکی تھی اسی کی اپنی ذات کے لئے شرط کی۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ اپنی ملک کو اپنے واسطے مخصوص کر لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مملوک چیز کو اپنے لئے شرط کر لینا جائز ہے۔ جیسے کوئی خان (سرائے خانہ) یا سقایہ (سبیل) بنائے یا کسی زمین کو قبرستان بنادے اور اس میں یہ شرط لگائے کہ اس سرائے میں خود بھی ٹھہرے گا یا اس سبیل اور سقایہ سے خود بھی پانی پئے گا یا اس قبرستان میں اپنا مردہ بھی دفن کرے گا تو یہ جائز ہوتا ہے اور اس دلیل سے کہ اس کا مقصود اس وقف سے تقرب الہی ہے۔ اور یہی بات اپنی ذات پر خرچ کرنے سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ آدمی کا اپنی ذات پر خرچ کرنا اس کے حق میں صدقہ ہے (اور اپنی بیوی و اولاد و خادم پر خرچ کرنا بھی اس کے واسطے صدقہ ہے۔ ابن ماجہ اور نسائی نے اس کی روایت کی ہے۔ اور اس کی اسناد عمدہ و جید ہے۔)

(ابن حجر اور حضرت ابوسعید خدریؓ نے مرفوع روایت کی ہے کہ جس نے حلال طریقہ سے کوئی مال کمایا اور اس سے اپنی ذات کے لئے کھانا یا کپڑا بنایا یا مخلوق الہی کو دیا تو یہ اس کے لئے زکوٰۃ ہے۔ جیسا کہ صحیح ابن حبان اور حاکم میں ہے۔ اس باب میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔)

اگر وقف کرنے والے نے یہ شرط کی ہو کہ جب چاہے گا اس زمین کے عوض دوسری زمین بدل لے گا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استحساناً جائز ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقف جائز ہے۔ اور یہ شرط باطل ہے۔ اگر وقف میں اپنے لئے تین دن کی شرط کی۔ یعنی اس زمین کے وقف کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ابھی تین دنوں تک مجھے



اختیار ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقف اور شرط دونوں جائز ہیں۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقف باطل ہے۔ ان کا یہ اختلاف اسی بناء پر ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں (یعنی وقف کرتے وقت اس کی پیداوار اور آمدنی کو اپنی زندگی تک کے لئے شرط رکھنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے اس لئے تین دن کے اختیار رکھنے کی شرط بھی جائز ہوگی۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ جائز نہیں ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے)۔

اب دوسرے مسئلہ (ولایت کی بحث) یعنی اپنے آپ کے لئے متولی بننے کی شرط کرنے کا بیان ہوگا۔ تو اس مسئلہ میں قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی تصریح کر دی ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جائز ہے۔ اور ہلال الرائی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ اور ظاہر المذہب بھی یہی ہے۔ ہلال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الوقف میں لکھا ہے کہ علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ اگر وقف کرنے والے نے اپنی ذات کے واسطے متولی رہنے کی شرط کی ہو تو وہ متولی رہ جائے گا۔ اور اسے ولایت حاصل ہوگی۔ اور اگر اس کی شرط نہیں کی ہو تو اسے ولایت حاصل نہ ہوگی یعنی وہ متولی نہیں رہے گا۔ ہمارے مشائخ رحمۃ اللہ علیہم نے فرمایا ہے کہ شبہ زیادہ بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہو۔ کیونکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بات اصل کے طور پر یہ ہوئی ہے کہ وقف صحیح ہونے کے لئے منتظم اور قیم کے حوالہ کر دینا شرط ہے۔ پس جب واقف نے قیم اور متولی کے حوالہ کر دی تو وقف کرنے میں اب اس کی ولایت باقی نہ رہی۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ وقف کرنے والے ہی کی طرف سے ایک شرط کے ساتھ متولی کو ولایت حاصل ہو گئی ہے تو یہ بات محال ہے کہ خود تو اسے ولایت نہ ہو پھر بھی دوسرا شخص اس سے ولایت حاصل کرے۔ اور اس دلیل سے بھی کہ وقف کرنے والے کو باقی سب لوگوں کے مقابلہ میں اس وقف کے ساتھ زیادہ تعلق اور ہمدردی ہے۔ اس لئے اس وقف کا متولی بننے کے لئے اسی کی ولایت زیادہ بہتر ہوگی۔ جیسے کسی نے مسجد بنائی تو وہی اس کے آباد کرنے اور تعمیر کرنے میں اور اس کے مؤذن مقرر کرنے میں اولیٰ ہوتا ہے۔ اور جیسے کسی نے غلام آزاد کیا تو اس غلام کی ولایت اسی آزاد کرنیوالے کے لئے ہوگی۔ کیونکہ اس سے سب سے زیادہ تعلق اور قرب اسی آزاد کرنے والے کو ہوتا ہے۔ اور اگر وقف کرنے والے نے اپنے وقف کے متولی ہونے کا حق خود اپنی ہی ذات کے لئے رکھا۔ اور اس کی شرط کی حالانکہ اس میں امانت داری کے لحاظ سے وہ مامون نہیں ہے یعنی وہ شخص دیندار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس کی طرف سے اس وقف کے معاملہ میں اطمینان بھی نہیں ہے تو فقیروں کی بھلائی کے خیال سے قاضی کو اختیار ہوگا کہ اس وقف کو اس کے قبضہ سے نکال دے۔ جیسے کسی نے اپنے بعد اپنی یتیم اولاد کے لئے کسی کو وصی بنادیا جو اس کی پوری دیکھ بھال کرے حالانکہ وہ دیندار قابل اعتماد نہیں ہے تو اس کے بارے میں بھی قاضی کو اختیار ہوتا ہے کہ ان یتیم بچوں کا خیال کر کے اس وصی کو بے اختیار کر دے اور کسی دوسرے دیندار ذمہ دار کو ان کا ذمہ دار بنادے۔ اسی طرح اگر وقف کرنے والے نے یہ شرط کی ہو کہ کسی بادشاہ یا قاضی کو یہ اختیار نہیں ہوگا اس وقف کو میرے قبضہ سے نکال کر اس پر کسی دوسرے شخص کو متولی بنادے۔ حالانکہ اس وقف کرنے والے کے ظاہری حالات کی بناء پر اس وقف پر اس کی طرف سے اطمینان نہیں ہو تو بھی قاضی کو اختیار ہوگا کہ اس کے قبضہ سے نکال کر کسی دوسرے کو متولی مقرر کر دے کیونکہ وقف کرنے والے کی یہ شرط شرعی حکم اور مصلحت کے مخالف ہے۔ اس بناء پر خود وہ شرط ہی باطل ہو گئی۔



### مسجد بنانے والے کا ملک مسجد سے کب زائل ہوگا

فَصْلٌ، وَإِذَا بَنَى مَسْجِدًا لَمْ يَزَلْ مِلْكُهُ عَنْهُ حَتَّى يَفْرُزَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِطَرِيقِهِ وَيَأْذُنُ لِلنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فِيهِ فَإِذَا صَلَّى فِيهِ وَاحِدُ زَالِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ مِلْكِهِ أَمَّا الْإِفْرَازُ فَلِأَنَّهُ لَا يَخْلُصُ لِلَّهِ تَعَالَى إِلَّا بِهِ وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِيهِ فَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّسْلِيمِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَيُشْتَرَطُ تَسْلِيمُ نَوْعِهِ وَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ بِالصَّلَاةِ فِيهِ أَوْلَانَهُ لَمَّا تَعَذَّرَ الْقَبْضُ يُقَامُ تَحْقِيقُ الْمَقْصُودِ مَقَامَهُ ثُمَّ يُكْتَفَى بِصَلَاةِ الْوَاحِدِ فِيهِ فِي رَوَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَكَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ فِعْلَ الْجَنَسِ مُتَعَذِّرٌ فَيُشْتَرَطُ أَذْنَاهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الصَّلَاةُ بِالْجَمَاعَةِ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ بَنَى لِذَلِكَ فِي الْغَالِبِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَزُولُ مِلْكُهُ بِقَوْلِهِ جَعَلْتُهُ مَسْجِدًا لِأَنَّ التَّسْلِيمَ عِنْدَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِأَنَّهُ اسْقَاطُ لِمَلِكِ الْعَبْدِ فَيَصِيرُ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى بِسُقُوطِ حَقِّ الْعَبْدِ وَصَارَ كَالْإِعْتَاقِ وَقَدْ بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ

ترجمہ... اگر کسی نے مسجد بنائی (تو بنالینے کے باوجود یہ مسجد) اسی کی ملکیت میں رہے گی۔ یہاں تک کہ اس کو اپنی ملکیت سے اس کا راستہ نکال کر جدا کر دے اور تمام لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ اس کے بعد اگر ایک شخص نے بھی اس میں نماز پڑھ لی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اب وہ مسجد اس کی ملکیت سے نکل گئی۔ اس میں اپنے ملک سے جدا کرنے کی دلیل یہ ہے کہ اسی طریقہ سے وہ مسجد خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہو سکتی ہے۔ اور اس میں نماز پڑھنے کی دلیل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سپرد کرنا ضروری ہے۔ اور سپرد کرنے میں شرط یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق سپردگی ہو (یعنی جس چیز کو جس طرح سپرد کرنا چاہئے اسی طرح سپرد کیا جائے) اور مسجد کو سپرد کرنے کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ اس میں نماز پڑھنے کی مکمل آزادی دے دی جائے اور کوئی شخص کچھ نمازیں پڑھ لے یا اس وجہ سے کہ جب اس جگہ پر قبضہ کرنا ممکن نہیں ہے تو اس سے مقصود حاصل نماز پڑھ لینے ہی کو قبضہ کے قائم مقام مان لیا گیا ہے۔ پھر جب ایک شخص نے اس میں نماز پڑھ لی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت میں ہے کہ یہی کافی ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔ کیونکہ جنس کا فعل ناممکن ہے (یعنی یہ بات محال ہے کہ سارے نمازی اس میں آ کر ایک ساتھ نماز پڑھ لیں)۔ اس لئے اس جنس کا ادنیٰ درجہ یعنی کے ایک کے نماز پڑھ لینے کو بھی کافی سمجھا جائے گا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ ہے کہ اس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لینا شرط ہے۔ کیونکہ غالباً مسجد اسی مقصد کے لئے بنائی جاتی ہے۔ کیونکہ تنہا نماز تو ہر جگہ ہو سکتی ہے۔ اور مسجد کا حقیقی مقصد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ اسی لئے دونوں اماموں (امام ابو حنیفہ و امام محمد) کے نزدیک اس مسجد میں جماعت کا اذان و اقامت کے ساتھ ہونا شرط ہے۔ اور اگر اس میں مسجد کا کوئی موزن و امام مقرر کر دیا گیا اور اس نے اذان دے کر اقامت کی اور تنہا نماز پڑھ لی تب بھی وہ بالاتفاق مسجد ہو گئی۔ وقال ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ الخ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وقف کرنے والے کا ایک مسجد بنا کر یہ اعلان کر دینا کہ میں نے اس کو مسجد بنا دیا کہتے ہی واقف کی اس پر سے ملکیت ختم ہو گئی۔ کیونکہ ان کے نزدیک سپرد کرنا شرط نہیں ہے اور بندہ کی ملکیت کو کسی چیز سے ختم کر دینا ہی وقف ہو جاتا ہے۔ اس لئے بندہ کا حق ساقط ہوتے ہی وہ مسجد خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہو جائے گی۔ اور یہ صورت اعتاق کی مثل ہو گئی۔ اس مسئلہ کو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔



مسجد کے نیچے تہہ خانہ اوپر بالا خانہ، مسجد کا دروازہ بڑے راستہ پر نکالنے کا حکم

قَالَ وَ مَنْ جَعَلَ مَسْجِدًا تَحْتَهُ سِرْدَابٌ أَوْ فَوْقَهُ بَيْتٌ وَ جَعَلَ بَابَ الْمَسْجِدِ إِلَى الطَّرِيقِ وَ عَزَلَهُ عَنْ مِلْكِهِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَإِنْ مَاتَ يُورَثُ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْلُصْ لِلَّهِ تَعَالَى لِبَقَاءِ حَقِّ الْعَبْدِ مُتَعَلِّقًا بِهِ وَلَوْ كَانَ السِّرْدَابُ لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ جَازًا كَمَا فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَ رَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِذَا جَعَلَ السِّفْلُ مَسْجِدًا وَ عَلَى ظَهْرِهِ مَسْكَنٌ فَهُوَ مَسْجِدٌ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مِمَّا يَتَأَبَّدُ وَ ذَلِكَ يَتَحَقَّقُ فِي السِّفْلِ دُونَ الْعُلُوِّ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَلَى عَكْسِ هَذَا لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مُعَظَّمٌ وَإِذَا كَانَ فَوْقَهُ مَسْكَنٌ أَوْ مُسْتَعْلٌ يُتَعَذَّرُ تَعْظِيمُهُ وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ جَوَّزَ فِي الْوُجْهِينِ حِينَ قَدِمَ بَغْدَادَ وَ رَأَى ضَيْقَ الْمَنَازِلِ فَكَانَهُ اعْتَبَرَ الضَّرُورَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ حِينَ دَخَلَ الرَّيَّ أَجَازَ ذَلِكَ كُلَّهُ لِمَا قُلْنَا.

ترجمہ..... امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر کسی نے اپنے ایسے مکان کو مسجد بنایا جس کے نیچے تہہ خانہ یا اوپر بالا خانہ ہو اور اس مسجد کا دروازہ بڑے راستہ کی طرف نکالا۔ اور سب سے اپنی ملکیت ختم کر دی یعنی اسے اپنی ملکیت سے نکال دیا (تو ظاہر الروایہ میں وہ مسجد نہ ہوگی۔) لہذا اس شخص کو اس بات کا اختیار باقی رہے گا کہ چاہے تو اسے فروخت کر دے اور اگر اسی حال میں وہ مر گیا تو وہ جگہ ورثہ کے لئے میراث ہوگی۔ کیونکہ آخر وقت تک وہ خالص اللہ تعالیٰ کے نام کی نہیں ہوئی تھی۔ اس لئے کہ اس کے ساتھ بندہ کا حق باقی رہ گیا ہے۔ اور اگر وہ تہہ خانہ بھی اسی مسجد کی مصلحت کے واسطے ہو تو وہ وقف جائز ہوگا۔ جیسے بیت المقدس کی مسجد میں ہے۔ اور حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب نیچے کے مکان کو مسجد بنادیا اور اس کی چھت پر کسی کے رہائش کی جگہ ہو تو وہ مسجد ہو جائے گی۔ کیونکہ مسجد ایسی جگہ ہے جو ہمیشہ کے لئے ہو جاتی ہے اور یہ بات نچلے حصہ کے مکان میں پائی جائے گی۔ مگر بالا خانہ میں نہیں پائی جائے گی اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے برعکس منقول ہے کیونکہ مسجد قابل تعظیم ہوتی ہے۔ اور جب اوپر کے حصہ میں رہائش گاہ ہوتی یا ایسا (مستغل، اس سے مراد یہ ہے کہ اس جگہ سے اس مسجد کی آمدنی کے لئے کسی صورت سے کرایہ وغیرہ وصول کیا جائے) مکان ہو جس کا کرایہ اس مسجد میں خرچ کیا جائے تو اس کی تعظیم محال ہوگی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دونوں صورتوں (کہ اس کے نیچے تہہ خانہ یا اس کے اوپر بالا خانہ ہو) میں اس وقت اس کو جائز رکھا جبکہ وہ بغداد تشریف لائے اور وہاں مکانوں کی تنگی دیکھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ شاید انہوں نے ضرورت کا اعتبار کیا ہے۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایت ہے کہ وہ جب ری شہر میں تشریف لائے تو ضرورت کا خیال کرتے ہوئے ان سب کو جائز کہا۔

گھر کے بیچ میں مسجد بنانے کا حکم

قَالَ وَ كَذَلِكَ إِنْ اتَّخَذَ دَارَهُ مَسْجِدًا أَوْ أَذِنَ لِلنَّاسِ بِالْدُخُولِ فِيهِ يَعْنِي لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ يُورَثَ عَنْهُ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مَا لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ فِيهِ حَقُّ الْمَنْعِ وَإِذَا كَانَ مِلْكُهُ مُحِيطًا بِجَوَانِبِهِ كَانَ لَهُ حَقُّ الْمَنْعِ فَلَمْ يَصِرْ مَسْجِدًا لِأَنَّهُ أَبْقَى الطَّرِيقَ لِنَفْسِهِ فَلَمْ يَخْلُصْ لِلَّهِ تَعَالَى وَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَ لَا يُورَثُ وَ لَا يُوهَبُ اعْتَبَرَهُ مَسْجِدًا أَوْ هَكَذَا عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَصِيرُ مَسْجِدًا لِأَنَّهُ لِمَا رَضِيَ بِكَوْنِهِ مَسْجِدًا أَوْ لَا يَصِيرُ مَسْجِدًا إِلَّا بِالطَّرِيقِ دَخَلَ فِيهِ الطَّرِيقُ



وَصَارَ مُسْتَحَقًّا كَمَا يَدْخُلُ فِي الْإِجَارَةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ

ترجمہ..... اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنے گھر اور احاطہ کے بیچ میں مسجد بنائی اور لوگوں کو اس میں آمد و رفت کی اجازت بھی دے دی تو بھی وہ مسجد نہ ہوگی یعنی اسے اختیار ہوگا کہ اسے بیچ ڈالے۔ اسی طرح اس کے مرجانے سے وہ مسجد بھی ورثہ کی میراث ہو جائے گی۔ کیونکہ مسجد تو ایسی ہوتی ہے جس میں عبادت کرنے سے روکنے کا کسی کو حق نہ ہو۔ حالانکہ اس مسجد کے چاروں طرف مالک کی ملکیت باقی ہے اس لئے اسے لوگوں کو منع کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اس بناء پر وہ (شرعی) مسجد نہ ہوگی کیونکہ اس نے اپنے لئے راستہ باقی رکھا ہے۔ پس وہ خالص اللہ تعالیٰ کے نام کی مسجد نہ ہوئی۔ البتہ اگر اس حصہ کو اپنی ملکیت سے نکال کر عام سڑک تک اس کا راستہ نکال دے تب وہ (شرعی) مسجد ہو جائے گی۔

وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ..... الخ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت ہے کہ وہ مسجد ہو جائے گی۔ اس لئے وہ فروخت نہیں ہو سکے گی اور نہ وہ میراث بن سکے گی۔ اور نہ وہ ہبہ ہو سکے گی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایسا ہی مروی ہے کہ وہ مسجد ہو جائے گی کیونکہ مالک واقف اس کے مسجد ہونے پر راضی ہو گیا۔ حالانکہ بغیر راستہ کے کوئی مسجد نہیں ہو سکتی ہے اس لئے موجودہ راستہ بھی وقف میں داخل ہو گیا۔ اور راستہ کے اندازہ سے اس کی ملکیت سے مسجد کا اس راستہ پر حق ہو گیا جیسے کرایہ پر لینے کی صورت میں بغیر بیان کے بھی راستہ داخل ہو جاتا ہے۔

جس نے اپنی زمین کو مسجد بنا دیا اس کے لئے رجوع کا حق نہیں، نہ بیچ سکتا ہے اور نہ وراثت جاری ہوگی

قَالَ وَمَنْ اتَّخَذَ أَرْضَهُ مَسْجِدًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ وَلَا يَبِيعُهُ وَلَا يُورَثُ عَنْهُ لِأَنَّهُ يَحْرِزُ عَنْ حَقِّ الْعِبَادَةِ وَصَارَ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى وَهَذَا لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا لِلَّهِ تَعَالَى وَإِذَا سَقَطَ الْعَبْدُ مَا ثَبَتَ مِنَ الْحَقِّ رَجَعَ إِلَى أَصْلِهِ فَانْقَطَعَ تَصَرُّفُهُ عَنْهُ كَمَا فِي الْأَعْتَاقِ وَلَوْ خَرَبَ مَا حَوْلَ الْمَسْجِدِ وَاسْتُغْنِيَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مَسْجِدٍ أَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ اسْقَاطٌ مِنْهُ فَلَا يَعُودُ إِلَى مِلْكِهِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ عَادَ إِلَى مِلْكِ الْبَائِي وَالْإِلَى وَارِثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لِأَنَّهُ عَيْنُهُ لِنَوْعِ قُرْبَةٍ وَقَدْ انْقَطَعَتْ فَصَارَ كَحَصِيرِ الْمَسْجِدِ أَوْ حَشِيشِهِ إِذَا اسْتُغْنِيَ عَنْهُ إِلَّا أَنَّ أَبَا يُوسُفَ يَقُولُ فِي الْحَصِيرِ وَالْحَشِيشِ أَنَّهُ يُنْقَلُ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ

ترجمہ..... اور جس شخص نے اپنی زمین میں مسجد بنائی تو اس کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس کے مسجد ہونے سے رجوع کر لے۔ اور نہ وہ فروخت ہو سکے گی اور نہ اس کی میراث ہو سکتی ہے۔ (اس حکم میں تمام فقہائے حنفیہ کا اتفاق ہے) کیونکہ وہ مسجد حق العباد سے نکل کر خالص اللہ تعالیٰ کے نام کی ہو گئی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہیں۔ اور جب کسی بندہ نے اپنے اس حق کو جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوا تھا ختم کر دیا تو وہ چیز اپنی اصل کی طرف راجع ہو گئی۔ یعنی دوبارہ وہ باری تعالیٰ کی ملکیت میں آ گئی۔ لہذا اس پر سے بندہ کا حق تصرف ختم ہو گیا۔ جیسے غلام کو آزاد کرنے (اعتاق) میں ہوتا ہے۔ اور اگر کسی مسجد کے آس پاس کا علاقہ ویران ہو گیا اور وہاں مسجد کی ضرورت باقی نہ رہی تو بھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ مسجد بھی رہے گی کیونکہ اس کی طرف سے اپنی ملک کا اسقاط ہے تو وہ واقف کی ملک کی طرف نہیں لوٹے گی۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ بنانے والے کی ملک میں لوٹ جائے



گی یا اس کے مرجانے کی صورت میں اس کے وارث کی ملکیت میں آ جائے گی۔ کیونکہ بنانے والے نے ایک خاص مقصد قربت (یعنی نماز کی ادائیگی) کے لئے وہ متعین کی تھی۔ اور اب وہ قربت ختم ہو گئی ہے تو حکم ایسا ہو گیا جیسے مسجد کی چٹائی گھاس وغیرہ جبکہ اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہو کہ اس کا بھی یہی حکم ہوتا ہے۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ چٹائی اور گھاس وغیرہ بھی کسی دوسری مسجد ہی میں منتقل کر دی جائے۔ لیکن مسجد کے بارے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہے۔ (یعنی کبھی بھی وہ اپنے مالک کی ملکیت میں دوبارہ واپس نہیں جائے گی) اور چٹائی وغیرہ کے بارے میں بھی یہی فتویٰ ہے کہ دوسری مسجد میں منتقل کر دی جائے۔ لیکن قاضی خان نے اسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کیا ہے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے برعکس ہے اور اہل مسجد کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ ٹوٹی چٹائیاں کسی محتاج کو دے دیں یا انہیں فروخت کر کے دوسری چٹائیاں خریدیں جبکہ وہ بے کار ہو گئی ہوں۔ اور ان کا بچھانے والا یا اس کے کسی وارث کو یہ جائز نہیں ہے البتہ قاضی کے حکم سے جائز ہوگا۔ (محیط السرخسی)

اور اس میں بچھانے کی پیال (پرال، پواں، غلہ نکالے ہوئے دھان کا لانگ، دھان کا بھوس) اگر بے کار ہو جائے اور اس کی قیمت کچھ باقی نہ رہے تو اسے نکال کر باہر ڈال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر جس کا جی چاہے اسے اٹھا کر اس سے نفع حاصل کرے۔ (الواقعات)

اور اگر اس کی کچھ قیمت ہو تو مسجد والوں کو چاہئے کہ قاضی سے اجازت لے کر اسے فروخت کر دیں۔ یہی قول مختار ہے۔ (الجواہر)

### سبیل، سرائے، چھاؤنی، مقبرہ بنانے کا حکم

قَالَ وَمَنْ بَنَى سِقَايَةً لِّلْمُسْلِمِينَ أَوْ خَانًا يَسْكُنُهُ بَنُو السَّبِيلِ أَوْ رِبَاطًا أَوْ جَعَلَ أَرْضَهُ مَقْبَرَةً لِّمَنْ يَزُلْ مَلِكُهُ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى يَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْ حَقِّ الْعَبْدِ الْآتَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُتَفَعَّ بِهِ فَيَسْكُنَ فِي الْخَانِ وَيَنْزِلَ فِي الرِّبَاطِ وَيَشْرَبَ مِنَ السَّقَايَةِ وَيُذْفَنَ فِي الْمَقْبَرَةِ فَيُشْتَرَطُ حُكْمُ الْحَاكِمِ أَوْ الْإِضَافَةُ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ كَمَا فِي الْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ بِخِلَافِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقُّ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ فَخَلَصَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ حُكْمِ الْحَاكِمِ

ترجمہ..... قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جس شخص نے مسلمانوں کے واسطے سقایہ (سبیل) یا سرائے (مسافر) خانہ بنایا یا سرحد پر رباط (چھاؤنی محافظین ملک کی رہائش گاہ) بنایا یا اپنی زمین کو قبرستان بنادیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے بنانے والے کی ملکیت اس سے ختم نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ کوئی حاکم اس کا حکم کر دے۔ اس دلیل سے کہ ابھی تک بندہ کا حق اس سے ختم نہیں ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود مالک کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ اس سرائے میں رہائش اختیار کرے۔ اور اس رباط (چھاؤنی) میں ٹھہرے۔ اور اس سبیل سے پانی پیئے۔ اور اس قبرستان میں اپنے آدمیوں کو دفن کرے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ حاکم حکم کر دے یا وہ اپنی موت کے بعد کی طرف منسوب کر دے جیسے فقیروں پر وقف کرنے کی صورت میں ہے۔ بخلاف مسجد کے کہ اس میں حاکم کے حکم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ مسجد سے نفع اٹھانے کا حق اس کے لئے مخصوص نہ رہا۔ اس لئے وہ حاکم کے حکم کے بغیر بھی اس کی ملکیت سے نکل کر خالص اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہو گئی۔ (معلوم ہونا چاہئے مسجد کے وقف کا حکم دوسرے اوقاف کے حکم کے مخالف ہے۔ چنانچہ مسجد کے



بارے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متولی کے سپرد کرنا مشروع نہیں ہے۔ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق مشترک اور شائع ہونا بھی مانع نہیں ہے۔ اور مسجد وقف کرنے والے کی ملکیت سے نکل جاتی ہے۔ اگرچہ کوئی حاکم اس کا حکم نہ کرے۔ جیسا کہ دروغیرہ میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔ (ردالمحتار) پس مسجد کے سوا دوسرے اوقاف میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی بناء پر اپنی موت کے بعد اسے وقف کر دینا یا حاکم کا حکم ہونا شرط ہے۔ تاکہ واقف کی ملکیت اس سے ختم ہو جائے۔

### امام ابو یوسفؒ کا نقطہ نظر

وَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفٍ يَزُولُ مِلْكُهُ بِالْقَوْلِ كَمَا هُوَ أَصْلُهُ إِذَا تَسْلِيمٌ عِنْدَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَالْوَقْفُ لَازِمٌ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ إِذَا اسْتَقَى النَّاسُ مِنَ السَّقَايَةِ وَسَكَنُوا الْخَانَ وَالرِّبَاطَ وَدَفَنُوا فِي الْمَقْبَرَةِ زَالَ الْمَلِكُ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ عِنْدَهُ شَرْطٌ وَالشَّرْطُ تَسْلِيمٌ نَوْعُهُ وَذَلِكَ بِمَا ذَكَرْنَا وَيُكَتَفَى بِالْوَاحِدِ لَتَعَذُّرِ فِعْلِ الْجَنَسِ كُلِّهِ وَعَلَى هَذَا الْبِيرُ الْمَوْقُوفَةُ وَالْحَوْضُ وَلَوْ سَلَّمَ إِلَى الْمُتَوَلَّى صَحَّ التَّسْلِيمُ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَفِعْلُ النَّائِبِ كَفِعْلِ الْمَنْوُوبِ عَنْهُ وَأَمَّا فِي الْمَسْجِدِ فَقَدْ قِيلَ لَا يَكُونُ تَسْلِيمًا لِأَنَّهُ لَا تَدْبِيرَ لِلْمُتَوَلَّى فِيهِ وَقِيلَ يَكُونُ تَسْلِيمًا لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يَكْنِسُهُ وَيَغْلِقُ بَابَهُ فَإِذَا سَلَّمَ إِلَيْهِ صَحَّ التَّسْلِيمُ وَالْمَقْبَرَةُ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَسْجِدِ عَلَى مَا قِيلَ لِأَنَّهُ لَا مُتَوَلَّى لَهُ غُرْفًا وَقِيلَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّقَايَةِ وَالْخَانَ فَيَصِحُّ التَّسْلِيمُ إِلَى الْمُتَوَلَّى لِأَنَّهُ لَوْ نَصَبَ الْمُتَوَلَّى يَصِحُّ وَإِنْ كَانَ بِخِلَافِ الْعَادَةِ

ترجمہ..... اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سقایہ و سرائے وغیرہ میں صرف کہنے سے اس کی ملکیت ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ اصل طے پائی ہے کیونکہ ان کے نزدیک متولی کے حوالہ کر دینا شرط نہیں ہے اس کے بغیر بھی وقف لازم ہو جاتا ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب لوگوں نے سقایہ سے پانی پی لیا یا سرائے یا رباط میں ٹھہر گئے اور قبرستان میں مردے دفن کر دیئے تو وقف کرنے والے کی اس سے ملکیت ختم ہو گئی۔ کیونکہ ان کے نزدیک متولی کو سپرد کرنا شرط ہے۔ اور ہر قسم کی چیز میں اسی کے مناسب سپرد کرنا شرط ہے۔ اور یہ بات موجودہ مسئلہ میں پائی گئی ہے۔ (یعنی سقایہ سے پانی پینا، سرائے اور چھاؤنی میں ٹھہرنا اور قبرستان میں دفن کرنا) پھر اس قسم کے کام کرنے میں صرف ایک شخص کا کر لینا ہی کافی ہو جائے گا۔ کیونکہ اس کے کل جنس کا کرنا ناممکن ہے۔ یہی اختلاف کنویں اور حوض وغیرہ کے وقف کرنے میں بھی ہے۔ اور اگر واقف نے متولی کو سپرد کر دیا تو ان تمام صورتوں میں سپرد کرنا صحیح ہوگا۔ کیونکہ متولی ان لوگوں کی طرف سے نائب ہے جن کے نام وہ چیزیں وقف کی گئی ہیں۔ اس لئے اس نائب کا فعل تمام لوگوں کے فعل کے قائم مقام ہو جائے گا۔ (اور مبسوط میں مذکور ہے کہ ان تمام مسائل میں صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے قول پر فتویٰ ہے۔ اسی پر امت کا اجماع بھی ہے)۔ (المضمرات)

البتہ مسجد کے معاملہ میں بعض فقہاء نے کہا ہے کہ جب تک اس میں نماز ادا نہ کر لی جائے صرف متولی کے حوالہ کر دینے سے سپردگی صحیح نہیں ہوگی۔ کیونکہ متولی کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سپردگی صحیح ہے کیونکہ مسجد کے لئے ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو اس میں جھاڑو دے۔ اور اس کا دروازہ بند کرے۔ اس لئے متولی کے حوالہ کر دینے سے سپردگی صحیح ہوگی۔ اور قبرستان

کا حکم اس بارے میں مسجد کے حکم کے جیسا ہے جیسا کہ بعضوں کا کہنا ہے۔ کیونکہ عرف میں اس کا کوئی متولی نہیں ہوتا ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ قبرستان کا حکم سقایہ اور سرائے جیسا ہے۔ اس لئے متولی کو سپرد کرنا صحیح ہے۔ کیونکہ اگر وہ کسی کو متولی مقرر کر لے تو اس کا تقرر صحیح ہوگا اگرچہ عادت کے خلاف ہوگا۔

مکہ مکرمہ میں گھر کو حجاج اور معتمرین کی رہائش کیلئے وقف کرنے کا حکم، غیر مکہ کے گھر کی رہائش مساکین، مجاہدین کیلئے وقف کرنے کا حکم اور اپنی زمین کے غلہ کو مجاہدین کیلئے وقف کرنے کا حکم

وَلَوْ جَعَلَ دَارَالَهُ بِمَكَّةَ سُكْنَىٰ لِحَاجِّ بَيْتِ اللَّهِ وَالْمُعْتَمِرِينَ أَوْ جَعَلَ دَارَهُ فِي غَيْرِ مَكَّةَ سُكْنَىٰ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ جَعَلَهَا فِي ثَغْرٍ مِنَ الثُّغُورِ سُكْنَىٰ لِلْغَزَاةِ وَالْمُرَابِطِينَ أَوْ جَعَلَ غَلَّةَ أَرْضِهِ لِلْغَزَاةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَدَفَعَ ذَٰلِكَ إِلَىٰ وَالِي يَقُومُ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَا رَجُوعَ فِيهِ لِمَا بَيْنَا الْآنَ فِي الْغَلَّةِ يَحِلُّ لِلْفُقَرَاءِ دُونَ الْأَغْنِيَاءِ وَفِيمَا سِوَاهُ مِنْ سُكْنَىٰ الْخَانَ وَالْإِسْتِقْيَاءِ مِنَ الْبَيْرِ وَالسَّقَايَةِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ يَسْتَوِي فِيهِ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ وَانْفَارِقَ هُوَ الْعُرْفُ فِي الْفَصْلَيْنِ فَإِنَّ أَهْلَ الْعُرْفِ يُرِيدُونَ بِذَٰلِكَ فِي الْغَلَّةِ الْفُقَرَاءَ وَفِي غَيْرِهَا التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَلَٰنَ الْحَاجَّةَ تَشْتَمِلُ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ فِي الشُّرْبِ وَالتَّزْوِيلِ وَالْغَنِيُّ لَا يَخْتِاجُ إِلَىٰ صَرْفِ هَذَا الْغَلَّةِ لِفَنَائِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

ترجمہ..... اگر کسی نے اپنے ایک ایسے گھر کو جو مکہ میں ہو خانہ کعبہ کے حج و عمرہ کرنے والوں کی رہائش کے لئے وقف کیا یا اپنے ایسے گھر کو جو مکہ کے علاوہ کسی اور جگہ میں ہو مسکینوں کے رہنے کے لئے وقف کیا یا ملک اسلام کی سرحد پر جو گھر ہے وہ نمازیوں یا چھاؤنی کے رہنے والوں کے لئے وقف کیا یا اپنی زمین کی پیداوار اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لئے وقف کی۔ اور یہ گھر یا زمین کسی متولی یا سرپرست کو سپرد کر دی تو یہ جائز ہے۔ پھر اس سے رجوع کرنے کا حق نہ ہوگا۔ ان وجوہ کی بناء جو پہلے بیان کی جا چکی ہیں (۔ جب بندہ نے اپنا حق ختم کر دیا تو وہ ہمیشہ کے لئے اپنی اصل یعنی الہی ملکیت میں لوٹ جائے گی) لیکن پیداوار کی صورت میں جو کچھ حاصل ہو وہ فقراء کے لئے جائز ہوگی اور مالداروں کے لئے حلال نہ ہوگی۔ اور اس کے سوا دوسرے منافع مثلاً سرائے خانہ میں رہائش اور کنوئیں اور سقایہ سے پانی پینے وغیرہ تو ان کے استعمال میں غنی اور فقیر برابر ہیں۔ اور دونوں صورتوں میں فرق کرنے والی بات عام عرف ہے۔ کیونکہ غلہ کی صورت میں وقف سے اہل عرف کی مراد محتاج لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ دوسرے منافع میں مالداروں اور محتاجوں سب کو برابر سمجھتے ہیں۔ اور اس دلیل سے کہ کنوئیں یا سقایہ سے پانی پینے میں یا مسافر خانہ اور رباط (چھاؤنی) میں ٹھہرنے کے معاملہ میں غنی و فقیر کی ضرورت شامل ہے۔ اور اس زمین کی پیداوار کے خرچ میں مالدار کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

چند مفید مسائل

۱۔ اگر مسجد میں کوئی درخت لگایا گیا تو وہ مسجد کے واسطے ہوگا۔

۲۔ اگر کسی نے کوئی درخت وقف کیا اس مقصد سے کہ اس کے پتوں یا پھلوں یا اس کی اصل سے فائدہ اٹھایا جائے تو وقف جائز ہو



گا۔ پس اگر اس کے پھلوں یا پتوں سے ہی نفع حاصل کرنا ممکن ہو تو اسے کاٹنا نہیں جائے گا۔ ورنہ اسے کاٹ کر صدقہ کر دیا جائے گا۔ (المضمرات)

۳۔ اگر مسجد میں مثلاً سیب کا درخت ہو تو صدر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس سے لوگوں کو روزہ افطار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ (الذخیرہ)

۴۔ ایک شخص نے لوگوں سے مسجد کی عمارت بنانے کے لئے مال جمع کیا پھر اس میں سے کچھ اپنی ضرورت میں خرچ کر دیا۔ پھر اس کے عوض اس میں ملا دیا تو اسے ایسا کرنا جائز نہ ہوگا۔ اور وہ ان کا ضامن ہوگا۔ پھر بھی وبال دور ہونے کے لئے حاکم سے اجازت لے لے۔ اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو اس کے مثل مال مسجد میں خرچ کر دے۔ اور اگر اس مال کے اصلی مالک سے ملاقات ہو جائے تو دوبارہ اس سے اجازت لینا نجات ہے۔ (الذخیرہ)

۵۔ اگر کسی عالم نے فقیروں کے لئے کچھ سوال کیا اور لوگوں نے جو کچھ دیا وہ سب ایک دوسرے میں مل گیا تو وہ عالم سب کا ضامن ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر دینے والوں نے زکوٰۃ کی نیت کی ہو تو ان کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ اس سے بچنے کے لئے فقیروں کو چاہئے کہ اس کو وصول کرنے کی اجازت دے دیں تاکہ وہ فقیروں کا مال ملا کر رکھ سکے۔ (المحیط)

۶۔ اگر کوئی شخص نیک کام کے لئے کھڑا ہوا اور اس نے فقیر کے لئے فقیر کی اجازت کے بغیر سوال کر کے جمع کیا تو یہ شخص امین ہوگا۔ پس اگر ایک کے مال کو دوسرے کے مال میں ملا دیا تو فقیر کو اپنے مال سے دینے والا ہوگا۔ اور لوگوں کے مال کا ضامن ہوگا۔ اور لوگوں کی زکوٰۃ ادا ہوگی اس لئے چاہئے کہ فقیر اسے وصول کرنے کا وکیل بنا دے تاکہ وہ فقیر کا مال ملانے والا ہو جائے۔ (المضمرات)

۷۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اپنا مال راہ خیر میں صرف کرے تو اسے چاہئے کہ فقہ کے پڑھنے پڑھانے میں خرچ کئے۔ کیونکہ نوافل عبادات کے مقابلہ میں اس میں مشغول ہونا بہتر ہے۔ اور تفسیر و حدیث کا بھی یہی حکم ہے۔ کیونکہ ان چیزوں کا نفع بہت دنوں تک رہنے والا ہے۔ (المضمرات)

۸۔ اگر ایک شخص نے مسجد میں کنواں کھود دیا اس طرح سے کہ لوگوں کو فائدہ ہوا اور کسی کا نقصان نہ ہو تو جائز ہوگا۔

بسم اللہ